

UNIVERSAL
LIBRARY


OU_232031

UNIVERSAL
LIBRARY

Checked 1966

٥٨ ف

تفتح
الدين



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله الى الخلق بشيرا ونذيرا ودعا الى الله باذنه سرا جاميرا واكرم
 المرسلين بكرامات ظهور الهداية اكراما يليغا وفتح عليه فتاجليا وغفر ذنوب الذين بشناعة
 حبيب صلى الله عليه وسلم تسليما كما قال جل ذكره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته
 عليك ويهديك صراطا مستقيما وجعل الفاجرين والمنافقين حزينيا كما قال عز وجل ويضرب الله
 ضربا عسيفا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الجبار الاعلى نشهد ان سيدنا محمدا
 عبده ورسوله ناصر منصور اصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه بنوم الايام والالام
 فيقول العبد المذنب المسكين الراجي الى رحمة رب العالمين ابو عبد الله محمد بن يحيى الدين
 ابن حامل القرآن ملا محمد سلطان الحنفي القادري الغفوري النوشهري البشاورى عفا الله عنهما
 ولوالديه ولجميع المؤمنين المسلمين بفضلك وبرحمتك يا ارحم الراحمين وفي تفسير الخازن من جلد الرابع
 تحت قوله تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير والمعنى انه تعالى عالم باحوال عباده
 ودرجاتهم وبعواقب امورهم فيقدر اثارهم على وفق مصالحهم يد على ذلك ما روى ابن مالك

عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل من اهان لى ليا فقتله بارز في المحاربة وانى لا
غضبت اولياى كناية عن حب الليث المحرور وما تقرب الى عبدى المؤمن بمثل اداء ما افترضت عليه وما
يزال عبدى المؤمن يتقرب الى بالنوافل حتى احببه فاذا احببته كنت له معما وبصرا ويدا ومؤيدا ان رعا
وان سألنى اعطيته وما تزودت في شئى اذ اناعله تودى في قبض روح عبدى المؤمن يكره الموت سناته
ولا ياله منه وار من عبادى المؤمنين ان يسألنى الباب من العيادة فانا كنعنه ان لا يدخله عجب فيفسده ذلك ان
من عبادى المؤمنين انى في مكوبات الامام ربانى الشيخ احمد بن هدى ورحمة الله تعالى قال اهل بيت الرسول
عليه السلام مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها فقد نجا ومن خالف عنها هلك وقال بعض العارفين
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة كالنجوم هم علامات يهتدون وشبه اهل بيته صلى الله عليه
بسفينة نوح عليه السلام اشارة الى ان واكب السفينة لا بد له من رعاية النجوم ليامن من الهلاك انتهى في التاريخ
سبعة عشر من شهر ربيع الآخر في ليلة الجمعة في سنة تسعة وثلاث مائة والف بقية الصباح الكاذب في علة
ثلاث بعد نصف الليل في آية في المنام سيدنا الشيخ الاسلام مقتدى الاولياء الكرام عالم الهدى الذي من
انتمى اليه كان من الامم القبط الربانى والغوث الصمدانى والمسيك النورانى القربى جامع الحقائق الاصل
الطاهر شرف الظاهر ولينا الشيخ محى الدين ابو محمد سيد عبدالقادر رضى الله عنه ارضاه جاء وقام وفي يدين
الباركين الشريفين كتابان واحد صغير مثل ثمانية من اصابع اليد عرضه وبقد شبر طوله وبقد جزئين
ضمنه والثانى كتاب كبير عرضه قد شبر واربع من اصابع اليد طوله بمقدل شبرين وضمنه بقدر عشرين
اجزاء وقال لي سيدنا الشيخ رضى الله عنه خذ هذان كتابان والصغير من مناقب سيد احمد كبير الوفاى رحمه الله
عليه الاكبر منا قى انت تكتب تطبع وهذا الرجل كمال مكاره لا تغفل لا يتعلم وانا صرت مسرور بذلك وانا
ابقظ من المنام بقريب صبح الكاذب في ما بين هذا الرواية واح سبعة اشهر وانا ذهبت الى عند الشيخ الاسلام
مقتدى الانام ذى القادر والاحترام معظمنا ومكرمنا الشيخ السيد محمد صالح الحسنى الحسينى الجليلى البغد
رحمته الله عليه في شهر بقدر سنة مذكورة لقيت فحاست عنده وانا سألت من حال كمال الدين ومشتقى
فقال لى انا اعرف بلاده غير بلادى غير انا قلت وحكى الرواية هكذا انى آية غوث الانام رضى الله عنه

في المنام قال لي مولانا السيد محمد صالح الحسيني الحسيني علي الرحمة فابن حلية الشريف انا بتيت وبعيتك عنده
حلية الشريف ووجه الشريف احمر اللون مثل النفاح وربع القامة وعريض الجبهة الابيض الاسود مخلوط و
ومقرن الحاجبين وعريض الصدق وعريض الذقن يده الكريمة ملاءمة مثل الابيضيم والعمامة الاخضر على
راسه زنبال العمامة عند الاذن الاليسر وجبهه الابيض هكذا حلية الشريف بعد سماع كلامي قال لي مولانا
الشيخ السيد محمد صالح عليه الرحمة اللهم بارك فيك وانصر عليك واكتب لرد علي الخالفين المنكرين وبعد سمعت
الي اخذت كتب من الصوفية الرفاعية الاول صحاح الاخبار طالع نفوس جانب نسبة الشريف واثبت عنده وقال الله
اعلم والثاني كشف النقاب عبارته مثله والثالث روضة الناظرين وعبارته قال بعض الناس ينسب الي علي
ابن ابي طالب صلى الله عنده وهذا تعصب فيهم وتجاسر عظيم نعمود بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا
من بهاء الله فانه مصل له ومن يضلله فلا هادي له وسعيت الي الايطاق الي غاية التحقيق في هذا النسب
الشريف واشترت من كتب المتقدمين المجتهدين مثل الامام عبد الله اليافعي الشافعي اليميني خلاصة
المنافع ولوائح الانوار القطب لشعراني رحمه الله عليه وزيارة الاسرار للشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي
رحمته والعالا الكبير للوزع والحدوث مولانا علي القاري رحمه الله الباري في تهنئة الخاطر للشيخ محمد يحيى التارفي الخليل
في قلائد الجواهر والشيخ علي الشطنوفي في هجته الاسرار ومن واحد الى احكام ما بين كتب من المورخين ومن كتب الفقهاء
والمحدثين ومن كتب مشايخ الكرام من التقشيرية والسهروردية والجهتية رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين
ثبتت بشواهد العداك الثقات نسبة الشريف حضرتنا ان شاء الله اعلم القائل الخلاف
رضي الله عندهما التقية اليه رت
اهل الطغى للشعوب سابقه
وفي مستندة عشر فصول الباب الاول في بيان نسبة الشريف من جانب الاب هو يتصل الي امير المؤمنين الاما
سيدنا الحسن السبط رضي الله عنده بالتواتر وباجماع الامة فانظر يا اخي وانصف الفصل الاول في بيان نسبة
الشريف من جانب الام وهو يتصل الي سيدنا الهادي امام حسين رضي الله عنده الفصل الثاني في بيان فضيلة
امه الشريفه وعمه الكريمه الفصل الثالث في بيان قال الشيخ سيدنا رضي الله عنده كل ولي علي قادم نبي وانا علي قد

بعزیز محمد با محمد و پروردگار و درود و سوره فاتحه بخواند و در عالم صلی الله تعالی علیه علی آله و اصحابه المکرم میگردد و بینه گدازد
 و ارامید و در زنده رب العالمین مسکین محمد مهدی الدین الحنفی القادری الغفوری الزهیری من تلامیذ
 شیخ الاسلام و المسلمین زبده العارفین المتکلمین بحل الله التین مجرب الدین مولانا شیخ عبدالغفور غفره الشکور المعروف
 به حضرت ابو بصاحب نوات علی الرحمة و التیامین التماس بحجاب حضرت اهل سلام آکرم سبب تصنیف این کتاب است طلب سبلی
 سحبه البیضا فی رد اهل الطغی النسب بنات العزیزیه فی رد الفایزیه المشتبه بهمین بود که کمال الدین نام فارسی از مشفق
 و برتری رسیده بود و در این انکار از نسب شریف حضرت غوث الثقلین رضی الله عنہ داشت و ظاهر او دعوی
 میگردد و میگفت که مرتب جناب سید احمد کبیر رحمة الله علیه اعلی و بهتر است از جمیع طرق خواه تشبیهی خواه پیشینی خواه
 سهروردی و در نزد من درس میخواندند کتب فارسی شبی دعوت مولود شریف و او و بجزانش حاضر شدیم نام جناب
 محبوب جانی را ذکر گرفت و بر سلام برخواستیم و در سلام مولود شریف اسم جناب سید احمد کبیر را همراه حضرت صلی الله
 علیه و سلم گویا گرفت بعد از تمام دعا استفسار در مجلس عالم از ایشان کردم که در سلام مولود شریف خاص بهم حضرت
 صلی الله علیه و سلم خوانده میشود و دیگر صحابه رضی الله عنهم داخل نیست این همراه کردن جناب سید احمد کبیر رحمة الله علیه نکاح است
 و بعد از آن گفت که جناب سید احمد رحمة الله افضل از همه اولیاد است تا که از حضرت امام حسن بصری رضی الله عنه باشد
 همراه آن کردند آن وقت بنفقان سید اناجیال هم گفت مولوی صاحب برین فکر کرده است گفت خوب نوشته به بهر خود که حضرت
 غوث الثقلین رضی الله عنه سادات اند و افضل و اکمل اولیاد الله اند و قدوم ایشان را کمل اولیاد الله که ام قبول کرده
 اند و وضع کتاب نموده اند نوشته اند و صحبتی در میان است که در آن جمیع همه ماه سید الشانی در کتب خود
 مسخر علی بازار جناب بود و در کتب سید احمد کبیر رحمة الله علیه در کتب خود در کتب سید احمد کبیر رحمة الله علیه
 حضرت شیخ الاسلام و المسلمین غوث الثقلین و قلب المحققین محبوب جانی حوت صادق و صادق صلی الله علیه و سلم
 محی الدین ابو حمزه عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه شرف شریف دیدم که در بسیار روزانی پیوسته بر او نشاند و پیشانی و گندم
 گون مثل سبب سرخ و سفید و سیاه پیشم و خوش چهره بود ستار سبز بر ایشان نقش و ستار جاب گوش چپ گذاشته اند
 چه سفید چه سیاه و در کتاف او ستاره و در دست مبارک ایشان دو کتاب است و در سینه مبارک ایشان بسیار طایم است
 پیشم بود و در کتاف سینه یکی کلان که عرض یک یا شش چهار انگشت و در رازی مقدار دو انگشت و غصصی یعنی جهم

آن بقدر رمیت جزه و کتاب مجر و بعضی هشت انگشت و بدلازی یک باشت و حجم آن بقدر دو جرد و فرمودند که بگیر این هر دو
کتاب و کتاب کلان مناقب من است و کتاب غر و مناقب سید احمد کبیر رفاهی است رحمة الله علیه تو خواهی نوشت طبع خواهی
کرد و این هر دو کمال نام مکار است ازین غافل باش و این را قسملیم کن و درین اثنا از خواب بیدار شوم ساعت را دیدم که چنان
بجز قریب صبح کاذب بود خواب را نوشته ماندم و هفت ماه گذشت بعد از آن عذبت ماه و آخر شوال رفتم بخدمت شریف جناب لایق
حضرت مولانا صاحب صحیح جینی بندوی رحمة الله علیه با اوقات کردم و شرف شدیم استقبال کردم از جناب ایشان که سید
کمال الدین رفاهی رامی شناسید فرمودند منی شناسم ولایت ما و شهر ما و بگریست ولایت و شهر آن دیگر است و دفعات میریزم رزی
و راه و واقعۀ احوال رفتم و جناب ایشان بر سفر و شسته بودند طعام تناول نمودند و غذا دم ایشان حاجی محمد استاده بود و گفت
یا مولانا مولوی صاحب آمده فرمودند مطلب مولوی صاحب را رفتم و فرمودند و سهارا بشوید و سهارا شستم و عرض کردم
که من بجز آب جناب محبوب جانی را شرف شده ام و در فرمودند و آنکه در نزد کمال نام زوید و در رس گوید و شیطان بصورت
او یا الله نشود و جناب میفرمایند که من اولی شناسم تعجب است بعد از سماع گفتار من فرمودند که چه طور است علیه یعنی چه
شریف حضرت غوث رضی الله عنه عرض کردم که کشاده پیشانی و پیوست برو و گندم کون بر سر مبارک ایشان دستار سبز
فش و دستار زرد گوش چپ و در ایشان سفید و دستهای مبارک ایشان طلیم مانند ابریشم فرمودند که تکلم عربی میکند یا بفارسی
یا بهندی عرض کردم که عربی فصیح بعد از آن فرمودند که برکت و بار خداست علی شما و نصرت به شما را و بنویس در ایشان بعد از
تجسس کردم چهار کتاب از کتب رفاعیه بر تن آمدن یکی صحاح الاجار که در آن جانب نسب شریف را و الله اعلم گفته و بعد از
و لایل آورده و دوم کشف النقا با مطالعۀ دوم سیم غمات الایب چهارم رونده الناظرین را و دیدم در آن نوشته که بعضی گفته اند
نسب شیخ عبدالقادر بلخی متعصب است در سماعی شدم و نسب شریف ایشان آرا ثبت است و صحت نسب شریف ایشان از دو صد و
یک کتاب شده چنانچه تحریر یافته است از کتب معتبره مثل امام عبدالمدنی شیخ عبدالحی میث الدلوی و مولانا علی القاری و شیخ
محمد بن یحیی التادوی المصنوع صیغ بناری و شیخ علی شطرنوی و سید محمد شریف و طبقات امام شعرانی محقق کردید امیدوارم که بجزه البیضانی رد
اهل الطغی المنسوب بناتب العویش فی رد الافاقه الذمیه نام نهادم و مرتب گشت بجای باب اول در بیان نسب شریف حضرت غوث
الاعظم رضی الله عنه از دو صد و یک کتاب ثابت شد و تواتر و اجماع نسب شریف از جانب پدر که متصل است بحضرت امیر المؤمنین سیدنا امام حسن
رضی الله عنه رسید و تواتر و فصل است درین فصل اول در بیان نسب شریف بنانیا و که حضرت امیر المؤمنین سیدنا امام حسن رضی الله عنه

میرد فصل دوم در بیان فضیلت او و ایشان و در ایشان فصل سوم در بیان آنکه حضرت غوث الاعظم رضی الله عنده فرمودند که هر چه در
 قدیم است و در هر قدم جدید و امام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این نیز شرف است بر نبی شریف فصل چهارم در بیان آنکه حضرت
 غوث الاعظم رضی الله عنده فرمودند که هر چه در این وجود عبد القادر است بلکه در وجود جبرئیل است صلی الله علیه و سلم این نیز واضح گشت که
 حضرت غوث رضی الله عنده چهار سیادت خود کرده اند فصل پنجم در بیان آنکه حضرت غوث الاعظم رضی الله عنده فرموده اند که در پی رسول
 خدا صلی الله علیه و سلم بر کسی و فرزند او پیوستن بر حکم نیستی و عطف و عرض کرد که من در پی ام فرمودم و من باز گشاید که در پی من است با
 و من من اذنا من انبأ شریف خود را این نیز شرف است بر صحت نسب شریف فصل ششم در بیان آنکه که حضرت غوث الاعظم
 رضی الله عنده در دیده مسوره رونق افزا شدند و شرف بدولت مصفا فرمودست مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم گشته اند
 فصل هفتم در بیان آنکه شیخ ابوسعید قیلوی رحمه الله علیه گوید که در پی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو دیگر انبیاء علیهم السلام را در
 مجلس شیخ سعید القادر رضی الله عنده فصل هشتم در بیان آنکه حضرت غوث الاعظم رضی الله عنده فرمودند که در خواب دیدم
 حضرت عایشه صدیقہ رضی الله عنده را و گوید که ایشان راست از او جدا زان می گوید چنانچه چپ را نظر مبارک حضرت صلی الله
 علیه و سلم بر من افتاد و فرموده اند تا این پس بر میان است حق این نیز شرف است نسب شریف است فصل نهم در بیان آنکه حدیث شب
 معراج که شرف شد روح من بیدار شد من صلی الله علیه و سلم این و آل است بجهت نسب شریف فصل دهم در بیان آنکه حضرت غوث الاعظم
 فرمودند که شرف ششم من بیدار انوار نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر من فصل یازدهم در بیان آنکه شیخ علی بن اوسینی در زینب و خطاب
 شرف شد بیدار حضرت صلی الله علیه و سلم و حضرت غوث الاعظم رضی الله عنده از من فرموده اند و با او است تا او شیخ علی گفت من در
 خواب دیدم و حضرت شیخ سعید القادر رضی الله عنده در بیداری اشرف شدند فصل دوازدهم در بیان آنکه شیخ بقابن بطور جزیره الله
 علیه گوید که در پی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بیع چهار یا که بار نبی الله هم در مجلس سعید القادر رضی الله عنده
 فصل سیزدهم در بیان آنکه حضرت غوث الاعظم رضی الله عنده فرموده اند در پی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در بنیاد او زن
 بر کسی بودم و حضرت صلی الله علیه و سلم سوار بود بیع موسی علیه السلام از فصل چهاردهم در بیان آنکه اباعبدالله علی بن ابی طالب که
 دیدم در خواب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب از فصل پانزدهم در بیان آنکه درج کرده است خضر علیه السلام
 حضرت غوث الاعظم رضی الله عنده از فصل شانزدهم در بیان آنکه درج وصف کرده است حضرت غوث الاعظم
 رضی الله عنده را سید احمد کبیر رفاعی رحمه الله علیه از او شایسته شریف ایشان و مع اختلاف بعضی آن است

والحسين رضي الله تعالى عنهم بما حسبت الابتداء الذي عليه مدار الانتهاء متواتر صحيح ثابت ظاهر كظهور الشمس في رابعة النهار لا يقبل المحممة والبنزاع والتاويل والدفاع كما عليه الاجماع وغما للمبتدعة الرضاة اهل الزيغ والنعاوة والشقاق حفظنا الله والمسلمين من كين الحاسدين الضالين المضلين الذين يمسدوا الناس على ما اتاهم الله من فضله وهو ارحم الراحمين انتهى الحج وفي الفتاوى العالم الكبرى من انكر المتواتر فقد كفر ومن انكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى ابن ابان يضل ولا يكفر وهو الصحيح ومن انكر خبر الواحد لا يكفر جاحدا انتهى وفي الفتاوى المعصومية المسمى بفتاوى اهل بخارا في المحيط ويجب ان يعلم المتواتر والمشهور وما كان من خبر الاحاد لان المتواتر واجب العمل به قطعا يكفر جاحده المشهور واجب العمل به الا انه لا يكفر جاحده ولكن يخشى عليه المأثم انتهى وقال لعالم الفاضل سيدنا عبد الغنى النابلسي في الحديقة النديرة شرح الطريقة المحمدية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى ونضله جحيم وسأت مصيرا وقال البيضاوي والآية تدل على حرمة الاجماع لان تعالي رتب الوعيد الشديد على المشاققة واتباع غير سبيل المؤمنين انتهى وفي السنن الترمذي حدثنا ابو بكر بن نافع البصري حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتي او قال امّة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شدّ شدّ الى النار هذا حديث غيره من هذا الوجه وسليمان المدني هو عند سليمان بن سفيان وفي الباب عن ابن عباس حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله الجماعات حد صحيح انتهى

وقال ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع امتي او قال امّة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شدّ شدّ الى النار هذا حديث غيره من هذا الوجه وسليمان المدني هو عند سليمان بن سفيان وفي الباب عن ابن عباس حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله الجماعات حد صحيح انتهى

ترجمه یعنی معنی عبارت کتاب صحاح الاخبار مطبوعه بمبئی صفحه بیست

گفت بخالف که گفته است سید عمید الدین نجفی بدرستی که الحاق کرده است یعنی نسب سیادت
 را قاضی ابوصالح ابن سید عبدالرزاق ابن حضرت غوث الاعظم رضی الله عنه به محمد پسری نیست
 دلیل در نسب سیادت ایشان در انساب و کسانیکه قائل شده اند که نسب سیادت ایشان بصحت
 رسیده است جماعه از جابلان انداز طریق شیخ عبدالقادر و بعضی ابله یعنی نادان انداز جماعت صوفیه
 یا از فقهای این دارا و قوف نیست و ندارند در علم نسب **جواب** این است که گفته سید عمید الدین
 نجفی مرد درست و غلط محض ^{و جهل} صریح است بدلیل ایه کتاب خدا تعالی یعنی قرآن شریف و به حدیث
 رسول علیه السلام ایه این است قوله تعالی ولكن المنفقین لا یفقهون که منافقان نمیدانند و نمی
 فهمند و وصف کرده است خدا تعالی فقهارا قوله تعالی ومن یتوقی الحکمة فقد اوتی خیرا
 کثیرا و قال تعالی لیتفقها فی الدین و در حدیث صحیح بخاری شریف و در دست ^{ترجمه} القاری
 شرح البخاری و قال النبی صلی الله علیه و سلم من یرد الله به خیرا یرد الله به خیرا یرد الله به خیرا
 فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی که میخواهد خدا بوی نکوئی را پس بفهم میگردد اند او را در امور دین حق است
 و در حدیث سنن الترمذی است که فرمودست پیغمبر علیه السلام در حق فقها که یک فقیه سخت تر است
 بر شیطان از هزار عابد حدیث تحریر یافته حاجت نگر نیست و عالم علامه و جبر فیهامه المشیه المعنی
 مولانا علی القاری رحمه الله الباری در کتاب نزهة النخی طر گفته است که شک و شبهه نیست در نسب
 شریف غوث الاعظم قطب الاکرم محبوب سبحانی غوث الصمدانی الشیخ السید عبدالقادر الحسینی
 الحسینی البغدادی الجمیلانی رضی الله عنه سیادت ایشان صحیح و ثابت و مستحق است مثل افتاب
 نصف النهار و بحد تو اتر رسیده است نسب شریف و اجماع شده است برین که محبوب
 سبحانی رضی الله عنه نیت یازند و از نسل و صلب سادات اند از جانب پدر او امیر المؤمنین
 سیدنا امام حسن مجتبی اند و از جانب مادر او امیر المؤمنین سیدنا امام حسین شهبازی
 رضی الله عنهما و انکار کسی مگر بهت مگر مبتدع رافضی که در دل حسد و نفاق و بغض دارد و گمراه است

فی الخطب السنخسی
 فانما انما انما الاوس
 و افضل العالی علی الجبر
 بعد معترف اصل الدین
 و الذین معترف القدر الکمال
 الفاضل بین الملک النور
 قد سمی الله تعالی ذاک
 علی کثر القوله تعالی
 و من ذک الحکمة فقد
 ایدیه فی الذین فسر اصل
 النفسی الحکمة القدره
 علیه السلام ما عند الله
 لیس فی افضل من القدر و النور
 واحد انما علی الشیطان
 من الذی ایدیه و عن
 الی صیادیه و فی بعض التقای
 قال قال رسول الله صلی الله
 علیه و سلم اصله
 علیهم السلام

جہنم میں اور بری ہیں وہ اسی بہائی صاحبوں تم اس تفرق دہلنے سے بچو کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانہ لیس احد یفارق الجماعۃ شبرا فی موت الامات میتة جاہلیة یہہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور مصداق اس حدیث کی ہو واتبعوا السواد الاعظم فانہ عن شد شد فی النار یہہ روایت مشکوٰۃ میں ابن ماجہ وغیرہ سے نقل کی ہے اور نب شریف اور سیادت حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث صمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر الحسن الحسینی الجیلانی نے رضی اللہ عنہ کا کیمبر پچاس کتاب سے ثابت ہے اور عبارت ہر ایک کتاب کی اور نام کتاب کا و مصنف کا اور صفت مصنف کی تحریر کی ہے باب اول اسی کتاب میں تحقیق سب تحریر ہے اور عبارتیں درج ہیں نظر انصاف سے دیکھو اور گنہ سے بچو اور پہلا باب اور سب باب اس کتاب کے و فصول تین زبانیں تحریر ہیں اول عربی دوم فارسی سوم ہندی مقصد و مطلب واحد ہے

الباب الاول فی بیان النسب محبوب سبحانی والقطب الزبانی والغوث الصمدانی والقندیل النورانی الغوث الاعظم والقطب الاکرم شیخ شیخ العالم سید السادات شیخ الاسلام والمسلمین الشیخ محی الدین السید عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی نے رضی اللہ عنہ صحیح النسب کریم الحسب برواۃ المتعددات المتواترات من الثقات العلماء الکاملین العالمین للتورعین المورخین صاحب المحاسن والتصانیف کما ینہ ثبتت بشواہد لعدول والثقات من المعترات کما ورد فی کتب المعترات فانظر یا اخی وقول اهل الزيغ والنفاق والشقاق بعید من الانصاف والاسلام بل هو منکر خارج عن جمهور اهل الاسلام الاول قال امام العلامة شیخ الاسلام

لاقامة الدلیل علی ما هنا
النسب الشریف علی ما هنا
البیوان الثابت البیان
المشهور فی کل مکان کما
قال الشاعر
ولا یصح فی الاصل
ان الساج الساج الذی
الذی صفی
مطین
وقال امام عبد الله
ابن ابي الشافعي
وتم انقله یانی رزق
الرباحین وکلان التبع
الامام استاذ الاکابر
الجامع بین العلم والدين
الظاهر العبد النبیل
والشرف النبوی الفاضل
السید الجلیل عبد القادر
قدس سره روحه نور
شرفه انوار علی
ص ۲۵

زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن ابن الامام شهاب الدين احمد بن رجب
 الحنبلي البغدادي ثقة الدمشقي في طبقاته التي فيها في اصحاب الامام
 احمد حنبل رضى الله عنه ذكر ترجمة حضرت مولانا وسيد ناسيد
 الاولياء وامام الاصفيا السيد ابو محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني
 الحسيني رضى الله عنه هو سيد عبد القادر بن سيد ابي صالح
 موسى جنكي دوست ابن السيد عبد الله الجبيلي ثم البغدادي الزاهد
 شيخ العصر وقدوة العارفين وسلاطان المشايخ وسيد اهل الطريقة
 في وقته محي الدين ابو محمد صاحب المقامات والكرامات والمعارف
 والاحوال المشهورة ويتصل نسبه الى علي بن ابي طالب رضى الله عنه
 فيزيد بعد عبد الله بن السيد يحيى الزاهد بن السيد محمد بن
 السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى
 الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن امير المؤمنين
 سيدنا امام حسن بن امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضى الله
 عنهم ولد سنة سبعين واربعمائة او سنة احدى وسبعين
 بكيلان انتهى الثاني قال الفقيه المنبديه العلامة الامام الاكمل
 ابو عبد الله السيد حسن بن عبد الرحمن الاهدل الحسيني اليميني الشافعي
 في تاريخه المختصر الفدر سنة (٨٢٤) عند ذكر حوادث سنة (٥٦١) مانصه
 وفيها تو في قطب الاولياء محي الدين السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح
 موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد بن السيد
 داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد
 عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن سيدنا امام الحسن بن سيدنا

وفي معنى على فتح
 القادر رضان ان في
 وفي اهل الإجماع كما
 التواتر لان التواتر
 خبر ثابت على السنة
 على سيد الاقلاق اصله
 آحاد من غير تواتر
 وفي اهل الإجماع كذلك
 لان اصله آحاد فقير
 وفيه راجع عليه بعد
 القطع فيه اهل الإجماع
 ليس خارجا عن هذين
 الذين فيكون خبرا
 يكون سبب العلم بانه
 الحق وانما قال في حكم
 التواتر وانما قال في حكم
 لان التواتر يستعمل
 الحسبات وليس كذلك
 ١٤

عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في تاريخه ابو محمد السيد عبد القادر
 من اهل جيلان امام الخنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح دين خير كثير الذكر
 دائم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه انتهى السابع قال محب الدين محمد
 بن النجار في تاريخه السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح جنكاد وستان اهد
 من اهل جيلان احلاما للمسلمين العاملين بعلمهم صاحب الكرامات الظاهرة ذكر
 انه دخل بغداد في سنة ثمان وثمانين واربع مائة وله ثمان عشرة سنة فقراء الفقه
 واحكام الاصول والفروع والخلاف وسمع الحديث واشتغل بالوعظ الى ان برز فيه
 ثم لازم الانقطاع والخلوة والرياسة والسياسة والمشاهدة الشديدة وتعمل الاحوال
 المشقة والدخول في الامور الصعبة من مخالفة النفس وملازمة السهر والجوع
 والمقام في الخراب والصحارى وصحب الشيخ حماد الدباس الزاهد واخذ عنه علم الطنج
 ثم ان الله اظهره للمخلق وادفع له القبول العظيم عند الخاص والعام انتهى الثامن
 قال لعلما محمد بن شاكر بن احمد الكندي المتوفى (٧٢٢) في الجزء الثاني من تاريخه
 فوات الوفيات ذيل تاريخ ابن خلكان مانصه السيد عبد القادر الجيلاني ابن
 ابي صالح موسى جنكي دوست يذتهى نسبه الى الحسن بن علي رضي الله عنهما
 الشيخ ابو محمد الجيلبي المحدث المشهور الزاهد صاحب المقامات والكرامات
 شيخ الخنابلة رضي الله عنهما انتهى التاسع قال الاستاذ الامام العلامة
 زين الدين بن عمر بن الوديعي في الجزء الثاني من تاريخه عند ذكر حوادث سنة
 (٥٦١) مانصه وفيه ابي ربيع الاخرتوني الشيخ السيد عبد القادر بن ابي صالح
 موسى الجيلبي ببغداد ومولده سنة سبعين اربعمائة وهو جنابي المذهب قلت
 هو الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر بن ابي صالح موسى جنكاد واست
 بن ابي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى بن الجون

في المشافى
 شرح البيضاوي
 فيفيد علم اليقين
 به قال قاضي خان
 عند الله والدين
 في شرح مختصر الاصول
 وهو من تصانيف
 ابن الحاجب في التلخيص
 الاخير في الوفايع
 وانظر في بيان احوال
 منها اشتمل على معنى
 مشترك بينهما
 حجة النسخ والاشارة
 حصل العلم بالقدمان
 الشرفان

تأليف مسكين محمد مردي محي الدين الحنفى القادر

بن عبد الله المحض الجبل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله
 عنهم سبط السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد ينسب الى جيل انتهي
 العاشر قال العلامة والحبر الفهامة الحافظ زين الدين بن رجب في طبقاته السيد
 عبد القادر بن السيد ابي صالح عبد الله جنكي وست بن ابي عبد الله الجيلي
 ثم البغدادي الزاهد شيخ العصر وعلامة الصالحين وقدوة العارفين وسطان
 المشايخ وسيدا اهل الطريقة محي الدين ابو محمد الى ان قال في اثناء توجهه ظهر للناس
 وحصل له القبول التام وانتصر اهل السنة الشريفة بظهوره واتخذ اهل البدع
 والاهواء واشتهرت احواله واقواله وكراماته ومكاشفاته وجاءته الفتوى من سائر
 الاقطار والبلاد وهابه الخلفاء والوزراء والملوك فمن دونهم انتهى كلامه لمنحصر
 الحادي عشر قال القطب الرباني والهيكل الصمداني العارف بالله سيدي
 عبد الوهاب الشعراني في طبقات الكبرى المسماة بلوائح الانوار في طبقات الاخيار
 ومنهم ابو صالح سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه وهو ابن موسى بن
 عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون
 بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله
 عنهم اجمعين ولد رضي الله عنه ستة سبعين واربعائة وتوفي سنة احدى
 وستين وخمسائة ودفن ببغداد رضي الله عنه انتهى الثاني عشر قال
 العلامة الامام عفيف الدين عبد الله بن اسعد لياقني اليميني الشافعي تعبد الله
 تعالى برحمته في مرض الرباحين في حكايات الصالحين وحكي ان الشيخ الامام
 استاذ الاكابر الجامع بين العلم الباطن والظاهر الحسين بن الحسين النسيب الشريفي
 النبوي الفاخر السيد الجليل عبد القادر الجيلي في قدس الله روحه ونور
 ضريحه طلب من بعض الناس وديعة كانت عنده لبعض الغائبين فامتنع

الربيعي القادري
 هتم العصف ووزار
 في تاريخ حاتم بن ابي
 عبد الله بن ابي
 من اهل البر
 في تاريخ قلوبنا
 من وجوده في
 وان اهل العلم
 من
 تلك القضايا
 على رضي الله عنه
 في عهد من
 في خبير
 في احد
 انزل في احد
 في ذلك فان
 بالانتم
 رضي الله عنه

من شيوخها

من شيوخها

من تسليمها اليه وقال له لو استفتيتك مثل هذا ما فتيتني بتسليمها الى غير صاحبها فلما كان بعد ذلك بزمن يسير جاء كتاب صاحبها الى المودع المذكور وهو يقول سلم الوديعه الى الشيخ السيد عبدالقادر فقد صارت للفقراء فسلمها اليه فكتب عليه الشيخ وقال تهمني في مثل هذا رضى الله تعالى عنه ونفعنا به قلت واليه ينسب اكثر شيوخ اليمن ومنهم من ينسب الى الشيخ الكبير العارف الشهير ابي مدين قدس الله روحه ونور ضريحه هذا شيخ المغرب والاول شيخ المشرق اعنى الشيخ السيد عبدالقادر وهو القائل رضى الله تعالى عنه

او في الزمان مكانة مخصوصه	الا ومنزلتى اعز و اقرب
وهبت رونق الايام وصفوها	فصفت مناهلها وطاب المشرب
انامن رجال لا يخاف جليسهم	ريب الزمان ولا يرى ما يرهب
قوم لهم في كل محجد رتبته	علويةا وبكل جيش موكب
انابلل الافراح امهلا روحها	طربا ربه العلياء بازا شهب

رضى الله عنه ونفعنا به امين انتهى الثالث عشر قال لعالم العلامة عز الدين احمد الفاروقى في كتابه النفحة المسكية الرفاعية بما نصه ان بعض الصوفية ذكر نسبه السيد الشيخ عبدالقادر الجيلاني حرم عليه كيلا يطعن في نسبه من لاعلم له لما اشتهر عنه من العجم ولما قيل من كونه بشيرى والاصل الصحيح انها هو رجل فاطمي لا ريب فيه في نسبه الى الجدا الاعظم صلى الله عليه وسلم سكن اجزاده فارس الى زمن قدس سره رضى الله عنه وهذا ما يجب علينا اعتقاده فان الاولياء اعلم منا بالادب الديني والوجه الشرعي ولو لم تكن نسبتنا ثابتة الوصول ما ادعاهما قط انتهى الربع قال الشيخ تقى الدين الواسطى رحمة الله عليه في كتابه البهجة الرفاعية الكبرى ما نصه ان الغوثية هي الراسية للعلقة

تبعه وقد ترقى ذلك منه وان كان شئ من ذلك الجوزيات لم يسلح ونجى القطع واعلم ان الواقعة الواحدة لا يفتن السخاوة وشجاعة بل القصد الشريك من الجوزيات ذلك وهو من لان احواله بعد قطعها على العادة انما في شرح العقائد النسوية

في الاولياء لان تكون في كل العصر الا الواحد من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المقام المعروف بالقطبية وقد ذكرت عن الشيخ عبدالقادر الحسيني رضي الله تعالى عنه انه انتهى الخامس عشر قال ابن ربيعة الاشرافي في التروضة وقد انتقم الله من وزير الامام الناصر المعروف بابن يونس الظالم بحسده وحقداه وبغضه وتعديه وسوء نيته وقبح طويته لا ولا سلطان الا لياء وبرهان الاصفيا مجدد شريعته جدّه البشير النذير مولانا وسيدنا شيخ الاسلام ابي محمد السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني ابن ابي صالح موسى جدي وست ابن عبد الله ابن يحيى الزاهد الحسيني البغدادي رضي الله عنه وعنهم اجمعين عند موته صار يخرج الغائض من فيه وتخرق جميع جسده وسأل منه القيح وخرج منه الدود وانتنت رائحته وكرهته اهله وندم على ما فعل يوم لا ينفخ الندم ومات على سوء حال حمانا الله واياكم من التعدي والظلم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واوليائه ثم ان الخليفة في الحال اعادهم الى بغداد الى اماكنهم واعتذر لهم واكرمهم واعزهم واحترمهم وعظّمهم وقلد بعضهم المناصب العالية وعول عليهم وقرّبهم لذيده وماربك بغافل عما يعملوا الظالمون انتهى السادس عشر قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ان كراماته قدس سره نقلت تواترا بخلاف كرامات غيره من الاولياء فانها نقلت احادا وفي هذا القدر ما يكفي في التنبيه على جلالة قدره قدس سره واما الدليل فلا يحتاج اليه وليس يصح في الاعيان شئ اذا احتاج النهار الى دليل على ان الامر غني عن التنبيه ايضا كما لا يخفى ثم رفع نسبه الى الامام الحسن رضي الله عنه بهذا الوجه فقال حضرت الشيخ السيد عبد القادر ابن موسى ابي صالح ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى الثاني بن عبد الله الصالح بن موسى الجوني

منها ما نقلت
 الا حديث العارضة
 في باب القضاء والقدر
 ويكون الكليات بتقدير
 العقاب والى وشبهه وان
 كانت احاد الا انها
 مؤثرات المعنى كخبره
 على فضله عن
 وجوبها وهو
 سدا كقول الشيخ
 في النهاية فاعلموا
 خبر التامين من ينفع
 اناس ومنه ان فيها
 اغفال مرادها بقوله
 قولنا في

بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن السيدة فاطمة
 رضى الله عنها بنت سيد الاولين والاخرين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى
 آله وصحبه اجمعين انتهى السائح عشر قال العلامة الاوسى المتقدم
 الذكر رحمه الله تعالى في كتابه طراز المذهب شرح قصيدة الباز الاشهب
 للمرحوم الاديب ومن له في البلاغة والفصاحة الكعب العجيب عبد الباقي
 افندي العمري عند قوله كم خواف من حضرة الباز لاحت حين وافي ولا فؤاد
 اجدل وبعد ان اتى بما يلزم من شرح الخواني والحضرة والباز و اراد بالباز حضرت
 مولانا الغوث الصمداني والهيكل الزباني الشيخ السيد عبدالقادر الكيلاني
 قدس سره وغمر نابره وهو على ما شذرة الذهب ابن ابي صالح جنكرد وست
 بن ابي عبد الله عبد الله بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله المحض
 بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله تعالى وجهه وهو سبط
 سيد عبد الله الصومعي انتهى الثامن عشر قال لعارف الجليل العالم
 الطويل ولي الله الشهير صاحب المقام القدسي الشيخ عبدالغنى لنا بالمشي
 النقشبندى القادري طريقة قدس سره العزيز يمدح هذا الامام الجليل
 الغوث الاعظم النبيل بازان الله الاشهب والسيف الاشطب سلطان الاولياء
 والصالحين مولانا وقد وتنا ومفرغنا ابا صالح السيد محي الدين عبدالقادر
 الحسيني الحسيني بجيلا في الحنبلي رضى الله عنه بهذه القصيدة الغرأ وهي

ظهرت شمس طواع العرفان	بالشيخ عبدالقادر الكيلاني
قطبا لوجود بحر كل حقيقة	محفوفة بقواطع البرهان
هو بلبل الافراح طبق كلامه	يشد ويرونق بهجة الاحسان
وانت له عن اذن خالق العلام	فبداء بعز تحكم السلطان

تأليف مسكين محمد سعيد محي الدين الخفيا القادري الشافعي

باني جامع شمسك
 عاقله فسطوح انوار
 ما تولى الله يقو
 ولا يكتمون الشهادة
 وبناد الاسلام علم
 شمس بين امثال ما
 امر الله تعالى به
 ما نهى الله عنه
 ومنها استخبار
 الاكلام الثابت
 نيام بين العباد
 والاعظام القادر
 بين اهل البلاد

عن كشف حق عنده وبيان
 خضعوا المظهر فضل الانساني
 من سنة المختار والقسمان
 شهدت بذلك ائمة العرفان
 يعلمون في اهل كل زمان
 ظلمات اهل النجى والطغيان
 في آل بيت الصطفى العبداني
 قد نلت من ربك الرحمن
 بك دارك الاخرى الى رضوان
 كملت فليس لتلك من نقصان
 همم الرجال تروم رفعة شان
 شأته عن اذن من الديان
 والخلق في ذل به وهو ان
 في كل عصر ينقضى واوان
 ينويه او يهديه للايمان
 هو واضع الاسباب كالميزان
 قد شاء فضلا كان في رحمان
 هو لا يزال وكل شئ فان
 بشر جميع الانبياء دوان
 من بيدهم بمراتب الايقان
 فسقوا من التفتي خرق حان

وله المعارف والعلوم بره
 والا ولياء جميعهم في عصره
 وطريقه يهدي الى وج التقى
 ما بين اخلاص وتوحيد كما
 هو حنبلي زائد الورع الذي
 يا جوهرا الشرف المزيل بنومره
 انت الذي قد استلك نسبة
 ولقد هموت بها وبالفضل الذي
 واثابك الدنيا الهلك وارتقت
 فجمعت في الدارين كل فضيلة
 واليك من كل الجوانب اتبلت
 فتصرفت فيهم بينك بالذي
 والامر امر الله فيما قلت
 ويد الخلفة لا تقاومها يد
 والله يفعل ما يشاء بكل من
 لا فاعل ابد اسواه وانما
 من شاء انقصه بها عدلا ومن
 جل المهيمن ربنا الحق الذي
 وقد صطفى من خلقه بشرا ومن
 بالفضل فازوا ثم فاز الاولياء
 والاولون تفاوتت درجاتهم

قال النبي صلى الله عليه وسلم
 كرموا المشورة فان التقي
 تامل في حقوقهم
 في بيان الشهادة
 في بيان الشهادة
 وبسببها وفرزوا
 وراكمها وكلمها
 اما لغيرنا فاشهد انه
 هي الاخبار بصحة
 التي عن مشاهدته
 وعيان فمن هذا قالوا
 انما شققت من الشاهدة
 التي تسمى بالعلمية

حتى اتى في كل عصر واحد
 يعنوله اهل الزمان خلافة
 واليه تنقاد القلوب وتنزوي
 والله يحكم لامرئ لمحكمه
 هذا وعبد القادر القطب امرؤ
 فرد من الافراد صرح بالذى
 ان قال ما ذوباله قد مى على
 وله تطاطات الرؤس سوى ولى
 هو عبد رب قادر جمع التقى
 لازل رضوان الاله يخصه
 مارق من عبد الغنى مديحه

منهم وليس له هنالك شان
 نبوية في جملة الاعيان
 عن شدة منهم له وليان
 بالحو والاثبات في الاكوان
 قد كان في هذا المقام الداني
 هونيه لا وان ولا مستوان
 رقيات كل الاولياء يعانى
 من اصفهان فزاع كالشيطان
 والصدق في الدنيا ونيال مان
 ويعبه بالجود والاحسان
 لمحبه وتعاقب الملوان

التاسع عشر قال لعالم العلامة والامام الغطريف الفهامة السيد جعفر
 ابن السيد حسن ابن السيد عبد الكريم البرزنجي المدني مفتي الشافعية
 بالمدينة المنورة صاحب مولد النبوى المنظوم والمثبور المشهور قدس
 سره في بحني الداني في ذكر نبذه من مناقب القطب الزباني السيد للشيخ
 عبد القادر الجيلاني رضى الله عنه فاقول هو الشيخ الكامل والجهد
 الواصل خزينة المعارف ومرجع كل قطب وعارف ذو المقامات العالية
 والقام الراسخة والتكن التام والاحوال المنيقة الشامخة غون الثقليين
 علم الشرق ابوصالح السيد محي الدين عبد القادر ابن السيد ابي صالح موسى
 ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد
 داود ابن السيد موسى بن السيد عبد الله ابن السيد موسى الجون ابن

وفي الخطبة في قوله
 والشهيد في قوله
 من اجلكم فان قيل
 الصبح من في الدنيا
 لما من كيف يكون
 في المذود القصاص
 قلنا العبر والعلم
 لا خصوص النبي
 ان هذه الآية
 في غير الميادين
 من الحق القبيحة
 بالارواح من النبوة
 ولا حوت في النبوة
 العزوة النبوية
 سوى حلالنا

السيد عبد الله الحض بن السيد الحسن المثنى ابن السيد الامام الحسن
 السبط ابن سيدنا الامام الهمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب ابن فاطمة الزهراء
 البتول بنت سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم

نوماً من فلق الصباح عموداً	نسب كان علي من شمس الضحى
مخت ملائكة السماء سجوداً	نسب له في وجه آدم لمعاً
في مدحه من ذير يوم جوداً	نسب كتاب الله او في حجة
وامدنا بالاسرار التي ودعنا بالديار	اللهم الغفر نفحات الرضوان عليه

العشرون قال مولانا العلامة الشيخ محمد يحيى التاد في الحنبلي حجة الله
 عليه في كتابه قلاند الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه
 هو سيدنا شيخ الاسلام مقتدى الاولياء العظام علم الهدى الذي
 من انتهى اليه كان من السعداء القطب الزباني والفرد الجامع الصماني
 والاصل الطاهر محي الدين ابو محمد عبد القادر بن ابي صالح جنك دوست
 وقيل جنكادوست السيد موسى ابن السيد ابي عبد الله ابن السيد
 يحيى الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى بن السيد
 عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله الحض بنعت بالمجل
 اخذ من الاجلال ابن السيد الحسن المثنى بن امير المؤمنين ابي محمد الحسن
 بن امير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم
 ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر
 بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر
 بن معد بن عدنان القرشي الهاشمي العلوي الحسني الجيلي الحنبلي سبط
 سيدنا عبد الله الصومعي لزاما المذكور كان من جملة مشايخ جيلان

تفصيل ثبوت ما في البيضا
 بالامير المؤمنين من التهود
 ومن ما في الحنون في
 الحدود في ثبوت شهادة
 جيلان في البيضا
 القياس ان يثبت في
 الواحد لان رجحان
 جانب الصدق يظهر
 في خبر الواحد بصفة
 العدالة ولو لم يكن
 خبر الواحد العدل
 كان موجب العلم كما
 لا يثبت علم اليقين بالوحي
 لا يثبت خبر العدل ما
 لا يثبت خبر العدل ما
 يبلغوا العلم بالوحي فلا يثبت

بسم الله الرحمن الرحيم

والله اعلم بالصواب

ورؤساء زهادهم له الاحوال لسنيته والكرامات الجليلة انتهى الخ الحاد والشمس
 قال لعالم الجليل والفاضل النبيل الجهدية العلامة الشيخ سيدي محمد الامين
 بن احمد التونسي المالك في كتابه رياض البساتين في اخبار سيدي عبدالقادر
 الجيلبي عجي الدين قال الشمس في نظم الدرر والعقيان ثم ان الله تعالى جعل
 البركة في عقبه فبذلك منهم ثلاثة طوائف بنو الاخضر ملوك اليمامة وهم
 من ولد ابراهيم بن موسى الجون المذكور بنوعين بنو الهواشم ملوك مكة
 المشرفة قال المسناوي وكتب الشيخ القصار على كلام الشمس ما نصه والبركة
 الكاملة والنعمة الشاملة سيدي عبدالقادر الجليل في صاحب الملك الحقيقي
 والخلافة القطبانية وكم في ذرية سيدي ناصر القادر من الاخيار وعبد الله
 والد موسى الجون يلقب بالكمال وبالجمال سم مفعول من الاجلال وبالحمض
 والحمض عند هم الرجل يكون من ابن عم وابنة عم قاله صاحب الزبير وروي به
 عبد الله اللون امه ابنة عم ابيه وهي فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه عنهما
 كما انها ام اخويه الحسن الثالث و ابراهيم القمري وهم اول من اجتمع له ولادة الحسن
 والحسين رضي الله عنهما وقد روي الامام مالك امام دار الهجرة رضي الله عنه
 عن عبد الله الحمض المذكور وقد سئل عن السدل فقال رأيت من يقتدي
 بفعله عبد الله بن الحسن يفعلوه والمثنى المذكور وصف للحسن بن الحسن
 رضي الله عنهما لقبه الذابون لقصا التميز ولو يكن يوف به في حياته
 وكذلك المثلث المذكور وصف لولده قاله في بحر الانساب قلت وقد نظمت
 اسماء هؤلاء السارات متوسلا بهم لصاحب المعجزات شاكيا اليه جوز من بغى
 على وطني فقلت وعلى الله القبول وبيده القوة والحول نظمت

وصار مدي الايام يضم وقده

القد خانني دهره واخلف وعده

ومالى صطار بل دلال ناصر
 سوي عمدي يوم اللقا محمد
 هو المجتبي المختار من آل هاشم
 فيارقي السبع الطباق من حوى
 اغثنى بعبد لقادر الجبلى الذي
 هو القطب محي الدين من حاز رفعة
 هنياموسى حين جاء بسيد
 ووالده عبد الآله الذى حوى
 ويحي ابوه الزاهد لفاضل التقى
 وولده الاسمى محمد ذوالعللى
 ووالده داؤد ذوالمجد والتقى
 ووالده عبد الآله الذى اذا
 وكذلك موسى الجون والده الذى
 ووالده عبد الآله الذى اذا
 ولقب بالمحض العجل لفضله
 فكلمات محتاجا ولم يشك ضره
 كذا الحسن الثانى ابوه لقد سما
 ووالده سبط الرسول محمد
 لقد حار عن ملك ولا مال نخوه
 ووالده سيف الرسول وصهره
 هو لاسد لضرغام والصارم الذى

يعين على ضعفه ويذل جهده
 شفعج الورى النخ الله رشده
 ورب الورى بالعجزات امده
 من الفضل ما لم تبلغ الرسل حده
 اذ اع آله العرش فى الخلق مجده
 على شرف الجوزا فى الفضل وحده
 سليل كرام نور الله قصده
 من النجوم ما تحصر الخلق عدده
 هو الطود لا ترى الا ناضل زهده
 جليل حوى كل المكارم عنده
 ابان طريقا لموسى وامده
 اتاه ببحر حاز فى الحين رفده
 لهكرم ما نالت الناس مده
 وعوه لرفد لبي ناديه وحده
 وذلك فخر قد قضى الله خلد
 وكربات عطشنا ولم ينس ورده
 بمجد اثيل ما حوى الناس حده
 هو الحسن الداغى الى الخير جده
 وسلمه طوعا ولم يشك فقد
 على الذى قد انجز الله وعده
 ابى ان يرى غير الشهامة عمده

نخى
للغاي

<p>وقالعه في يوم بدر شهيرة هم آل بيت المصطفى وبجبههم بجاهم نكل بمن قد اضرنا وعامل عبيد صرع الظلم والاسى فانت وكيلي يا وكيل عليهم وصلح صلاة تلاء الارض والسماء</p>	<p>وفي خير قد مد ذوالعرش فدا وعدنا بمن في المقام وبعدك ومزق له الاعضاء واسلبه عمده واصلحه وقتا وبلغه قصده وغيرك مولانا الذال نعمده على المصطفى من طهر الله برده</p>
<p>الثاني والعشرون قال لعالم العلامة والمجرب الفهامة الشيخ نور الدين الحسين علي بن يوسف بن جبر النخعي الشطوني نفعنا الله بهما في كتابه بهجة الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا الفقيه العالم ابو المعالي احمد بن الشيخ المحقق ابي الحسن علي بن احمد بن عبد الرزاق بن عيسى الهلالي البغدادي قال اخبرنا قاضي القضاة السيد ابو نصر قال اخبرنا والدي السيد عبد الرزاق قال سئلت والدي الشيخ السيد محيي الدين عن نسبه قال السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست بن السيد ابي عبد الله بن السيد يحيى الزاهد بن السيد محمد بن السيد داؤد بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض ويلقب ايضا بالمجل بن السيد الحسن المثنى بن سيدنا امير المؤمنين حسن بن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهم سبط السيد ابي عبد الله الصوسي الزاهد وبه كان يعرف حيث كان بجبلان فسئل عن مولده فقال لا اعلم حقيقة لكني قدمت بغداد في السنة التي مات فيها القيمي وعمري اذ ذاك ثمانية عشرة سنة قلت والقيمي هذا هو ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن اسد توفي سنة ثمان وثمانين واربعمائة فيكون مولده رضي الله عنه على هذا البيان سنة سبعين واربعمائة واخبرنا الفقيه</p>	

ابو عبد الله محمد بن الشيخ ابي العباس احمد بن عبد الواسع بن امير كاه بن شافع
 الجبيلي المحنبلي رحمه الله تعالى ان مولد الشيخ محي الدين السيد عبد القادر الجبيلي
 رضي الله عنه سنة احدى وسبعين واربعمائة بجيلان وانه دخل بغداد
 سنة ثمان وثمانين واربعمائة وعمره ثمانين سنة قلدت وهو رضي الله عنه
 منسوب الى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلاد متفرقة وراية طهران
 وها ولد في نيف قصبه منها ويقال فيها ايضا جيلان وكيلان وكيل ايضا قرية
 بشاطي الدجلة على مسيرة يوم من بغداد وما يلي طريق واسط ويقال ايضا جيل
 بالجيم ومن ثم يقال كيل العجم وكيل العراق وجيل العجم وجيل العراق انتهى ايضا
 في هجة الاسرار ومعدن الانوار قوله في النسب الجون هو لقب لموسى وهو
 من اسماء الاضداد يطلق على الابيض والاسود وهو الاكثر في استعماله وهو المراد
 به هنا لان موسى كان آدم الكون له ام هند بنت ابي عبيدة فانك ان تكون
 جونا انزعاه احذر ان تضركم او تنفعاه وحملت به وهي بنت ستين سنة ويقال
 لا تشمل ستين سنة الاقرشية ولا الخمسين الاعربية وام ابية عبد الله هي ام
 سامة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي
 الله عنه وقوله فيه المحض هو لقب لعبد الله وهو من كل شئ الخالص ولقب
 به عبد الله لان اباة الحسن بن الحسن بن علي وامه فاطمة بنت الحسين بن
 علي فنسبه من ابويه فالص اسلامته من المولى وانتهائه الى علي كرم الله وجهه
 ومن لقبه بالجمل اخذ من الاجلال لهذا المعنى وهو ضم الميم وفتح الجيم اسم
 مفعول من اجله وفاطمة هذه خلف عليهم ابا عبد الحسن بن الحسين عبد الله
 المطرف بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولدت له محمد الديباج
 لقب به لحسنه ولقب ابو عبد الله بن المطرف لجمال ولما انشاء عبد الله بن

عمر قال لناس حسن مطرف بعد عبد الله بن الزبير وكان عبد الله الزبير فائق
 الجمال وام المطرف بن حفصة بنت عبد الله بن عمر الخطاب رضى الله عنها والمطرف
 بضم الميم وفتح الراء اسم مفعول من طرفته بكذا وقوله فيه المثنى هو نعت للحسن بن
 الحسين وهو بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من تثيته اذا صيرت له ثانيا انتهى
 الثالث والعشرون قال العالم العلامة العامل والفاضل لكامل من بدة
 المحققين وعمدة المحدثين العارف الولي ابي المجد مؤنا الشيخ الاجل عبد الحق
 المحدث المحقق الدهلوي البخاري الترك السمرقندي رحمة الله عليه في كتابه
 زبدة الاسرار ذكر نسبه وصفته هو الغوث الاعظم شيخ شيوخ العالم سيد
 السادات شيخ الاسلام والمسلمين الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر
 بن السيد ابي صالح موسى بن السيد عبد الله بن السيد يحيى الزاهد بن
 السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد
 موسى الجون بن السيد عبد الله المحض وينعت ايضا بالجل بن السيد الحسن
 المثنى بن السيد نا الحسن بن علي المرتضى رضى الله عنهم اجمعين سبط السيد
 عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف بجيلان وهو رضى الله عنه منسوبا
 الى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلدة متفرقة وراء طبرستان وبها
 ولد في نيف قصبة منها ويقال فيها ايضا جيلان وكيلان وكيل ايضا قرية على
 شاطىء جلة على مسيرة يوم من بغداد مما يلي طريق الواسط ويقال فيها
 ايضا جيل العجم ومن ثمة يقال كيل العجم وكيل العراق والجيل ايضا قرية تحت
 المدائن قوله في النسب لانه تقدم الجون هو لقب لموسى وهو من اسماء الاضداد
 يطلق على الابيض والاسود هو الاكثر في استعماله وهو المراد ههنا لان موسى
 كان آدم اللون وحملت به امه ابنة ستين سنة وقيل لانه استين سنة

الامن كانت قوشية ولا الخمسين الاغربية وامه سلمة بنت محمد بن طلحة بن
عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضى الله عنه وقوله فيه المحض هو
لقب لعبد الله وهو من كل شئ الخالص ولقبه عبد الله لان اباة الحسن بن الحسين
بن علي وامه فاطمة بنت الحسين بن علي فنسبه من ابويه خالص لسلا مته من
الموالى وانتهائه الى علي كرم الله وجهه ومن لقبه بالمجل اخذه من الاجلال وهو
بضم الميم وفتح الجيم اسم مفعول من اجله وقوله فيه المثنى هو لقب الحسن لانه
حسن بن الحسن وهو بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من شنتيه اذا صرت
له ثانيا رضى الله تعالى عنهم اجمعين انتهى الرابع والعشرون قال الاديب
الفاضل الشيخ عبد الباقي العمري الموصلى العراقى فى ديوانه الترياق الفاروقى
هذه القصيدة يمدح بها سلطان الاولياء والعارفين القنديل النوراني والقطب
الصملاى مولانا وسيدنا السيد محي الدين عبد القادر الجيلانى الحسى
الحسى رضى الله عنه وقد شرح هذه القصيدة شرحا لطيفا بمجلد ضخ
علامة العراق مفتى بغداد المرحوم الشيخ محمد والوسى بعد ذلك الشهور
رحمة الله تعالى وهى هذه ابيات شعـ

ابيات شعري حكى آيات تنزىل	تنلى بحضرة ممدوحى بتزىل
وعت اللان الاعلى لها اذن	فشفتها بتكبير وقهليل
قد انطوى عالم الاسماء باحرفها	فقطر النسر منها طيب تاويل
عن حسنها قصر الطرف قد قصرت	احب بكاعية النجدى عطلول
ماست دلالا تعاطينى لرضا بطلا	فهمت ما بين عسال ووعسول
تاقت على اللؤلؤ المنثور اذ نظمت	فى مدح مولاى عبد القادر الجيل
قطب عليه مدار العالمين له	دور تسلسل لافى قيد تعطيل

غوث وغيث لراجيه وخائفه
 سيججل لتجلي ذاته ظهرت
 جلاء نقطة عين العين تربته
 طوفان علم به نوح النبوة في
 خضم فيض بعيد الغور فيرست
 مصباح فضل ينبر اسر الجمال زهت
 نور بسيط على وجه البسيطة بل
 قرآن جمع الاشتات لهبات من ال
 فرقان فرق العلي آياته رسمت
 مفتاح غيب بلا ريب به رزقه
 في عالم الغيب قد صحت مشاهدة
 توارثت اولياء الله بعثته
 في الشائين له حال تصرفه
 باب الرجاء وقطب الاولياء
 عين الكمال وسلطان الرجال
 ملجاء المرئدين مجا اللاندين به
 فخرى وفيه غنا فخرى ومدحته
 الى موائده اللاتي حوت مددا
 تفصيل اجمال جزء من خوارقه
 نلت البقا بقائني في محبت الله
 اربان محوي محوي في هواه وعن

ينجي بهي بافضال وتفضيل
 لعينه عينه من غير تمثيل
 كمر فزت منها بتعفير وتكحيل
 فلك الفتوة ينجي كل محمول
 سفن الولاية لاني ساحل النيل
 مشكاته فيه لاني ضوء قد يدل
 بحر محيط بمعقول ومنقول
 ذرات لا تبسط العرض الطول
 في جبهة كلت منه باكليل
 باب الشهود لدير غير مقبول
 له رجا يكشف غير معلول
 منذ است ومن جيل الى جيل
 تا الله في كل معقود ومحلول
 وفخر الاتقياء وماوى كل مذلول
 ومدوح الفعال حامى كل مذلول
 كنز المقلدين ما فخرى وما مولى
 فخرى انال بحشدي منه تنويلي
 مددت باعاب علققت كشكولي
 عن حصرها كل اجمالي وتفصيلي
 فتشاغل فيه اضحى عين مشغول
 وهي باني سواه بان تخييلي

نسخ
 مامول

موسى عليه بتوراية وانجيل
 جلالة في سيف فر غير مفلول
 تغنيك عن كل مقصود وما مول
 وسئل ما شئت تلحق خير مسؤل
 وايداء الخشوع بع مع منك مسؤل
 لقد تناهى اليها علم جبريل
 وقلهم عن هواه غير مشغول
 بيا به كاسود الغيل بالغيل
 فيا القطع بجبال الله موصول
 وحققوا الظن اني غير مقبول
 هل سمعت بصغير معذول
 لفارق بين مغضال ومغضول
 تحية الملائع الاعلى بتجليل
 وجللته وغشسته بتسديل

التي من العلم في مثل الذي اتيا
 فدبا ذاع خطب اود جي حزن
 تهديك بهجة الغراء وغنيته
 فناده عند ناديه لفاتحة
 وقبل الترب من اعتاب سدته
 فسدة للنتهى لاشك حضرته
 ترى المحبين صرعى تحت قبته
 اما تراهم في اطمارهم ربطوا
 اليهم من موصل قد جنت منقطعا
 كم ظن قوم قبول امته تم لهم
 فدع رجال اعلى جهل تغفني
 وانبع رضى الله عنه فمدح تقدمه
 عليه انك سلام الله تتبعه
 ما دوح ديمة الرضوان مرقه

الخامس والعشرون قال الرباني الفقيه النزير الشيخ عبد الغني
 النابلسي في آخر شرحه على الصلوات الكبرى المسمى بكوكب المعاني ؛ وموكب
 المعاني ؛ شرح صلوات ان الشيخ السيد عبد القادر الكيلاني ؛ وهذا اخر ما يسهره
 الله تعالى لنا من الكتاب على وجه الاختصار ؛ بطريق الشرح والبيان حسما ؛
 سمحت به الاقذار ؛ على ايراد صلوات شيخنا بالعهود والميثاق ؛ والتذكير
 بالذمة للسيد الالهية ذات البسط والانفاق ؛ واستاذ بالامداد الرباني ؛
 والاستعداد الانساني ؛ في اللقام الروحاني ؛ قطب دائرة الوجود ؛ وكوكب

سماوات المعانية والشهود الفرد الكامل؛ والعالم العلامة العامل؛ السيد الشيخ
 عبد القادر؛ بن السيد أبي صالح موسى جنك دوست ابن السيد أبي عبد الله ابن
 السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داؤد ابن السيد موسى بن السيد
 عبد الله بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسين
 بن سيدنا الامام حسن بن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه
 وعنهم اجمعين الجيلاني نسبة الى جيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبر
 ستان وبها ولد ويقالها ايضا جيلان وكيلان وقال المناوي ولد بجيلان
 سنة سبعين واربعمائة وهو سبط السيد عبد الله الصومعي من اجلة مشايخ
 جيلان انتهى المسادس والعشرون قال العالم العامل والفاضل بين الحق
 والباطل الشيخ السيد علي بن الشيخ يحيى بن الشيخ احمد بن الشيخ علي في
 كتابه تحفة الابرار ولوامع الانوار ذكر نسبه الطاهر ومجته الطاهر ومو
 لده وبلده وهجرته الى موطنه رضي الله عنه؛ اعلم ايديك الله تعالى برشده
 وجعلك من حربه وجنده ان يد القدر قد استخرجت من البحر النبوي درة
 يتيمة عقدها؛ وفريدة مجدها؛ ونسيجة وحدها؛ ووحيدة فردها؛ استخلصها
 مالكمها؛ لنفسه؛ وطهرها بجوار قدسه؛ ونورها بدمجته انسه؛ ووصافها
 بحبه؛ واصطفها لقربه؛ واصطنعها لحضرتهم وجدتها رحمتهم؛ وباداهم
 وناداهم بوصله؛ واودعها من علمه؛ وسرمعادته؛ والبسها من نوره؛ وخيرها
 فبرزت طلعتها؛ في مواكب المعالي والمفاخر؛ واسفرت من صبح طلعه الشيخ
 عبد القادر؛ وهو على ما ذكره غير واحد من الائمة الاعلام؛ والعلماء الابرار
 النخام الكرام؛ شيخ الاسلام؛ مقتدى الاولياء العظام؛ علم الهدى؛ الذي
 من انتماء السيد كان من السعداء؛ القطب الزباني؛ والفرع الجامع النوراني؛

الباطل الشيخ السيد علي بن الشيخ يحيى بن الشيخ احمد بن الشيخ علي في كتابه تحفة الابرار ولوامع الانوار

ذوالاصل الطاهر؛ والمجد الباهر؛ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر الجيلاني
 ابن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست ابن السيد عبد الله ابن السيد يحيى
 الزاهد ابن الامام محمد ابن الامام داود ابن الامام موسى ابن الامام عبد الله ابن
 الامام موسى الجوني ابن الامام عبد الله المحض ويلقب بالجل بن الامام الحسن المثنى
 ابن الامام الحسن السبط ابن الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى
 وجهه ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف ابن قصه
 بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة
 بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ نسب كان
 عليه من شمس الضحى؛ نور او من فلق الصباح عمود؛ الهاشمي العلوي الحسيني الحسيني
 الجيلاني سبط السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه يعرف لما كان بجيلة وولد
 رضي الله تعالى عنه بجيلة سنة سبعين واربعمائة انتهى السابع والعشرون
 قال الامام المشهور بين الانام عالم الديار الرومية والنافذ البصري في كل قضية محمود
 بن سليمان الشهير بالكفوي في كتابه السمي بكتاب اعلام الاخبار في المكتبة العاشر
 منه سيد العارفين؛ وقبلة الواصلين؛ الشيخ الزباني؛ المنسلخ عن الهياكل
 الناسوتية؛ والعارف الصمالي المتوصل الى السبحات اللاهوتية؛ قطب الاولياء
 وغوث الاصفياء؛ ابو محمد السيد عبد القادر بن السيد ابي صالح بن السيد عبد
 الجليل الكيلاني الحسيني الحسيني قدس سره وكانت امه ام الخير امة الجبار بنت
 السيد ابي عبد الله الصومعي ولد سنة احدى وسبعين واربعمائة وكان حسبا
 احوال فاخرة وكرامات باهرة خرق الله تعالى عليه يدية العوائد وقلب الاعيان
 واظهر العجائب انتهى الثامن والعشرون قال سيد السادات العارف
 ابوبكر السيد عبد الرزاق ابن شيخ الاسلام الشيخ محي الدين السيد عبد القادر

قال العلامة
 والجز الفها محمد
 بن عمر بن المديني
 الشافعي في كتابه سبل
 السادة من حكام بلاد
 سيد الامام ابي جابر
 سعد بن الطبرستان
 من مرسل عبد الله
 بن خالد قال قال
 رسول الله صلى الله
 عليه وسلم لا تسولوا
 فانه كما قد اسلم
 ورواه السهمي في سبل
 وانخرج ابوبكر محمد بن
 خلف للعرف بكونه
 قال اسحاق بن دراز
 بن عيسى البرزقي

رضي الله

رضي الله تعالى عنه في فتوح الغيب قال والدي رضي الله تعالى عنه مؤيد الأئمة
سيد الطوائف ابو محمد محي الدين السيد عبد القادر الجيلاني الحسيني الحسيني
الصد يقى بن ابي صالح موسى جنكي دوست ابن الامام عبد الله بن الامام محي
الزاهد ابن الامام محمد بن الامام داود ابن الامام موسى بن الامام عبد الله ابن
الامام موسى الجون ابن الامام عبد الله المحض ابن الامام الحسن المثنى ابن الامام
امير المؤمنين سيدنا الحسن السبط ابن الامام الهمام اسد الله الغالب فخر بني
غالب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعنه
الجمعين امين انتهى التاسع والعشرون قال الامام العالم الفاضل
والهمام الكامل اريب عصره وفريد دهره العالم العلامة المحقق المدقق الفهامة
ذو الفضل شهير الساري في بلاد مولانا علي بن سلطان محمد القاري المشهور
رحمه الله باطفة العالي في كتابه نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيدي الشريف
عبد القادر محي الدين سلطان الاولياء والعارفين الاكابر الحسيني الحسيني
رضي الله عنه اما بعد فيقول راجي بركة الصالحين من ربه الباري على سلطان
محمد القاري انه بلغني الروضة الحسنة المنافقين المحجوبين والجهلة بمقام مولانا
وسيدنا تاج المفاخر الذي خضع له رقاب الاكابر والقطب الرباني والغوث
الاعظم الصمالي سلطان الاولياء والعارفين البان الاشهب والسيف الاشط
والطراز المذهب السيد الشريف شيخ الاسلام محيي الملة والدين عبد القادر
الحسيني الحسيني الجيلاني قد سر الله روحه وفتح علينا فتوحه قال ان حضرة
سيدنا الشيخ ليس سيدي في النسب وان لم يعقب اولاد حتى بهم ينتسب الي
ان بعض المتفقه المقصر في المكتسب فتى وفق كلام اهل الضلال والطغيان
الجهلة العامة حدث لم يوفق بتحقيق الخاصة وكان حقه ان يقول لا ادري فانه

بن ابي قاصم
سيد الحسن بن ابي
الصد يقى بن ابي
عنه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال لا تسبوا ربي
ولا مضر فانما كانا
سلبين وقال
العلامة الطحطاوي
الذي ينبغي ان يتقوا
من الكفر ان الكوفيين
ايضا ما حدثت اصابة
صلى الله عليه وسلم قال
ولا ينبغي ذكر هذه
السئلة الا مع من زيد
رد المحتار في

نصف العلم كما جاء في حديث المروي واما الجراءة في باب النسب بنفي واثبات من غير نقل وتحقيق عن عدول واثبات فغير لايقنة لارباب العلوم والديانات ان يخشع عليه في مقام البوار ان يدخل في ضمنون ماورد اجر وكرم على الفتيا اجر وكرم على النار (فاجبت) ان اذكر بعض ما يتعلق بنسبه الشريف وحسبه اللطيف اللذيذ فان من جمع بين الامور من اللونين عزيز الوجود غريب بالشه وفي الكونين فدونت هذه الرسالة اللطيفة وسميتها نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيدي الشريف عبد القادر واقول الحق وبالله التوفيق اما بيان نسبه الشريف اجمالا فقد ذكر مولانا نور الدين عبدالرحمن الجامي قدس الله سره السامي في نجات الانس من حضرات القدس ان سيدهنا الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه سيد ثابت لنسب الجامع بينه وبين الحسب فانه علوي حسي من خانب الاب وهو من جانب الام سبط السيد ابي عبدالله الصومعي الزاهد المحسني احد المشايخ العظام والاولياء الكرام له الاحوال السنية والكرامات الجليلة واما تفصيلا فقال الشيخ عفيف الدين عبدالله بن اسعد اليافعي اليميني الشافعي رضي الله عنه في تمه الروض الرياحين لحكايات الصالحين ان سيدهنا السيد محي الدين ابو محمد عبدالقادر ابن السيد ابي صالح موسى جنكي وست ابر السيد عبدالله ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داود ابن السيد موسى الثاني ابن السيد عبدالله بن السيد موسى الجون بضم الجيم يعني الابيض لقب موسى بن السيد عبدالله المحض هو لقب ومعناه الخالص ابن السيد الامام الحسن المثنى بن السيد الامام الهمام الحسن السبط ابن الامام الهمام امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سبط ابي عبدالله الصومعي الزاهد الحسيني وبه يعرف حين كان بجبلان عليه الرحمة والرضوان

هو اجازت نجات الانس تحقيق مولانا نور الدين عبدالرحمن الجامي قدس الله سره الشيخ محي الدين عبدالقادر الجيلاني قدس الله سره كنيته في اية قوله استخلص حتى يترجمه ابو عبدالقادر الصومعي است انجاب كادروادودي المروزي البزازت ابو عبد الله الصومعي است انجاس وعالم علامه فاضل كجانب قدوة المحققين زبدة الوثيقين مولانا محمد باقر بن الملوك مومدي اسي

قال

سنة

قال وأمه أم الخير أمة الجبار فاطمة بنت أبي عبد الله الصومعي الزاهد وكان لها حظ وافى من الخير والصلاح وعمته المرأة الصالحة الشريفة عايشته بنت السيد عبد الله ذات الكرامة الظاهرة والمقامات الباهرة قال ولقب السيد عبد الله جده بالمحض لأن أباه الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سيدنا علي رضي الله عنه وأمه فاطمة بنت الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنه وهي نسبة سالمة من المولي وخالصة في الشرف العالی انتهى **الثلاثون** قال العالم الفاضل الشيخ عبد القادر ابن محي الدين الاربلي في كتابه تفریح الطالب في مناقبه لشيخ السيد عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه المنقبة الخامسة والستون في نسبه من الطرفين اما نسبه من طرف والده فهو السيد عبد القادر ابن السيد ابي صالح موسى جنكي دوست بن السيد عبد الله بن السيد محي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى الثاني بن السيد عبد الله الثاني بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن سيدنا الحسن بن سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنهم اجمعين انتهى **الحادي والثلاثون** قال لعالم العاقرة الشيخ صلاح الدين محمد بن شاکر الکتبي الدارني ثم الدمشقي في كتابه فوات الوفيات السيد عبد القادر الجبلي بن ابي صالح جنكي دوست ينتهي نسبه الى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الشيخ ابو محمد الجبلي الجبلي المشهور الزاهد صاحب المقامات والكرامات وشيخ الحنابلة رحمه الله تعالى قدم بغداد وتفقه على القاضي ابي سعيد ومع الحديث وكان يأكل من عمل يده وتكلم في الوعظ وظهر له صيت وكان ذاهمت وصمت قال الشيخ شمس الدين ولد بجبلان سنة احدى وسبعين واربعائة وتوفي سنة احدى وستين وخمسمائة انتهى **الثاني والثلاثون** قال في مادة البشتي

تالیف مسکین محمد بن محمد محی الدین الحنفی القادر البتاری
نقشہند محی

در کتاب ابن الفاضل
ارجو ان یثانی در شعبه
الاولی در نسب شریف
فی النسخه تم کتبه
مؤید کتبه تحقیق
مؤید کتبه شریف
مؤید کتبه شریف
الاسم علی بن عبد القادر
فی النسخه از اولاد القادر
بنت علی ایسا علیا
الصدقة واثم علی بن
باطل شاکر
جبال زبانه مبارک
ون رضی الله عنده از اولاد
ابن الامین علی است
رضی الله عنده از اولاد
نیز این قوم از اولاد

بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موالثاني بن عبد الله بن موسى الجون بن
 عبد الله المحض بن حسن المثنى بن الامام الحسن رضي الله تعالى عنهم اجمعين
 ثم اعقب ذلك بذكر طرف من اعقابه واولاده بعد ان قال وعقبه بصر والهند
 وحماه وبغداد رضي الله تعالى عنهم اجمعين انتهى السادس والثلاثون
 قال في تاريخ الاسلام الشيخ ابو محمد محي الدين والسنة السيد عبد القادر
 بن ابي صالح موسى بن عبد الله جنكاد واست الجيلي الزاهد صاحب المقامات
 وشيخ الفقهاء والفقراء وكان امام زمانه وقطب عصره وشيخ شيخ الوقت
 بلا مدافعة وقال في اخر ترجمته كان الشيخ السيد عبد القادر رضي الله راسيا
 في العلم والعمل فكراماته متواترة جملة ولم يخلف بعده مثله انتهى السابع والثلاثون
 قال في سيرة النبأ الشيخ الامام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الاسلام
 علم الاولياء تاج الاصفيا محي السنة وميمت البدعة معقل العلم السيد الشريف
 الحسين بن الحسين بن ابي جده سيد المرسلين محمد صلى الله عليه
 واله وسلم الشيخ محي الدين ابو محمد السيد عبد القادر بن السيد صالح الجيلي
 الحنبلي شيخ بغداد وغيره رضي الله عنه انتهى كلامه ما خلا الثامن
 والثلاثون قال لعامة خاتمة المفسرين ابو التناشها بن الدين السيد محمود
 افندي الاكوسي مفتي بغداد رحمه الله تعالى في كتابه شجرة الانوار سلطا
 الاولياء السيد عبد القادر الجيلي ولد في عشق سنة ٢٧٠ وعيش في كمال
 في ١١١٠ انتهى التاسع والثلاثون قال في تاريخ الياضي واما كراماته
 فخارجة عن المحصر وقد اخبرني من ادركته من اعلام الامة ان كراماته قد
 توارت او قربت من التواتر ومعلوم بالاتفاق انه لم يظهر ظهور كراماته لغيره
 من شيوخ الآفاق كرامته على الاطلاق وكان قد لبس المخزقة من يد الشيخ

ابي سعيد المبارك بن علي الخزومي نسبة الى محلة يزيد بن الخزوم ببغداد سمعت
 في كتاب اجازة ابي بكر الكفوي الذي اعطاها شيخه الشيخ ابو الوفا الشيخ محمد
 بن السيد قاسم بن مجير بن الحسين بن علي بن محمد بن احمد بن صالح بن نصر بن
 عبد الرزاق ابن القطب الغوث الاكبر محي الدين ابي محمد عبد القادر الجيلائي
 بن ابي صالح موسى جنكرد وست بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى
 بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن
 علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هكذا ثبت فيه وقال فيه وينتهي نسبه
 الكريم من قبل ابيه الى سيدنا ابي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه ومن قبل
 امه الى السبط الشهيد ابي عبد الله الحسين رضي الله عنه انتهى **الاربعون**
 قال العالم العلامة السيد الشيخ محمد سيف الدين في كتابه الدرر السنية
 في المواظ الكيلانية حضرة الغوث الاعظم الرباني والقطب الفرو الصلبي سيدنا
 السلطان السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى عنه
 ابن الامام ابي صالح موسى جنكرد واست ابن الامام عبد الله بن الامام يحيى
 الزاهد ابن الامام محمد ابن الامام داود ابن الامام موسى الثاني ابن الامام عبد الله
 ابن الامام موسى الجون ابن الامام عبد الله المحض بن الامام الحسن المثنى ابن
 الامام الهما سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا ومولانا امير المؤمنين وصي الرسول
 الامين ابي الحسين الامام سيدنا علي كرم الله وجهه انتهى **الجادوي الاربعون**
 قال العالم العلامة والمدقق الفهامة الجامعين المعقول والنقول والبارع
 في الفروع والاصول محمد غوث بن ناصر الدين محمد الخطاب بشرق الملك ص الله
 سبحان فضله عليه في كتابه انهار الفاخر في مناقب الغوث الاعظم السيد الشيخ
 عبد القادر مانصه المجد وال الثاني في نسبه الشريف رضي الله تعالى عنه هذا المجد

مشتمل على شعبتين الشعبة الاولى في آباءه روى عن الشيخ ابي بكر عبد الرزاق
 ولده برواية فاضل القضاة ابي صالح نصر رحمه الله ان والده الشيخ السيد عبد القادر
 ابن السيد ابي صالح موسى جنكبي وست ابن السيد ابي عبد الله ابن السيد محمد الزاهد
 بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى بن السيد عبد الله بن السيد موسى
 الجون بن السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن الامام الحسن المجتبي بن
 امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضى الله عنهم الى ان قال انتهى الثاني والاربعون
 قال العالم الفاضل الكامل للعلامة نجم آل بيت الرسول والشمس المشرقة في علم العقول
 والمنقول قانع المبتدعين ودامغ المبطلين ابي الظفر السيد ظهير الدين القادر الحسيني
 الحسيني الحنفية حقه الله باطفه الجلي والتخفي في كتابه فتح المبين فيما يتعلق بآيات البين
 المحرقة في ترجمة الغوث الجليلي ابي محمد السيد الشيخ عبد القادر محي الدين وقد
 جعلته هدية لآخواننا المسلمين قال العالم العامل والفاضل الفاضل بين الحق
 والباطل الشيخ علي بن الشيخ احمد بن الشيخ علي في كتابه تحفة الابرار ولوامع
 الانوار ذكر نسبه الطاهر ومحمد الزائر ومولده وبلده وهجرته الى وجد لا
 رضي الله تعالى عنه اعلم ايدك الله تعالى برشده وجعلك من حوزيه وجد لا
 ان يد القدر قد استخرجت من البحر النبوي درة يتيمة عقد ها وفريدة مجد ها
 ونسيجة وجد ها ووحيدة فرد ها استخلصها ما لكها لنفسه وطهرها بجوار قدسه
 ونور بهجة نسه وصافا بجمه واصطفاها لقربه واصطنعها لخدمته وجذبها لخدمته
 وباداها بفضله وناداهابوصله واودعها من علمه وسرمعادته والبسمها من نوره
 وخير محاسنه فبرزت طلاعمها في مواكب المعالي والمفاخر واسفرت عن صبح طلعة
 الشيخ عبد القادر وهو على ما ذكره غير واحد من الائمة الاعلام والعلماء الاثبات
 الفخام الكرام شيخ الاسلام مقتدى الاولياء العظام علم الهدى الذي من انتهى

اليه كان من السعداء القطب الزباني والفرد الجامع النوراني زوال اصل الطاهر والمجد
 الباهر محي الدين عبد القادر الجميلى بن ابي صالح موسى جنكلى دوست ابن عبد الله
 بن يحيى الزاهد ابن الامام محمد بن الامام داؤد بن الامام موسى بن الامام عبد الله بن
 الامام موسى بن جيون ابن الامام عبد الله المحض ويلقب بالجل بن الامام الحسن المثنى
 ابن الامام الحسن السبط بن الامام امير المؤمنين على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه
 ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف ابن قصى بن كلاب
 بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة
 بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان :

نسب كان من شمس الضحى * نوراً ومن فلق اصباح عموداً

الهاشمى العلوي الحسيني الحسيني الجميلى سبط ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه
 يعرف لما كان بجيلان ولد رضى الله عنه بجيلان سنة سبعين واربعمائة قال
 العارف ابو بكر عبد الرزاق ابن شيخ الاسلام الشيخ محي الدين عبد القادر رضى الله
 تعالى عنه سالت والدي عن مولده فقال لا اعلم حقيقه لكن قدمت الريغداد
 في السنة التي مات فيها التميمي وعمرى اذ ذاك ثمان عشرة سنة والتميمي هذا هو
 ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن اسد توفى سنة
 ثمان وثمانين واربعمائة فيكون مولده رضى الله عنه كما تقدم على هذا البيان وهو
 منسوب الى جيل بكسر الحيم وسكون الياء ولا م آخر الحروف وهي بلاد متفرقة
 وراء طبرستان وبها ولد بقصبة منها ويقال فيها جيلان وكيلان على جملة مما
 يلى طريق واسط انتهى قال الامام المحدث شيخ الاسلام ومقتدى الانام العارف
 بالله المولى الاجل الشيخ عبد الحق الدهلوى قدس سره في كتابه زبدة الاسرار
 في مناقب الغوث الاعظم سلطان الاولياء والاقطاب ابي محمد محي الدين شيخ الاسلام

السيد الشيخ عبد القادر الجليلاني رضي الله تعالى عنه مانعه هو الغرث الاظم
 شيخ مشيخ العالم سيد السادات شيخ الاسلام الشيخ محي الدين ابو محمد عبد القادر
 بن ابي صالح موسى بن ابي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن
 عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض وينعت ايضا بالجليل بن الحسن المثنى
 ابن الامام الحسن بن امير المؤمنين على المرتضى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين
 سبط ابي عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف بجيلان وهو رضي الله تعلقه
 عنه منسوب الى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلاد متفرقة من وراء طبر
 ستان وبها ولد في نيف قصبة منها تم اخذ في بيان مناقبه الجليله وادرافه
 العالية النبيلة بما يشفي العلال التي في الصدور وكذا ساق نسبه الشريف على
 هذا الوجه المذيف في كتابه الآخر المسمى بزبدة الآثار المؤلف باللغة الفارسية انتهى
 الثالث والاربعون قال العلامة والخبير الفهامة العالم الفاضل الشيخ زروق
 في قواعد المتضمنة لموائد فوائده لما تكلم في النسب المعطوفوي ان المعتبر
 اصل للنسب لديني وفرعه مجرد اتم ان النضاف الى الطيبي كان له مؤكدا فلا تلحق
 رتبة صاحبه بحال بدا وبذا اجيب عن قول الشيخ ابي محمد السيد عبد القادر
 قدمي هذه على رتبة كل ولي لله في زمانه لانه جمع من علو النسب شرف
 العبادة والعلم ما لم يكن لغيره من اهل وقته انتهى الرابع والاربعون قال الامام
 احمد بن محمد بن جزى الاندلسي الغرناطي الشهير في كتابه مختصر البيان في اعدان
 صرح باسماء النسب الجليلي الى الحسن السبط الخامس والاربعون قال صاحب جوهره
 العقول في ذكر آل الرسول وهو العلامة شيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي
 ولم يذكر فيها الا الاشراف المجمع على شرفهم كتابه على ذلك وكان تاليه لها باذن
 والده شيخ الجماعة السادس والاربعون قال محافظ بن حجر الصقلاني الغرناطي

قال الشافعي في
 رتبه نور الابصار
 في صفحة ٢٠٢ قال ابن
 الحاج في شرح رساله
 ابن باديس في شرح
 انه قال قد يجهل هذه
 على رتبة كل ولي
 لله تعالى قالوا في
 والله تعالى في الغرث
 ورافى الغرث وكان
 دراهم السد ورافى
 هو اثر الجليلي ورافى
 جيل تان الامد عظم
 في تلك الساعه الايلا
 لصلفي اضهان له
 يوجب مع الشيخ
 حاله

السابع والاربعون قال لعامة ابن عرضون بنقل علامة المغرب الشيخ سيدي
 محمد قنوي الثامن والاربعون قال في مرآت الزمان لسبط ابن الجوزي التاسع
 والاربعون قال في مرآت المحاسن العلامة النسابة الشيخ محمد العربي الفاسي قال
 مانضه وبفاس الشرفاء القادريون من بني القطب سيدي عبد القادر الجيلاني
 رضي الله عنه ونسبتهم اليه ثابتة الى ان قال وهو رضي الله عنه سيد عبد القادر
 ابن السيد ابي صالح موسى وذكر النسب المعروف الخمسون قال في النسب القرطبي
 ذكر نسبه الى الحسن السبط رضي الله عنه الحمادي والخمسون قال الامام النسابة
 ابن فرجون في كتابه المسمى لاعتبار وتواريخ الاخبار والتعريف بالنسبة الى النبي
 المختار وليس هو ابراهيم الفقيه المعروف بل اسم هذا علي وهو صاحب كتاب في الحديث
 الثاني والخمسون قال العلامة النسابة ابن الطيب في نظمه المسمى بالاشرف
 على نسبة الاقطاب الاربعة الاشرف والاربعة هم المذكورون في قوله بعد استفتاح
 النظم : هذا نظام لعمود نسب : الاربع الاقطاب هل الرتب : الشيخ عبد القادر
 الجيلاني : وابن مشيش مفرح الايمان : والشاذلي الكامل الوصول : وابن سليمان
 هم الجزولي : الثالث والخمسون قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي
 في المنح البادية ولا تخشى براعته في تحرير الانساب وقد عد في علم الانساب
 من علومه التي منحه الله بها وله فيها اجازات من اهل ذلك العلم انتهى الرابع
 والخمسون قال الشيخ مراد البغدادي في المشجر الخامس والخمسون
 قال الشيخ محمد قاسم القصار قال المسنوي وقفت في غير ما تقييد وكان رحمه الله
 من يعتمد عليه ويرجع في هذا الباب اليه لشدة بجهته عنه ومزيد اعتنا به
 ورسوخ عده ومتانة دينه واطال الشناء عليه لاسيما في تحرير النسب الشريف الى
 ان قال قال شيخ الجماعة سيدي عبد القادر الفاسي في حق شيخ القضاة الشافعي

وقد روى الشيخ
 الامام ابن سعد حقه
 في بلاد المغرب فانه
 اعلمه عن ذلك نقل
 ابن سيرين الشيخ
 عبد القادر قال في
 هذه السلسلة قد بقي
 هذه على رتبة كل
 ولي فاتح احبابه ذلك
 اليوم حتى قدم المسجون
 من ارض العراق
 فاجبروا بقوله ذلك
 في ذلك اليوم طبا
 قال ذلك وهو على
 منبر وعظه سمع الرعاة
 من اهل بيته
 نطاطا راسدا قال
 ولي قديمي وكذلك
 ما زالوا في

تأليف مسكين محمد ريدحي الدين الحنفى القادري البشاورى
 على

عليه بالتحقيق في العلوم انه كان عارفا بالنساب الاشراف محققا في ذلك لا يقامه
 احد اذا تكلم فيها ولا يقاربه اه قال الحافظ التنسي في نظم الدرر والعقبا عند الكلام
 على موسى الجون جدا الامام الجليل ثم ان الله تعالى جعل البركة في عقبه فلك منهم
 ثلاث طوائف بنوا الاخضر ملوك اليمامة والهواشم وبنو ابي عزيز ملوك مكة وبنو
 بني ابن عزيز يبقى ملك مكة الى الآن اه باختصار فكتب الشيخ القصار على كلام
 التنسي المذكور عطفًا على الملوك المشار اليهم ما نصه والبركة الكاملة والنعمة
 الشاملة سيدنا عبد القادر الجليلاني صاحب الملك الحقيقي والخلافة القطبانية
 وكرم في ذرية سيدنا عبد القادر من الاخيار اه قلت وابوعزيز المذكور وهو قنات
 الذي اجانب الخليفة الناصر حين كتب له يعاقبه على عدم وفود له الى بغداد فكان جوابه

ولي كف ضرعام اذا ما بسطتها	بها اشتر يوم الوغى وابعيع
معودة لثم الملوك طهرها	وفي بطنها للمجد بين ربيع
تركها تحت الرهان وابتغى	بها بد لاني اذ الوضيع
وما نا الا المسك في رضى غيركم	اضوع واما عندكم فاضيع

السادس والخمسون قال مشجر العالم الشيخ محمد بن عباد الاندلسي السابع
 والخمسون قال مشجر العالم الشيخ علي بن عبد الوهاب الشامى الثامن والخمسون
 قال مشجر الشيخ عبد الواحد الوائش ريبى التاسع والخمسون قال مشجر الملقبة
 امام اهل الورع في زمانه الشيخ رضوان بن عبد الله الستون قال العالم
 الشيخ عبد الواحد بن احمد الحميدى الحادى والستون قال رقيم الشيخ
 على الصقلي الحسينى هاته الكتب الستة الاخيرة اطلع عليها المحقق المسناوى
 ونقل منها ما يشفى الغليل ولو لا الاطالة لجلبناه مستوفى الثاني والستون
 قال النسابة العارف الشيخ ابو التوفيق المدينى المصرى في كتابه سرور المقلب

قال الشبلنجي في نور الابصار في طبقات الشارونبي

سمى عبد القادر الجليل

لان الله تعالى تجلى عليه وهو في بطن امه ما تقهقرة فتمت به اللاتمة

فسمعت به الرجال

ويشهد به وشاع

وهو في رضي الله عنه سنة احدى سنين

وحسامة ورفق

يقول دونه في حقه

قال بن الاثير

كان الجليل رضي الله عنه

من الصالح على حال

سليم وهو منبلي

والمذهب وهو منبلي

والمذهب وهو منبلي

والمذهب وهو منبلي

والمذهب وهو منبلي

الثالث والستون قال في كتاب الدر السني في بعض من بفا من اهل النسب الحسيني الرابع والستون قال العلامة والحبر الفهامة العالم الفاضل الشيخ الشبلنجي المدعو السيد بمؤمن نفع الله به في كتابه نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار الاقول من الاقطاب الاربعة سيدي عبد القادر الجليل رضي الله عنه هو ابو صالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن ابي ذؤيب بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن حسن المشي بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين ولد رضي الله عنه سنة ثمان وسبعين واربعمائة كذا في طبقات الشعراني قال وحكي عن امه رضي الله عنها قالت لما وضعت ولدي سميت له لقادر كان لا يرضع ثدييه في نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني عنه فقلت لهم انه لم يلتقم اليوم ثديي اتم انضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر بيلدنا في ذلك الوقت انه ولد للاشراف ولد لا يرضع في نهار رمضان انتهى الخامس والستون قال المحافظ النسابة الشيخ عبد الله بن طاهر السجداسي حيث ساله بعض معارفهم الفاسيين قائلا له ياسيدي اني احب الاشراف فعلى من تدلني منهم بفاس فقال له على الشرفاء القادريين فان بعض من له الصيت بها والشهرة في الشرف وسمى بعض المشاهير به ليس لهم من صحة النسب ما لهم السادس والستون قال في شجرة الانساب تلخيص العالم سيدي علي بن موسى الجزيري السابع والستون قال في المشجر المجدي وقد وقفت على النسخة الاصلية منه وعليها كتابات الموافقة والاعتراف بصحة ما فيها من نحو سبعة واربعين من نقباء الامصار ونسابة لاطار منهم العلامة الولي الشهير سيدي ابو الغيث القشاشي التونسي والسيد احمد الكي نقيب السادة الاشراف ببا فوالسيد محمد علي

نقيب القدر

والمذهب وهو منبلي ورواه مشهورين في تاريخ ابن الفلك و...

نقيب القدس لشريف وسيد علي عزوز وغيرهم وبعضهم باختامهم مع
خطوطهم هذا آخر ما اطلعت عليه من كتب النسابين ثم اعضدها باقوال من
صرح ايضا بشرف الامام الجليلي من المورخين واصحاب الطبقات والمناقب من العلماء
والعارفين فنقول اه الثامن والمستون قال لعالم الكبير العارف الشهير سيدي
احمد زروق الفاسي المغربي المالكي في كتابه القواعد لطريقة اه التاسع **الستون**
قال العفيف بن المبارك صاحب الفتح الرباني اه **السبعون** قال لاستاذ ابن
باخرمة الحمادي **والسبعون** قال الشيخ مراد الشاذلي في الفتح الكامل **التاثير**
والسبعون قال الشيخ علي بن يوسف الميبي **الثالث والسبعون** قال
الشيخ نور الدين عبدالرحمن الجامي قدس الله سره والعز في كتابه نفحات
الانس **الرابع والسبعون** قال لعالم الفاضل محمد بن محمود الملقب بدهار
في كتابه المحاشية على نفحات الانس الشيخ محي الدين السيد عبدالقادر الجليلي رضي الله
عنه ونسبه الشريف السيد محي الدين عبدالقادر ابن ابي صالح موسى جنكي
دوست ابن عبدالله بن يحيى الزاهد ابن محمد بن داود بن موسى بن عبدالله
بن موسى الجون بن عبدالله المحض وينعت بالجلال بن الحسن المثنى بن الحسن
ابن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم وامه فاطمة شريفة حسينة
وقال الباز الاشهب الشيخ السيد عبدالقادر قال كل قطب يطوف بالبيت سبعا
وانا البيت طاييف وقال رضي الله عنه جدي المصطفى شفيع الانام وقال وحكي
عن امه رضي الله عنها قالت لما وضعت ولدي عبدالقادر كان لا يرضع تدبير في
نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني عنه فقلت
لهم انه لم يلتم اليوم ثديا ثم اتضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر ميلادنا
في ذلك الوقت انه ولد للاشراف ولد لا يرضع في نهار رمضان وبمضمون الحديث

بالمعاني والاسل
بالفارس شيخ من الذين
سيد عبدالقادر جليل
اراد ان يجعل
بانه بعض التوسيم
اراد ان يجعل
بغداد است جوصد
رست كرس
لايمان وجدار
اليشان ارا
وحالا اولاد
آخاني باشه
باردق دار
عليش امنت
في الدين عبد
ابن صالح
ابن عبد القادر
ابن محمد
ابن محمد
ابن محمد

الجبلي الحادى والثمانون قال العالم الفاضل السيد عبد اللطيف المعروف
بسيد شاه محي الدين قادري نقوى مدراسى في كتابه فصل بخط أسند تقريرين
سيد المحبوبين شيخ شيوخ العالم الغوث الاعظم امام الربانى السيد عبد القادر
الجيلاني رضي الله عنه انتهى الثاني والثمانون قال لامام العارف بالله ذوالصباية
في الحضرة النبوية سيدي عبدالرحيم البرعى ؛ ذكر ذلك في قصيدته له ربانيا
متوسلا فيها بالحضرة النبوية ؛ ورجال الخرقه الجليلية مطلعها ؛ لكل خطب مهم
حسبي الله ؛ ارجو بلامن ما كنت اخشاه ؛ الى ان قال بعد ذكر ابي سعيد شيخ الامام الجبلي

طلائع الفضل نوراني محيا	ومنه في الشيخ عبدالقادر اتمجت
حسنا وكالبدومك العين مرءاه	كالشمس تسفر من اقصى مطالها
وكالصبا خلقان رق مهوا	وكالغمام اذا ستمطرت كوما
اقي بد الدهر فردا عن مثناه	من آل فاطمة الزهراء ذوشرف
كالسيفان راق حسنا رتحده	على جلالة انوار هيبت

الثالث والثمانون قال الشيخ الجبرقي في تاريخه في ترجمة السيد عبد الخالق
المصري حفيدا لجبلي الرابع والثمانون قال سيدي محمد المنلا التونسي
والثمانون قال الشيخ ذوالانوار والكرامات الغوار سيدي محمد بن اسماعيل
الكيالى الحلبي في رسالته وهو ممن حصل المشارب السنينة من الطريق القادرية
والشذلية والرفاعية والنقشبندية مقدم في جميعها بشهادة خمسة وسبعين
من الاعلام السادس والثمانون قال الشيخ محمد عيسى القيرواني السابع
والثمانون قال العالم ذوالاذواق الصوفية الشيخ محمد الامين الكيلى التونسي
في المواهب الجليلية الثامن والثمانون قال القطب الكامل سيدي عبد الله
باعلوى اليمنى التاسع والثمانون قال بن فضل الله صاحب مسالك الامصار

التسعون قال ابن شاكِر في تكملة الحادي والتسعون قال الشيخ ابن الزكي
 الثاني والتسعون قال سيدي مصطفى البكري الثالث والتسعون قال
 العلامة اليفرنى الرابع والتسعون قال الامام ابن الازرق الخامس والتسعون
 قال سيدي عبدالسلام الاسمر السادس والتسعون قال الامام المنزلي السابع
 والتسعون قال نعمة الرحمن للعالم الزباني لسيد ابي بكر شطالمكي الثامن
 والتسعون قال الشيخ عيسى التجاني في شرح استغاثته صرح بنسب الجيلي
 عند قوله في النظم : مولاي عبدالقادر الجيلي : دعونا على ذي خسة اظماني :
 التاسع والتسعون قال العلامة في النظم واسماء ابائه الكرام رضي الله عنهم

اسم صاحب هذه
 القصيدة ابو الحسن
 القاسمي الشاذلي
 ولذلك قال في نشيد
 القاسمي يرحموني
 رثا باربنا
 بالهيكل النوراني
 انظر الى

<p>قرب الوجود ومجد العيان في البار عبد القادر الجيلي في ششم تسلسل من ذري الامكان من شر كل معاند اوجان ياسيدي من طارق الحدثان كاس الصفا واملاه بلايقان واقضى حوائج عندك الوهان واجعلني في بحر المجد الفاني واشفي سقامي اذهبن اخواني وتبجي احبي القلب بالعرفاني ثوب البها والود في الازماني ولد بيننا فاحمي من نقصان بالجون موسى جدي فبفضهاني</p>	<p>ياربنا بالهيكل النوراني غوث الوجود وغياته وملاذه بد رضاء الكون من انواره اسلك بنا نهج الهداية ورحمنا وانلنا ما نرجوه منك وبنحنا وافتح لنا ابواب فضلك واسقنا بآبائه عبد الله فرج كربنا وبنجنا ووست يا الهى اغنني بالقطب عبد الله دارمي كيلي وانعش فوادي بالمودة والرضي بمحمد وابير داؤد واكسني موسى بآبائه عبد الله صلح شاننا والطف بنا في كل ما قدرتنا</p>
---	---

نتيجة التحقيق في بعض اهل النسب الوثيق للشيخ المسناوي وهو من اهل
 التمير والضبط في اسباب الاشراف و صوب في بعض تأليفه غلطات في مرجع
 اسباب بعض الاشهر الرابع عشر الشيخ محمد بن قاسم القصار قال المسناوي وقت
 عليه في غير ما تقييد بخطه وكان رحمه الله ممن يعتمد عليه ويرجع في هذا
 الباب اليه لشدة بجهته عنه ومزيد اعتناؤه به ورسوخ علمه ومثانة دينه
 واطال الثناء عليه لاسيما في تحرير النسب الشريف الى ان قال قال شيخ الجماعة
 سيدي عبدالقادر الفاسي في حق الشيخ القصار بعد الثناء عليه بالتحقيق في
 العلوم انه كان عارفا بانساب الاشراف محققا في ذلك لا يقاومه احد اذ تكلم فيها
 ولا يقاربه اه قال الحافظ التنسي في نظم الدرر والعقيان عند الكلام على موسى
 الجون جدا امام الجيلي ثم ان الله تعالى جعل البركة في عقبه فملك منهم ثلاث
 طوائف بنو الاخضر وملوك اليمامة والهواشم وبنو ابي عزيز ملوك مكة وفي بني
 ابن عزيز بقي ملك مكة الى الان اه باختصار فكتب الشيخ القصار على كلام
 التنسي المذكور عاطفا على الملوك المشار اليهم مانصه والبركة الكاملة والنعمة
 الشاملة سيدنا عبدالقادر الجيلاني صاحب الملك الحقيقي والخلافة القطبانية
 وكرم في ذرية سيدنا عبدالقادر من الاخيار اه قلت وابو عزيز المذكور هو فتادة
 الذي اجاب الخليفة الناصر حين كتب له يعاتبه على عدم وفوده له الي بغداد فكان جوابه

بها اشتري يوم الوغى وابيع
 وفي بطنها اللجد بين ربيع
 بها بدلا اني اذ الوضيع
 اضوع واما عندكم فاضيع

ولي كف ضرغام اذا ما بسطتها
 معودة لثم الملوك الظهرها
 التزكها تحت الرهان وابتغى
 وما انا الا المسك في ارض غيركم

الخامس عشر مشجر العالم الشيخ محمد بن عياد الاندلسي السادس عشر مشجر العالم

والمناقب من العلماء والعارفين، فنقول التاسع والعشرون جامع علمي الظاهر
 والباطن القطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراي في طبقاته الثلاثون العالم
 الكبير العارف الشهير سيدي احمد زروق لغاسي الحادي والثلاثون الشيخ الصفد
 الثاني والثلاثون العفيف بن المبارك صاحب الفتح الرباني الثالث والثلاثون الاستاذ
 ابن باخمومة الرابع والثلاثون الشيخ مراد الشاذلي في الفتح الكامل الخامس والثلاثون
 الشيخ علي بن يوسف الميبي السادس والثلاثون الشيخ نور الدين الجامي في فحما الانس
 السابع والثلاثون انس الجليليس شارح ابن باديس الثامن والثلاثون الامام عبد الله
 اليافعي اليميني التاسع والثلاثون المحافظ الذهبي بنقل المسناوي عنه الاربعون
 الاستاذ عبد الرزاق ابن الامام الجيلي في فاتحة فتوح الغيب قال قال والدي ابو
 محمد محي الدين سيدي عبدالقادر بن فلان الى الحسن السبط بل قال في محل آخر سألت والدي
 عن نسبه فاجابني بانه ابن فلان بن فلان الخ قلت نقلت هنا عن الشيخ عبدالرزاق
 ابطال القول للمعتض ان هذه النسبة لم يرفه بها الشيخ ولا ابناؤه وانما هي من الاحفاد
 الحادي والاربعون العلامة الجامع سيدي احمد بن المبارك اللطيف صاحب الابرين
 الثاني والاربعون كتاب جامع الاصول الشهير الثالث والاربعون الشيخ المحبي في
 خلاصة الاثر في ترجمة السيد نعمة الله من سلاله الجيلي الرابع والاربعون الامام
 العارف بالله ذوالصباية في الحضرة النبوية سيدي عبدالرحيم البرعي ذكر ذلك
 في قصيدة له ربانية متوسلا فيها بالحضرة النبوية ورجال الخوذة الجيلية مطلعها
 لكل خطب مهم حسبي الله ارجوبه الامن مما كنت اخشاه الى ان قال بعد ذكر

ابي سعيد شيخ الامام الجيلي

طلابع الفضل نوراني محيا

ومن في الشيخ عبدالقادر اتمجت

حسنا وكالبدل العين مرءاه

كالشمس تسفر من اقصى مطلعها

وكالغمام اذا استعطرت به كروما	وكالصبا خلقا ان رق مهووا
من آل فاطمة الزهراء وذو شرف	اتي به الدهر فردا عن مشناه
على جلالته انوار هيدبت	كالسيف ان رق حسنا ورحله

الخامس والاربعون الشيخ الجبرتي في تاريخه في ترجمة السيد عبد الخالق المصري حفيدا لجليل السادس والاربعون سيد محمد المنلا التونسي السابع والاربعون القلائد للشيخ ابن يحيى التادفي الثامن والاربعون تفریح الخاطر للمقدس الاربلي التاسع والاربعون الشيخ ذو الانوار والكرامات البغزاري سيدي محمد بن اسماعيل الكيالي الحلبي في رسالته وهو ممن حصل المشارب السنوية من الطريق القادرية والشذلية والرفاعية والنقشبندية مقدم في جميعها بشهادة خمسة وسبعين من الاعلام الخمسون الشيخ محمد عيسى القيرواني الحادي والخمسون العالم ذوالاذواق الصوفية الشيخ محمد الامين الكيالي التونسي في المواهب الجليلية الثاني والخمسون القطب الكامل سيدي عبد الله باعلوي اليميني الثالث والخمسون ابن فضل الله صاحب مسالك الامصار الرابع والخمسون ابن شاكري تكلمته الخامس والخمسون الشيخ ابن الزكي السادس والخمسون سيدي مصطفى البكري السابع والخمسون العلامة اليفري الثامن والخمسون الامام ابن الازرق التاسع والخمسون سيدي عبد السلام الاسمر الستون الامام المنزلي الحادي والستون فحة الرحمن للعالم الرباني السيد ابي بكر شطا المكي الثاني والستون الشيخ عيسى الشجاني في شرح استغاثته صرح بنسب الجليل عند قوله في النظر

مولاي عبد القادر الجليلاني عونا على ذي خسة اظمانجي

الثامن عشر مائة قال السلطان محمد داراشكوه ابن السلطان شهاب الدين شاهجان الدهلوي في كتابه سفينة الاولياء قال ان حضرت غوث الثقلين شام

محي الدين سيد عبدالقادر الحسيني الحسيني رضي الله عنه هو سيد العارفين
 فخر العابدين قطب الصمداني السيد عبدالقادر الجيلاني هو ابن السيد ابو صالح
 موسى جنكروا وانت بن ابي عبد الله بن يحيى الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود
 بن السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي
 المرتضى رضي الله عنهم حسني من جانب الاب وحسيني من جانب الام رضي الله عنه
 التاسع عشر ومائة قال العالم الفاضل محمد صادق لطيفي القادري المتخلص
 بمشربني في كتابه خوارق الصادقية من مواهب القادرية قال في بحر الانساب وغيره
 من الكتب صحح نسبه الشريف السيد الشريف والجوهر اللطيف القطب الرباني
 المحبوب السبحاني ابو محمد محي الدين الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني ابن السيد
 ابي صالح موسى وهو ابن السيد عبد الله وهو ابن السيد يحيى الزاهد وهو ابن
 السيد محمد وهو ابن السيد داود وهو ابن السيد موسى الثاني وهو ابن السيد
 عبد الله الثاني وهو ابن السيد موسى الجون وهو ابن السيد عبد الله المحض وهو
 ابن السيد الحسن المثنى وهو ابن الامام حسين المجتبي وهو ابن الامام علي المرتضى
 رضي الله عنه وعنهم اجمعين انتهى العشرون ومائة قال العالم الفاضل
 السالك الشيخ محمد شعيب قدس سره في كتابه مرآة اولياء الغوث العظم غوث
 الثقلين السيد عبد القادر وهو ابن ابي صالح السيد موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد
 بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن محمد بن السيد موسى الجون بن السيد
 عبد الله المحض بن السيد الحسن المثنى بن الامام المتقين حسن المجتبي بن علي المرتضى
 علي المرتضى كرم الله وجهه انتهى الحادي والعشرون ومائة قال العالم الفاضل
 السالك ميرزا جان جانان مظهر الشهيد رحمه الله الدهلوي في كتابه معمورة
 المظهرية سيد السادات سيد عبدالرزاق وهو عن ابيه القطب الرباني المحبوب

غوث الثقلين السيد محي الدين عبدالقادر الجيلاني وهو عن ابيه سيد السادات
 السيد ابي صالح موسى جنكوي وست وهو عن ابيه وشيخه السيد عبد الله
 وهو عن ابيه وشيخه السيد يحيى الزاهد وهو عن ابيه وشيخه السيد محمد وهو
 عن شيخه وابيه السيد داود وهو عن شيخه وابيه السيد عبد الله وهو عن شيخه
 وابيه السيد موسى الجون وهو عن شيخه وابيه السيد عبد الله المحض وهو عن
 شيخه وابيه سيد السادات جامع البركات الحسن المثنى وهو عن ابيه امام المؤمنين
 قدوة للتقين امام الحسن رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهو عن ابيه امام الهدى
 امير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه وعن امه سيده النساء فاطمة الزهراء
 رضي الله تعالى عنهم اجمعين وشيخه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين احمد
 مجتبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الثاني والعشرون ومائة قال
 العالم الفاضل خواجه محي الدين المعروف بسيد شاه محي الدين ابن السيد ابي صالح
 رحمه الله عليه القادري الكرنولي الساكن في الحيدرآباد في كتابه معدن الاسرار
 في بيان جواهر الابرا عند ذكر سلسلة القادرية سلطان الاولياء السيد عبدالقادر
 الجيلاني وهو من ابيه السيد ابي صالح موسى وهو من ابيه السيد عبد الله وهو
 من ابيه السيد يحيى الزاهد وهو من ابيه السيد محمد ابي احمد وهو من ابي السيد
 عبد الرحمن داود وهو من ابيه السيد موسى وهو من ابيه السيد ابي محمد عبد الله
 وهو من ابيه السيد موسى الجون وهو من ابيه السيد عبد الله المحض وهو من ابيه
 السيد الحسن المثنى وهو من ابيه امام الحسن المجتبي وهو من ابيه سيد ناعلي وهو
 من شفيع المذنبين صلى الله عليه وآله وسلم الثالث والعشرون ومائة
 قال العالم الفاضل السيد شاه محمد القادري في كتابه مشكوة ولاية الكبرى سيد
 الاولياء الاولين والآخرين فردا لافراد غوث الاغواث حضرة محبوب السمح السيد عبدالقادر

الحسيني الجعفري الجيلاي رضي الله عنه وارضاه ^{١٢٢}الرابع والعشرون ومائة قال
 في التاريخ ببلغ عبدالمؤمن خاني اعلم ان حضرة الغوث الاعظم السيد محي الدين الجيلاي
 بن السيد ابوصالح موسى بن الحضرة السيد عبد الله بن الحضرة السيد محي الزاهد
 الحضرة السيد محمد بن الحضرة السيد داود بن الحضرة السيد موسى بن الحضرة السيد
 عبد الله بن الحضرة السيد موسى الجون بن الحضرة السيد عبد الله المحض بن الحضرة
 السيد الحسن المثنى بن الحضرة الامام الحسن بن الحضرة سيدنا علي المرتضى رضي الله
 عنهم اجمعين وامه امة الجبار فاطمة بنت السيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد رجة
 الله عليهما ^{١٢٣}الخامس والعشرون ومائة قال لعالم المحدث المحقق الشيخ عبد
 الدهلوي في كتابه اخبار الاخيار وهي باللغة الفارسية قطبا لاقطاب فرد الاحباب
 الغوث الاعظم شيخ الشيوخ العالم غوث الثقلين امام الطائفتين شيخ الطالبين شيخ
 الاسلام محي الدين ابو محمد عبد القادر الحسيني الحسيني الجيلاي رضي الله تعالى عنه
 وهو من كمل الاولياء ومن اهل البيت من اعظم السادات الحسينية من احفاد عبد الله
 المحض بن الحسن المثنى بن امام المسلمين الحسن بن امير المؤمنين علي المرتضى رضوان
 الله وسلامه عليهم اجمعين ^{١٢٤}السادس والعشرون ومائة قال لعالم الشيخ
 احمد المغربي لكبح نجش في الرسالة العربية ^{١٢٥}السابع والعشرون ومائة قال العالم
 مير محمد صادق القادي اورنگ آبادي في المحبوب المعاني ^{١٢٦}الثامن والعشرون
 ومائة في المحبوب القلوب في لسان هندي دكهي ^{١٢٧}التاسع والعشرون و
 مائة قال لعالم حسن القطبي في لطائف القادرية ^{١٢٨}الثلاثون ومائة قال العلامة المحدث
 محي الدين النووي رحمة الله عليه في بستان العارفين ^{١٢٩}الحادي والثلاثون
 ومائة قال لعالم السيد عطا حسين في كنز الانساب عند ذكر اولاد الامام الحسن
 المجتبي رضي الله عنه في نسبة الثاني السيد عبد القادر الجيلاي رضي الله عنه

في عبارات الاصل
 باللغة الفارسية
 الاشارة قطب الاقطاب
 فرد الاحباب الغوث الاعظم
 شيخ الشيوخ العالم غوث
 الثقلين امام الطائفتين
 شيخ الطالبين شيخ
 الاسلام محي الدين ابو محمد
 عبد القادر الحسيني الحسيني
 رضي الله تعالى عنه
 وهو من كمل اولاد اهل البيت
 من اعظم السادات الحسينية
 من احفاد عبد الله المحض بن
 الحسن المثنى بن امام المسلمين
 الحسن بن امير المؤمنين علي المرتضى
 رضوان الله وسلامه عليهم اجمعين
 احمد المغربي لكبح نجش في
 الرسالة العربية السابع والعشرون
 ومائة قال العالم مير محمد
 صادق القادي اورنگ آبادي في
 المحبوب المعاني الثامن والعشرون
 ومائة في المحبوب القلوب في
 لسان هندي دكهي التاسع
 والعشرون ومائة قال العالم
 حسن القطبي في لطائف القادرية
 الثلاثون ومائة قال العلامة
 المحدث محي الدين النووي رحمة
 الله عليه في بستان العارفين
 الحادي والثلاثون ومائة قال
 لعالم السيد عطا حسين في
 كنز الانساب عند ذكر اولاد
 الامام الحسن المجتبي رضي الله
 عنه في نسبة الثاني السيد عبد
 القادر الجيلاي رضي الله عنه

دری و ثاقب و فرید و وحید
 با علم و افتخار و بلوغ و فصیح
 رافضی را از دو گسریز بود
 ذات او صاحب کرامات است
 غوث و قطب ملی و سلطان است
 جیل و حنیف و بفرادای
 حسنی و حسینی است و شریف
 پدرش راست نسبت احسن
 مادرش را بجعفر صادق
 هر که ابر سیادتش سخن است
 رافضی گفت شاه سید نیست
 خارجی گفت آن بلند نژاد
 آنکه اولاد او است بیشک آن
 بچنین گفت گوی نام معقول
 ذات آن شاه روشن است چو ماه
 ساقی است همیشه معمور است
 گرز بانم کیکی هزار شود
 مرقد پاک او است در بنیاد
 با دی خلق بود سوئی خدا

عالی و والی و حمید و رشید
 در همه اولیا بلوغ و صبیح
 خارجی را از دو ستیز بود
 بیگمان ابروی سادات است
 بره حق در لیل و برهان است
 بیشک و شبه مهدی و با دی
 احسن و محسن و لطیف و نظیف
 بیشک و ریب با امام حسن
 نسب راسخ است و هم و اثق
 و هوش زن که گنده تر دهن است
 گفته رافضی مؤید نیست
 فی زنی داشته است فی اولاد
 است نسل برادرش بچمان
 آن دو بد کیش کشته اند فضول
 باز اولاد او بر رفعت و جاه
 در دو آفاق فائض الثور است
 صد هزارش سخن گذار شود
 اهل عالم از او گرفت مراد
 قدس الله سره ابد

الرابع والثلاثون ومائة قال العالم الكامل قدوة السالكين السيد آدم
 النقشبندی في نكات الاسرار انه جرى في مجلس الشيخ فرید اللدين محمد گنج شکر

قال العالم العظمى
 السيد مظفر الدين
 في الفتح المبين ان
 السيد الشيخ محمد بن
 قدس سره و فرادای
 قد زال ما نال من
 القطبية بواسطة
 جد عليه الصلاة
 والسلام على اتم وجه
 و كحل حال فلكان
 رضي الله تعالی
 من اجابة هل اليت
 حسين من جملة اولاد
 حسين بن جعفر الام
 لم يصبه نقص العين
 و عن ابيات و كذا
 ذلك الازندقيان

امام موسی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن الامام حسین بن امیر المؤمنین علی رضی الله عنه

في الاوراد القادر ^{١٥١} بهما الحادي والخمسون ومائة قال الشيخ فريد الدين گنج
شكر في سر السالكين ^{١٥٢} الثاني والخمسون ومائة قال المولانا نور الدين عجمي
الجامي في الشواهد النبوة ^{١٥٣} الثالث والخمسون ومائة قال الشيخ محمد ابراهيم
البدر في ملفوظاته حقيقة الحقائق ^{١٥٤} الرابع والخمسون ومائة قال الشيخ
موسى نعتوى في العاملة القصة ^{١٥٥} الخامس والخمسون ومائة قال العالم كمال الدين
البغدادي في لطائف اللطيفة ^{١٥٦} السادس والخمسون ومائة قال الشيخ داود
القيصري في شرح فصوص ^{١٥٧} السابع والخمسون ومائة قال المفتي غلام
سرور اللاهوري في خزينة الاصفياء محبوب الثقلين سيد الكونين ابو محمد محي الدين
الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني بن السيد ابوصالح موسى بن السيد عبداللہ
بن السيد محي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن السيد موسى الثاني بن السيد
عبداللہ الثاني بن السيد موسى الثالث بن السيد عبداللہ المحض بن السيد محمد
المشهور بحسن المشي بن الامام ذوى الاحترام سيدنا حسن بن سيدنا علي مر الله
وجهه رضي الله عنهم اجمعين ^{١٥٨} الثامن والخمسون ومائة قال العالم مولانا شامحمد
علم اليقين في سلطان الازكار ومناقب غوث الابرار ان الغوث الاعظم محي الدين ابو
محمد السيد عبدالقادر الجيلاني بن السيد ابوصالح موسى زين الدين محمد بن
السيد عبداللہ الجيلاني بن السيد محي الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود بن
السيد موسى بن السيد عبداللہ بن السيد موسى ليجون بن السيد عبداللہ
المحض بن السيد الحسن المشي بن الامام سيدنا الحسن بن الامام سيدنا علي
المرضى كرم الله وجهه رضي الله عنهم اجمعين ^{١٥٩} التاسع والخمسون ومائة
قال في التنوير السير اعلم ان حضرت الغوث الاعظم قطب لاکرم سلطان الاولياء
برهان الاصفياء قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلين كهف الخافقين محي الدين

في ذكر نسب
صفي قاض السليبي
فريد الدين گنج
ابو حضرت الغوث قدس
الدين ابن الشيخ جمال
الدين سليمان بن تاج
شاه والى كابل
محمد داود بن الشيخ
محمد خليل بن الشيخ
عبدالجيلاني بن الشيخ
عبدالبار بن الشيخ
عبدالغفور بن
الطبع من الطارن
اشيخ محمد زكريا بن
اشيخ ابراهيم بن
اسم ابن عبداللہ بن
ابو القاسم بن

يكرتاب داخل جسنرى كورنث كورنثا تصد طبع نفوماين

والاحباب رضي الله عنهم

الكلية في رضي الله عنه وافاض علينا برة وفيوضه فوض هذا المنصب العلى الى
 حضرته ولم يتيسر لاحد بعد حضرات المذكورين سواه فوصول الفيض الالهى للاقطاب
 والنجباء والاولياء بواسطته في عصره وفي غير عصره ابداء الى هذا اشار بقوله
 افلت شموس الاولين وشمسنا ابداء على فلك العلى لا تغرب والشموس جمع شموس
 والمراد من الشمس شمس فيضنا العداية والارشاد ومن الاول انعدم الفيضات
 المذكورة وتعلق به ما كان متعلقا بالاولين وهو واسطة لا يصل الفيض الالهى
 اليهم اجمعين وما دام اتصال الفيض علينا فتوصيله يصل اليها انتهى الثاني
 والسبعون ومائة قال في تفريج الخاطر نقل الشيخ موسى التمهوي لسهروردي
 في كتاب المكاشفات الجنيدية تجلى الله على سيد الطائفة الخلوئية الجنيد البغدادي
 يوم الجمعة في اثناء الخطبة واستغرق في بحر المكاشفة والشهود وقال قدمه على
 رقبتي بغير وجودي وحى رأسه ونزل مرقة من مراقى للنبر وبعد افاقته واتمام الخطبة
 والصلاة سألوا منه عن كيفية ما قال في اثناء الخطبة فقال كشف لي من عالم الغيب
 انه سيظهر في وسط القرن الخامس جل من ولد سيد المرسلين صلى الله عليه
 وسلم يكون قطبا للعالم ولقبا بمحيي الدين ومسمى بالسيد عبدالقادر وهو الغوث
 الاعظم ومولده من كيلان ويكون مامورا بان يقول قد مي هذه رقبة كل ولي
 وولية الله من الاولين والآخرين سوى الصحابة والائمة من ذرية خاتم النبيين صلى
 الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين وخطر لي انى لست من عصره كيف اضع له
 رقبتي بقوله فجا في الخطاب من الله بالعتاب لاي شئ ثقل عليك هذا الامر فانه
 محبوبي ومن ذرية حبيبي وشأنه بين الاقطاب والاولياء كشأن رسولي محمد
 صلى الله عليه وسلم بين الانبياء وحضر جميع الاولياء بأرواحهم واجسادهم حين
 قوله قد مي هذه على رقبة كل ولي وولية الله لوضع رقابهم وانقيادهم اليه

بن الشيخ رضي الدين
 بن الشيخ محمد بن محمد بن الشيخ
 سليمان بن الشيخ
 بن الشيخ محمد بن الشيخ
 الاصغر بن الشيخ
 الواعظ الاكبر بن الشيخ
 اسحق بن الشيخ
 بن الشيخ ناصي الدين
 الشيخ عبد الله بن
 ابي الحسين وامام
 الهادي بن سيدنا علي بن ابي طالب
 رضي الله عنهما
 الناصر الدين المذكور
 بنت امير المؤمنين امام
 الحسن بن السيد

فلها قلت قدمه على رقبتي فمر تبته فوق مراتب الاولياء رضون الله تعالى
عليهم اجمعين الثالث والسبعون ومائة قال الاديب الفاضل الشيخ
مصطفى الباني الحلبي في ديوانه هذه القصيدة يمدح بها حضرة سيدنا ومولانا
شيخ الاسلام والمسلمين غوث الثقلين السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني
المحسني الحسيني رضي الله عنهما ونفعنا به

<p>على العواصم من اكناف بغداد وبان يولع اشجانا باكباد بالشام تمنح تقريبا بابعاد بالسفع ما عن برق اوحد احادي قوما حيني اليهم بعض وراي ودادي في نوادي قبل ايجادي ولا يترجم الا عنهم الشادي واجتلى نارهم في كل وقاد اذ البست شعار الفخر اسيادي عن غير جهل مناعن لك النادي وما تكلف من صيد واهجاد صوب الغمام وتروى علة الصادي صيد الملوك وتلوى لاسمه الهادي بمسنقر السباعن سطوة العادي فمعلق وملاذي عترة الهادي ة الخلق يوخذ عنهم كل استاذ</p>	<p>برق تألق وهنا والد جهادي جان جنوب رجال عن مضاجعها نار على الكرخ تصلح حرها مسج ترجي سحائب اجفان موكلة شوقا الى الجانب الشرقي ان به قد مانح الروح مني جهنم وريسا لا تسبح الورق الا من تذكرهم في كل حسن بدلي لكون اشهدهم هم عدتي هم عمادي هم رجائي هم هل انت يا باريك الزور اعجزنا عما تضمن من مجد ومن شرف من كل ازهر بيتسقي بغرته بل كل اغبر ذي طهرين ترهبه اوليك تقوم كل القوم جارهم نعم اذ الدهر ايدى لي فواجده رقي السموم اطباء القلوب هذا</p>
--	--

الشهر الشعبان في زمن شاه محمود بن شاه علاء الدين في سنة من الهجرة اذ ابلغ
 تسع وستين سنة ولدا السيد عبدالقادر في اول شهر رمضان وعيش تسع
 وثمانين سنة وتوفي يوم الجمعة اثنا عشر من ربيع الاول في زمن شاه عباس
 بن شاه محمود وقبره بجيلان ونقش خاتمه هو الحى القيوم وخادمه احمد بن الصالح
 واولاده المذكور اثنان السيد عبدالقادر رضي الله عنه والسيد محمد السيد
 محمد توفي شابا ابن السيد عبداللله الصالح المذكور اسمه عبداللله ولقبه الصالح
 وكنيته ابي محمد صادق ابن السيد يحيى الزاهد وامه حميدة بنت الشيخ عقيل ابن
 الشيخ موسى الجيلاني ولد بجيلان يوم الاربعاء احدى لعشرين من محرم في زمن شاه
 علاء الدين بن شاه فيوز في سنة (٤٢٢) من الهجرة اذ ابلغ عشرين سنة ولد
 السيد ابوصالح موسى وعيش في سنة تسع واربعين وتوفي يوم الاحد سابع
 الصفر في زمن شاه ضياء الدين بن شاه علاء الدين وتوفي في مرض حمى الدق ونقش
 خاتمه وما امر والاليعبد والله وخادمه محمد هاشم وله ابنان عبدالوهاب
 والثاني ابوصالح موسى وفي بحر الانساب الجامع وهو مستغرق بذكر سجمانه وتعلل
 وباسم انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو وقبره في جبل الكنوز هو قريب
 بقريه بدر تيمابن السيد يحيى الزاهد بن السيد محمد بن السيد داود اسمه يحيى
 ولقبه زاهد وتقى وكنيته ابو علي وامه فاطمة بنت الشيخ محمد بن احمد الباقلاقي
 من المشايخ الكبار البارز^ن وسأز هادهم وله احوال علي وكرامات ظاهر ولد بقلينا
 وهي قريه من الكيلان يوم السبت في الشوال في عصر شاه فيوز بن شاه عزة
 في سنة (٤٠٥) اذ ابلغ تسعة عشرة سنة ولد سيد عبداللله الصالح بجيلان
 في المحلة توران وعيش ثمان واربعين سنة وتوفي يوم الجمعة تسعة وعشرين من
 شهر رمضان في عصر شاه علاء الدين بن شاه فيوز سنة ثلث وخمسين واربعين

بمرض الكابوس وقبره بجبلان ونقش خاتمه هو الحى القيوم وخادمه نوح الحق والفضل
وله اولاد الذكور والاناث الذكور اثنتان موسى وعبد الله الصالح وبنت واحد
اسمه سليمة موسى وسليمة مات صغيرا ^{الله} ابن السيد محمد بن السيد داود السيد
محمد عابدين اسمه محمد ولقبه عابدين وكنيته ابي احمد تاج الدين بن السيد داود
وامه حليلة بنت الشيخ نجيب بن الشيخ ابن القاسم الشبكي ولد بقلينا يوم الاربعاء
من ربيع الآخر في عصر شاه سليمان بن شاه احمد في سنة اربع وثمانين وثلثمائة
اذ ابلغ الحادي والعشرون سنة ولد سيد يحيى الزاهد وعيش احدى وخمسين
وقوفي يوم الجمعة في التاريخ من العاشر رجب في عصر شاه سليمان بن شاه احمد في
سنة خمس وثلثين واربعائة بقلينا وقبره بكيلان ونقش خاتمه ان الله بالغ امره
واولاده تسعة البنين ستة والبنات ثلثة الاول عبد الواحد والثاني عبد الوهتا
والثالث عبد الرزاق والرابع يحيى الزاهد والخامس عبد القادر والسادس احمد
والبنات ثلثة الاول امينة الثانية زينب والثالثة عايشة مات ثمان نفر صغيرا
في القلينا والباقي السيد يحيى وخادمه محفوظ بن زكريا السيد ابا بكر داود بن السيد
موسى زكريا اسمه داود ولقبه سراج الدين وكنية ابا بكر وابوه موسى زكريا وامه
فاطمة بنت الشيخ عثمان القسري من الشيخ محمد من المشايخ الكبار العراقي ولد
يوم الاثنين في التاريخ التاسع من جمادى الثاني في عصر شاه عزرة بن شاه مصطفى
في سنة سبع وتسعين ومات في الكيماني اذ ابلغ سبع وعشرون سنة ولد
السيد محمد وعيش ثلاث وتسعين سنة وقوفي يوم الخميس بمرض الافلح في عصر
شاه احمد بن شاه نواز في التاريخ سبع وعشرون من شعبان سنة تسعين وثلثمائة
في اطراف البلخ وذهب لسبب الحصول العلم في البلدة سمرقند وقبره بسمرقند
ونقش خاتمه ان الله على كل شئ قدير وخادمه قاسم بن عمر وله سبع اولاد

الذكور والاناث ومن الذكور الاول محمد قاسم والثاني عبد الله الحمد والثالث محمد
عابدين والرابع شهاب الدين ومن الاناث زينب وجنة وعزة السيد موسى
زكريا بن السيد عبد الله اسمه موسى ولقبه شرف الدين وكنية ابو زكريا وامه
حفيفة بنت الشيخ ابو سعيد ابن قائل ابن ابي عبد الله الصوفي ولديوم الاحد
في التاريخ احدى وعشرون من ذى الحجة الحرام في عصر سبجان قليخان ابن السلطان
قليخان في سنة تسعة وسبعين ومائتين من الهجرة في النعمان اذا بلغ عشر ورسنة
ولد السيد ابابكر داود وعيش ستين سنة وعشر شهرا وتوفي يوم الجمعة في التاريخ
سنة من ربيع الاول في عصر سليمان قليخان بن سبجان قليخان في سنة اربعين
وتلثمائة في النعمان بمرض السرسام وقبره بجيلاان ونفس خاتمه ان رحمة الله قريب
من المحسنين وخادمه عمر بن الخالد وله الاولاد الذكور والاناث والذكور ثلث
عبد الوهاب وعبد القادر وابابكر داود وعبد القادر توفى صغيرا في النعمان السيد
عبد الله بن السيد موسى الجون اسمه موسى ولقبه الوتاج الدين وابوه السيد
موسى الجون بن السيد عبد الله المحض وامه آمنة بنت مأمون بن هارون ولد
في الطوس يوم الاربعاء في رمضان في عصر مقسط بالله بن مقتد بالله في سنة عشرون
ومائتين من الهجرة اذا بلغ السابع عشر سنة ولد السيد موسى في كربلاء وعيش سبعين
سنة وتسع شهرا وتوفي يوم السبت من السابع جمادى الاخر في عصر منعم بالله
بن منقسم بالله في سنة ثمانين ومائتين في الشتالف بحر بالمروانيون في الجبل الخمر
بجوج السرح من يد مسلم بن ابراهيم اولاد الاخ مروان وقبره في النعمان ونفس خاتمه
حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وخادمه هاشم بن احمد المتوكل وله ابن
وريات ابن موسى زكريا وبنات عجوزة ورحمة توفى عجوزة ورحمة صغيرا في الشتالف
السيد موسى الجون بن السيد عبد الله المحض اسمه موسى ولقبه الجون وكنيته

بن یزید جرد بن شهر یار ولد یوم الاثنین فی الشلوزان فی التاریخ التاسع والعشرون
من رمضان المبارک فی سنة خمس واربعین سنة فی عصر امیر المؤمنین معاویة
رضی الله عنه اذا بلغ خمس عشرة سنة خاطب بنت العم الحسین رضی الله عنه وکلم
فاطمة بنت الحسین رضی الله عنه واذ بلغ سبع وعشرون سنة ولد عبد الله المحض
وعیش ست وخمیسین سنة وتوفی یوم الخمیس من خامس الشوال سنة الحادی وواثة
وقبره فی النیسان ونقش خاتمه والله بصیر بالعباد فی روایة مات الحسن بن
الحسن سنة سبع وتسعین وله خمس وثمانون سنة وخادمه احمد بن عبد الله
وله ابنان عبد الله المحض وحسن وبنت خیر النساء وفی کنز الانساب حسن المثنی
من بطن صفور بنت سعد ابن زید ابن الخطاب وهو اخ سیدنا عمر بن الخطاب
رضی الله عنه وقال عمدة المحدثین وفضل المتورعین محمد بن
السَّمْعِيلُ الْبَخَّارِيُّ فِي صَحِيحِهِ الْبَخَّارِيِّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ بَابِ مَا يَكْرَهُ
من اتخاذ المسجد علی القبور ولما مات الحسن بن الحسن بن علی ضربت امرأته
القُبَّةُ علی قبره سنة ثم رفعت فسمعوها صاخا يقول الاهد وجدوا فاطموا وافاجاه
اخزبل يدسوا فانقلبوا انتهى قال العالم الفاضل الشيخ الشبلنجي في كتابه نور الابصار
فی مناقب آل بيت النبي المختار اما الحسن بن الحسن الملقب بالمثنی فكان جديلا
مهيبا فاضلا رئيسا ورعا زاهدا وكان يلي صدقات امير المؤمنين علی بن ابي طالب
رضی الله عنه يحكى عنه انه سائر الحجاج يوما بالمدینة والحجاج اذ ذاك امير بها فقال
له الحجاج يا حسن ادخل معك عمك عمر فی النظر علی صدقات ابيه فانه عمك ثقیة
اهلك فقال الحسن لا اغیر شرطا اشترطه امیر المؤمنین علی بن ابي طالب رضی الله
عنه ولا ادخل فی صدقاته من لم يدخله فقال له الحجاج انا ادخله معك قمرا
فامسك الحسن عنه ثم ما كان منه الا ان فارقه وتوجه من المدینة الى الشام

فی تیسر القاری
ما یکره من اتخاذ المساجد
علی القبور در بیان چیزی
که در هاست از کتب سید
بقره و سلمامات الحسن بن
الحسن بن علی و دیگر کلام
نور
شیرین بن محمد بن محمد بن
ابیطالب رضی الله عنه
امر الله القبط علی بن
سنة زوزان او زوزان
سوی بن علی ابو ذر و اولی
او شیخ غیره ابو اسحاق
و وقت فصحت صحیح
تبع

قاصدا

والله لا یوصل الی ابن خولة ابدا مات الحسن بن الحسن سنة سبع وتسعين وله
 خمس وثمانون سنة واخوه زید حی وارضی الی اخیه من امه ابراهیم بن محمد
 بن طلحة وضریت زوجته فاطمة بنت الحسين عمه علی قبره فسطاطا وكانت تقوا
 اللیل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحو والعین لجمالها فلما كانت رأس السنة قالت
 لمواليها اذ اظلم اللیل فقوضوا هذا الفسطاط فلما اظلم اللیل وقوضوه سمعت قائل
 یقول هل وجد واما فقد وانا جابه آخر یل یثسوا فانقلبوا انتهى واعقب الحسن
 بن الحسن خمسة رجال عبد الله المحض و ابراهیم القمر والحسن المثلث وامهم
 فاطمة بنت الحسين بن علی بن ابی طالب کرم الله وجهه وداود وجعفر واما
 ام ولد تدعى حبیبة کذا فی بحر الانساب انتهى ایضا قال الشبلنجی فی نور الابصار
 فصل فی ذکر مناقب السيدة فاطمة بنت الحسين بن علی بن ابی طالب رضی الله
 عنهم امها ام اسحق الیمیمیة بنت طلحة بن عبید الله کذا قاله الخطیب البغدادی
 ومثله فی الفصول المهمة وتزوج فاطمة بنت الحسين رضی الله عنهما ابن عمها
 حسن المثنی بن الحسن السبط عمها فولدت له عبد الله ویلقب بالمحض واما
 سمی بالمحض لکانه من الحسينین وكان یشبه رسول الله صلی الله علیه وسلم
 وكان شیخ بنی هاشم قیل له لمصرتم افضل الناس فقال لان الناس کلهم یتیمون
 ان یکونوا منا ولا ینتمی ان ینکون من احد وكان قوی لنفس شجاعا رعا قال بن الشرشیة ^{وصنه}

ببض حواثر ما هم من بریبة	کظباء مکة صیدهن حوام
یحسبن من لین الکلام زوانیا	ویریدهن عن الغنا الاسلام

وكان عبد الله یلی صدقات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بعد ابيه الحسن
 ونازعه فی ذلك زید بن علی بن الحسين ولهما فی ذلك حکایات مشهورة فی
 کتب التواریح ومات عبد الله المحض فی حبس ابی جعفر الدوانیقی مخوقا وولدت

ايضا فاطمة بنت الحسين صاحبة الترجمة للحسن المثني ابراهيم القمر والحسن
المثلث وكل منهم له عقب اه من بحر الانساب وفي بغية الطالب ومات المحض
هو واخوته في سبعين للنصور العباسي وكان موته سنة خمس واربعين ومائة
قال وسمي بالمحض لانه اول من جميع بين ولادة الحسن والحسين من الحسينية
واول من جمعها من الحسينية محمد الباقر اه ثم مات عنها الحسن فتزوجها عبد الله
بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم وفي الاغانى خطبا الحسن بن الحسن
بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم الى عمه الحسين فقال له الحسين يا ابراهيم
قد كنت انتظر هذا منك انطلق معي فخرج به حتى ادخله منزله فغيره في ابنته
فاطمة وسكينة فاختر فاطمة فزوجها اياها قال عبد الله بن موسى في خبره ان
الحسين خيره فاستخى فقال له قد اخترت لك فاطمة بنتي في اكثر شهايا با في فاطمة
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ومثله في الفصول المهمة وتاريخ الخطيب
البغدادي من رواية الزبير بن بكار وروى عنها الامام احمد وابن ماجه عن ابيها
الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما من مسلم يصا
بمصيبة فيذكرها وان قدم مشهدها فيحدث لها الاسترجاع الا كتب الله له من
الاجر مثل يوم اصيب وفي درر الاصداف ولما حضرت الحسن زوجها الوفاة قال
لفاطمة انك امرأة مرغوب فيك وكانى بعبد الله بن عمرو بن عثمان اذ خرج
لجنازتي قد خرج على فارس مر جلا جنته لا بساحلته يسير في جانب الناس فيعرض
لك فانكحي من شئت سواه فاني لا ارفع من الدنيا ورائي هما غيرك فقالت له آمن
من ذلك وحلفت له بالعق والصدقة انها لا تمتزوجه ثم مات الحسن وخرج
عبد الله بن عمرو ولجنازته في الحالة التي وصفه بها الحسن وكان يقال لعبد الله
بن عمرو والمظرف حسنه فنظر الى فاطمة حاسرة تضرب وجهها فارسل يقول لها

ان لنا في وجهك حاجة فارفقى به فاستجيت وعرف ذلك منها وخرت وجهها
فلما حلت ارسل اليها يخطبها فقالت كيف بايماني التي حلفت له بها فأرسل اليها
يقول لها لك بكل مملوك مملوكا وعن كل شئ شيان فعوضها عن يمينها فانكحته
وولدت له محمدا والقاسم وكان عبد الله بن الحسن المثنى ولدها يقول ما بغضت
بغضى عبد الله بن عمرو واحدا ولا احببت حب ابنه محمد احدا هو في الفصول المهمة
وليامات الحسن المثنى بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين على قبره فسطا
طا وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالبحور العين لجمها فلما كان رأس
السنة قالت لمواليها اذ اظلم الليل فقولوا هذا الفسطاط فلما اظلم الليل وقوضوه
سمعت قائلا يقول هل وجدوا ما فقدوا فاجابه آخريل يبسوا فانقلبوا انتهى وكانت
فاطمة رضي الله عنها كريمة وفي الفصول المهمة ايضا ان يزيد لما جهزهم الى المدينة
بعد قتل ابيها الحسين رضي الله عنه ارسل معهم رجلا امينا من اهل الشام في
خيل سيرها صحبتهم الى ان دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت الحسين لا ختها
سكينة قد احسن هذا الرجل لينا فهل لك ان تصليه بشئى فقالت والله ما معنا
ما نضله به الا ما كان من هذا الحلى قالت فافعلى فاخرجت له سوارين ودماجين
وبعثتاهما اليه فدرهما وقال لو كان الذي صنعته رغبة في الدنيا لكان في هذا
مقنع بزيادة كثيرة ولكي والله ما فعلناه الا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكانت فاطمة اكبر سنان من سكينة اهر قال القطب الشعراني في كتابه الانوار عن
شيخه الخواص ان السيدة فاطمة النبوية بنت الامام الحسين السبط مدفونة بالدر
الاحمر اهر وقال الشيخ عبدالرحمن الاجهوز الكبير السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين
السبط مدفونة خلف الدرب الاحمر في زقاق يعرف بزقاق فاطمة النبوية في مسجد
جليل ومقامها عظيم وعليه من المهابة والجلال والوقار ما يسر قلوب الناظرين

ولنا فيها رجوزة عظيمة ولنا جهاز يارلات وما اشتهر من ان فاطمة النبوية بدرب سعادة
غير صحيح وعلى تقدير صحة يحتمل ان يكون معبداها ويحتمل ان تكون فاطمة اخرى
من بيت النبوة اهو وهو موافق لما قالوه من ان اولاد الحسين رضي الله عنه الاناث ثلاث^ث
سكينة وزينب وفاطمة واحدة ثم رأيت في درر الاصداف ما هو صريح في ان الحسين
فاطمة صغرى وفاطمة كبرى وعبارته وبالاسناد عنهم لما قتل الحسين بن علي رضي الله
عنه جاء غراب فتمرخ في ردمه وطار حتى وقع بالمدينة على جدار فاطمه بنت الحسين
بن علي رضي الله عنهما وهي الصغرى فرفعت رأسها ونظرت اليه وبكت بكاء شديدا وانثنت^{تقول}

نعم الغراب فقلت من	تنعيه ويحك يا غراب
قال الامام فقلت من	قال الموفق للصواب
قلت الحسين فقال لي	بمقال محزون اجاب
ان الحسين بكر بلا	بين الاسنة والظراب
ابكي الحسين بعبرة	ترضى الاله مع الثواب
ثم استقل به الجنا	ح فلم يطق مرد الجواب
فبكيت مما حل لي	بعد الرضى المستجاب

فنعته لاهل المدينة فما كان باسرع من ان جاءهم خبر قتل الحسين رضي الله
عنه انتهى هذا وقد مر انفا ان فاطمة كانت مع ابيها بكر بلا عوانها كانت اكبر
سنان من سكينة لا يقال اذا كان للحسين فاطمة صغرى وفاطمة كبرى
هذا في المانع من ان فاطمة التي بدرب سعادة احداهما لا نأقول هذا مما
يحتاج الى نقل والشيخ الاجهوري حجة نفعنا الله ببركاته وامدنا من امداداته
تنبيه من اهل البيت بقرب مزار الشيخ الحموي بدرب سعادة السيدة صفية
بنت اسمعيل بن محمد بن اسمعيل بن قاسم بن ابراهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن

بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم توفيت صفية ليلة الخميس
 تاسع المحرم سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة من الهجرة النبوية كذا نقلته من خط
 بعض الفضلاء وعزاه لكتاب الانساب للشيخ منصور بن عبدالحق الاهريقي
 الفيومي وفي رحلة ابن بطوطة بعد الكلام على غزوة مانصه وبالقرب من هذا المسجد
 مغارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم وباعلى القبر واسفله
 لوحان من الرخام في احدهما مكتوب منقوش بخط يد يع بسم الله الرحمن الرحيم
 لله العزة والبقاء وله ما ذرأ وبرأ وعلى خلقه كتب الفناء وفي رسول الله اسوة هذا
 قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه وفي اللوح الاخر منقوش صنعه
 محمد بن ابي سهل النقاش بمصر وتحت ذلك هذه الايات

اسكنت من كان في الاحشاء مسكنه	بالرغم منى بين التراب والحجر
يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة	بنت الائمة بنت الانجم الزهر
يا قبر ما فيك من دين ومن ورع	ومن عفاف ومن صون ومن خفر

اهما ورده الشيخ الصالح ومن كلام فاطمة رضي الله عنها والله ما نال احد من
 اهل السفة بسفهم شيئا ولا ادركوا من لذاتهم شيئا الا وقد ناله اهل المروآت
 فاستتروا بجميل ستر الله توفيت رضي الله عنها سنة عشر ومائة كذا في كتب
 التواريخ انتهى حسن المثني ابن الامام سيدنا الحسن السبط ابن الامام
 علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ابن سيده نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ولدا للحسن رضي الله عنه في منتصف رمضان سنة ثلاث من
 الهجرة وهو اول اولاد علي وفاطمة رضي الله عنهما روى مرفوعا الى علي ابيه رضي الله
 عنهما قال لما حضرت ولادة فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسماء
 بنت عميس وام سلمة رضي الله عنهما احضرا فاطمة فانا واقع ولدها لستهل صارخا

في تاريخ علي الخليلي
 سيدنا الحسن بن
 علي بن ابي طالب
 رضي الله عنهم ابو
 محمد سبط رسول
 الله صلى الله عليه
 وسلم وريحانته
 وارض الخلقاء بنده
 اخرج ابن سعد
 عن ابن زبير
 سليمان قال الحسن
 والحسين اسمان
 من أسماء اهل
 الجنة ما سميت
 العرب بهما
 في الجاهلية
 ولما احسن رضي
 الله عنهما
 عنده في نصف رمضان
 سنة ثلاث من الهجرة

قادراني

انت

فاذناني اذنه اليمنى واقماني اذنه اليسرى فانه لا يفعل ذلك بمثله الا عصم الشيطان
 ولا تحدثا شيئا حتى آتيكما فلما ولدت فعلتا ذلك واتاه رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فسهو ولبأه بريقه وقال اللهم اني اجيذه بك وذريته من الشيطان الرحيم
 فلما كان اليوم السابع من مولده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سميتوه قال
 حريا قال بل سموه حسنا وعاش سبعوا ربعين سنة وشهد باسم من يدا العجوزة
 من سابع ربيع الاول يوم الخميس من وقت الصبح في سنة خمسين وقيل تسع واربعين وقيل
 غير ذلك من الهجرة وصلى عليه سعيد بن العاص فانه كان واليا يومئذ بالمدينة من
 جهة معاوية رضي الله عنه ودفن بالبقيع عند جدته فاطمة بنت اسد وكان
 عمره اذا سبعا واربعين سنة وكانت مدة خلافته منها سنة اشهر وخمسة ايام
 قال الشبلنجي في نور الابصار عن اسماء بنت عميس قالت قبلت فاطمة بالحسن فلم
 ارها ما فقلت يا رسول الله اني لم ار لفاطمة دما في حيض ولا نفاس فقال لها عليه
 السلام اما علمت ان ابنتي طاهرة مطهرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولادة خرجها
 الامام علي بن موسى الرضا وعق عنه صلى الله عليه وسلم فعن علي رضي الله عنه
 عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقال يا فاطمة احلقتي رأسه وتصدقتي
 بزينة شعره فضة فويرثا فكان وزنه درهما وبعض درهم اخرجته الترمذي وعن
 اسماء بنت عميس قالت عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن يوم سابعه
 بكبشين ام الحين واعطى القابلة الفخذ وحلق رأسه وتصدق بزينة الشعر ثم طلى
 رأسه بيده المباركة بالخلوق وختنه صلى الله عليه وسلم عن جابر ان النبي صلى
 الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما السبعة ايام وارضعته ام الفضل
 امرأة العباس بن عبد المطلب بلبن ابنها ثم فعن قابوس ان ام الفضل قالت يا رسول
 الله رأيت كأن عضوا من اعضائك في بيتي فقال خير ابرأيتيه تدر فاطمة غلاما

فترضيه بلبن قثم فولدت فاطمة المحسن فارضته بلبن قثم خرج الد ولاي البغوي
 في معجزة قالت فنجت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره فبال فضربت
 كفنه فقال عليه السلام اوجعت ابني رحمتك الله وفي الصفوة عن علي قال الحسن
 اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الرأس والحسين اشبه
 الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل من ذلك عن ابي هريرة رضي الله
 عنه قال لا زال احب هذا الرجل يعني الحسن بن علي بعد ما رأيت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يصنع به ما يصنع قال رأيت الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
 وهو يدخل اصابعه في حية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم
 يدخل لسانه في فيه ثم يقول اللهم اني احبه كذا في ذخائر العقبي صفة الحسن
 رضي الله عنه كان ابيض مشربا بحمرة ادخ العيينين سهلا لمحمد بن كثر للحية ذافرة
 كأن عنقه ابريق فضة عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل
 ولا بالقصير من احسن الناس وجهها وكان يخضب بالسواد وكان جعل الشعر حسن
 البدن ذكره الد ولاي وغيره عن محمد بن علي قال الحسن اني لاسمعي من ربي عز وجل
 ان القاه ولم امثر الى بيته فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه وعن علي بن
 زيد قال حج المحسن خمس عشرة حجة ماشيا وان النجائب لتقدمه وفي حياة الحيوان
 وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرات حتى انه ليعطي نعلا ويمسك اخرى وكنته ابو
 محمد واما القابه فكثيرة وهي التقى والزكي والسيد والسبط والولي واكثرها شهرة التقى
 واعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان
 ابني هذا سيد روى البخاري في صحيحه عن عقبية بن الحرث قال صلى ابو بكر رضي الله
 عنه العصر ثم خرج يمشى ومعه علي رضي الله عنهما فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب
 مع الصبيان فحمله ابو بكر رضي الله عنه على عاتقه وقال بابي شبيه بالنبي صلى الله

في اسنان الرغيب
 وخرج ابو يعين في
 الحليفة عن الحسن
 ان قال ان لاسني
 من ريب ان القاه
 اش الى بيتي
 عشرين حجة وخرج
 الحام عن عبد الله
 بن عبد قال لقد
 حج المحسن نسوا
 عشرون حجة ماشيا
 وان النجائب لتقدم
 بيديه في نواحي
 فضايق الانوار
 وسروياته من
 الاحاديث ثلاثة
 عشر حديثا كذا
 في السان وانه
 صلى الله بن اب
 في صحيحه
 قال عنه

عليه

عليه

فارصل الى معاوية يبذل له تسليم الامر على ان تكون الخلافة له من بعد علي
 ان لا يطالب احدا من اهل المدينة والحجاز والعراق بشئ مما كان ايام ابيه وغير
 ذلك من القواعد فاجابه معاوية الى ما طلب فاصطالحا على ذلك وظهرت الهجرة
 النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين
 عظيمتين من المسلمين وكان ذلك سنة احدى واربعين وكان اشبه الناس
 برسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاعي ولم يمت الحسن حتى قتل عبد
 الرحمن بن ماجم قاتل الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسمع رضي الله عنه
 رجلا يسأل الله عز وجل ان يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف الحسن يرسل
 بها اليه وكان يقول اني لا استحي من ربي عز وجل ان القاه ولم امش الى بيته فمضى
 عشرين مرة الى مكة من المدينة على رجليه وكانت الجنايب تقادمه وخرج
 من ماله لله تعالى مرتين وقاسم الله تعالى ثلاث مرات حتى انه كان ليعطي نعلا
 ويمسك نعلا وكان رضي الله عنه يجيز الواحد بمائة الف وكان اذا اشترى من
 احد حائطا ثم افتقر البائع يرد عليه الحائط ويرد فيه بالثمن معه وما قال قط
 لسائل لا وكان لا يعطى لاحد عطية الا شفعها بمثلها وكان يقول لبنيه وبني
 اخيه تعلموا العلم فان لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه في بيوتكم وليا شرب
 السم تقطع لبدنه فقال اني قد سقيت السم مرارا فلم اسق مثل هذه المرة
 وقال له الحسين رضي الله عنه يا اخي من تهم قال لم قال لقتله قال ان يكن
 الذي اظفه فانه اشد بأسا واشد تنكيلا وان لم يكن فاجب ان يقتل بي
 بريء فلما نزل به الموت قال اخرجوا فرأيتني الى صحن الدار فخرج فقال اللهم
 اني احتسب نفسي عندك فاني لم اصب بمثلها ثم قبض سنة خمسين ودفن
 بالبقيع رضي الله عنه وفي نور الابصار وروى انه لما حضرته الوفاة قال لاخيه

من الناس كما ورد في الخبر
 رواه الترمذي في سنن
 لعاقبة في سنة احدى واربعين
 وقاله قاله معاوية
 من الرضا في الخبر
 معاوية في الخبر
 لانه لم يكن يمشي
 في بيته فمضى
 موصوفين في الخبر
 واجتبت
 رتبة
 الامنة على شبيهة
 بالصدق في الخبر
 الى تصديق رسول الله
 صلى الله عليه وسلم
 حاتم الصدوق قاله
 ولازم الصدوق قاله
 وقع منه ضارة في الخبر
 وقعت في حال من
 في الخبر

الحسين

في رواية
٤٢

من الشيعة ولا من غيرهم قال وذلك لان الشيعة رجلان اما مى وزيد فالا مآ
 يعتمد في الامامة النصوص وهي معدومة في ولد الحسن باتفاق ولم يدع ذلك
 احد منهم لنفسه فيقع فيه الارتياح والزيدى يراعى في الامامة بعد علي الحسن
 والحسين الدعوة والاجتهاد وزيد بن الحسن هذا كان مسلما بنى امية ومقلد
 الاعمال من قبلهم وكان رأية التبعية لاعدائه والتأليف لهم والمدارة وهذا
 ايضا عند الزيدية خارج عن علامات الامامة وزيد خارج عنها بكل حال انتهى
 واما الحسن بن الحسن الملقب بالمشنى فكان جليلا مهيبا فاضلا رئيسا وعازدا
 وكان يلي صدقات امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال الفاضل
 الشيخ محمد بن علي الصبان في اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل اهل
 بيته الطاهرين نقل سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص عن ابن سعد
 في طبقاته انه كان للحسن من الاولاد محمدا الاصغر وجعفر وحمزة ومحمدا الاكبر وزيد
 والحسن المشنى وفاطمة وام الحسن وام الخير وام عبد الرحمن وام سلمة وام عبد الله
 واسماعيل ويعقوب والقاسم وابوبكر وطلحة وعبد الله وعن الاسلمى انهم على الاكبر
 وعلى الاصغر وجعفر وعبد الله والقاسم وزيد وعبد الرحمن واسماعيل والحسين الاقرب
 وعقيل والحسن وفاطمة وسكينة وام الحسن واقتصر البلاذري في الانساب على ذكر
 الحسن وزيد وحسين وعبد الله وابي بكر وعبد الرحمن والقاسم وطلحة وعمر ونقل
 المحب الطبري عن ابي بشير الدلابي انهم حسن وعبد الرحمن وعمر وزيد وابراهيم وعن
 ابي بكر بن الدراع انهم عبد الرحمن والقاسم والحسن وزيد وعمر وعبد الله واحمد
 واسماعيل والحسين وعقيل وام الحسن والعقب الصحيح الموجود الآن من الحسن السبط
 زيد والحسن المشنى لا غير فاما زيد فكان اكبر سنا من اخيه الحسن المشنى وبابعد
 قتل عمه الحسين عبد الله بن الزبير بالتحلقة لان اخته من امه وابيه ام الحسن

كانت تحت عبد الله وعاش مائة سنة على احد الاقوال واما الحسن البثني فحضر
الطف مع عمه الحسين واثنى بالجراح فلما اراد واخذ الرأس وجدوه وبه رمق
فقال اسماء بن خارجة الفزاري دعوه لي فحمله الى الكوفة وعالجه حتى برئ ولحق
بالمدينة والله اعلم انتهى وفي نورا الابصار قال المناوي رأيت في شرح مقدمة
الوصول للشيخ ابراهيم اللوهبي نقلا عن شيخه العارف ابي المواهب التونسي رضي
الله عنهما ان اول من تولى القطبانية من المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة
الزهراء مدة حياتها رضي الله عنها ثم انتقلت منها الى ابي بكر وعمر ثم عثمان ثم
علي ثم الحسن رضي الله عنهم انتهى لكن نقل عن العارف المرسى رضي الله عنه
ان اول الاقطاب مطلقا الحسن بن علي رضي الله عنهما والله اعلم وفي اسعاف
الراغبين واما الحسن فهو رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم
وربما نته و آخر الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وسلم سمته امه
حريا فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن ولم يكن يعرف هذا الاسم
في الجاهلية وكذا اسم الحسين وعق صلى الله عليه وسلم عنه يوم سابعه وحلق
رأسه وامران يتصدق بزينة شعره فضة وكان اشبه الناس به عليه الصلاة
والسلام اى من جهة اعلاه والحسين من جهة اسفله كما قاله بعض الفضلاء
جامعابين الروايتين ولى الخلافة بعد قتل ابيه بمبايعة اهل الكوفة فأقام
بها ستة اشهر واياها خليفة حق وامام عدل وصدق تحقيقا لما اخبر به جده
الصادق للصدق بقوله الخلافة بعدى ثلاثون سنة فان تلك الاشهر هي
المكحلة لتلك السنين فكانت خلافة منصوصا عليها وبعد تلك الاشهر سار
الى معاوية في اربعين الفا وسار اليه معاوية فلما تراى الجمعان علم الحسن
رضي الله عنه انه لن تغلب حدى المفتين حتى يذهب اكثر الاخرى فكتب

الى معاوية يخبره انه يصير الامر اليه على ان تكون الخلافة له من بعده وعلى ان لا يطلب احدا من اهل المدينة والحجاز والعراق بشئ مما كان ايام ابيه وعلى ان يقضى عنه ديونه وعلى ان يدفع اليه في كل عام مائة الف فبعث اليه معاوية برق ابيض وقال اكتب ما شئت فانا التزمه كذا في كتب السير والذم في صحيح البخارى عن الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه قال استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب امثال الجبال فقال عمرو بن العاص لمعاوية ان لا ترى كتائب لا تولى حتى يقتل اقربانها فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين اى عمروان قتل هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء من اى بعضيهم من اى بضيعتهم فبعث اليه رجلين من قرشي من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الرحمن بن عامر فقال ذهبا الى هذا الرجل فاعرض عليه وقولاله واطلب اليه فدخلا عليه وتكلموا وقال له يعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ويسالك قال من اى بهذا قال لا تخن لك به فاسألها شيئا الا قال لا تخن لك به فصالحها هو ويمكن الجمع بان معاوية ارسل له اولاً فكتب الحسن اليه يطلب ما ذكر ولما اتصالحا على ذلك كتب به الحسن كتابا لمعاوية والتمس معاوية من الحسن ان يتكلم بجمع من الناس ويعلمهم انه قد بايع معاوية وسلم اليه الامر ففعل ذلك وبما شج الله صدره بهذا الصلح ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواه البخارى واخرج الدوابي ان الحسن قال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سللت وبيجاديون من حاربت فشركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقق دماء المسلمين وكان نزوله عنها سنة احدى واربعين في شهر ربيع الاول وقيل في جمادى الاولى فكان اصحابه

وابن عساكر عن ابي رافع ان عليا تناول با با عند المحصن حصن خبير فتترس به
 عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله علينا ثم القاه فلقد رأيتنا
 ثمانية نفر يجهدان نقلاب ذلك الباب فاستطعنا ان نقلبه وروى البخاري في
 الادب عن سهل بن سعد قال ان كان احب اسماء علي رضي الله عنه اليه ابو
 تراب وان كان ليفرح ان يدعى بها واسمها ابو تراب الا النبي صلى الله عليه
 وسلم وذلك انه غاصب يوما فاطمة فخرج فاضطجع الى الجدار في المسجد فجاء النبي
 صلى الله عليه وسلم وقد امتلاه ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
 يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس ابا تراب وروى عنه عن رسول الله صلى
 الله عليه وسلم خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثا روى عنه بنوه الثلاثة
 الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير
 وابو موسى وابو سعيد وزيد بن ارقم وجابر بن عبد الله وابو امامة وابو هريرة
 وخلائق من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين وفي نور الابصار في
 ذكر مناقب سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم الرسول وسيف الله المسلول ولد رضي
 الله عنه بمكة داخل البيت الحرام على قول يوم الجمعة ثالث عشر المحرم رجب سنة
 ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين
 وقيل بالبعث باثني عشرة سنة وقيل بعشر سنين ولم يولد في البيت الحرام قبله
 احد سواه قاله ابن الصباغ واهه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف يجتمع
 مع ابي طالب في هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت وهاجرت مع النبي
 صلى الله عليه وسلم نقل عنها انها كانت اذا اردت ان تسجد لصنم وعلى رضي الله
 عنه في بطنها لم يمكنها يوضع رجله على بطنها ويلصق ظهره بظهرها يمنعها من ذلك
 ولذلك يقال عند ذكره كرم الله وجهه امي عن ان يسجد لصنم وهي اول هاشمية

قال ابن علي بن ابي طالب
 قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم
 قاله ابو الياسين بن عبيد بن
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 في عينه رضي الله عنه
 كان لم يولد في بيت
 الا في بيته
 وقد نقلت في كتابي
 هذا الحديث الطبراني
 حديث ابن عمر وعلي بن ابي
 طالب بن عمر بن ابي
 من حديث ابن عباس
 عن سعد بن ابي قيس
 عن سعد بن ابي قيس
 قال ما نزلت في الاية
 في آياتنا
 في آياتنا

ولدت

في آياتنا
 في آياتنا
 في آياتنا

ولدت هاشميا ولما ماتت كفنها صلى الله عليه وسلم بقميصه لانها كانت عنده بمنزلة
 امه وامر صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد وابا ايوب الانصاري وعمربن الخطاب
 وغلاما اسود فحفروا قبرها بالبقيع فلما بلغوا الحد ما حفره رسول الله صلى الله عليه
 وسلم بيده واخرج ترابه فلما فرغ اضطلع فيه وقال اللهم اغفر لامى فاطمة بنت اسد
 ولقنها حجةها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك محمد والانبياء الذين من قبلي فانك
 ارحم الراحمين فقيل يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن صنعته باحد قبلكما
 فقال صلى الله عليه وسلم البسستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت في
 قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر لانها كانت من احسن خلق الله تعالى صنعا
 الى بعد ابي طالب وترابي على رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك
 ان لما اصاب اهل مكة جدب وقحط اجمف بذي المروة واخر يذى العيال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان من ايسر بني
 هاشم ياعم ان اخاك ابا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ماترى فانطلق بنا
 الى بيته لتخفف من عياله عنه فتاخذت رجلا وانا آخذ رجلا فنكلمها عنه
 فقال العباس افعل فانطلقا حتى اتيا ابا طالب فقالا انا نريد تخفف عنك من
 عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما ابو طالب اذا تركتملى عقيل
 وطالبا فاصنعا ما شئتما فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه
 واخذ العباس جعفر افضمه اليه فلم يزل على رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله
 عليه وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه على رضي الله عنه و
 آمن به وصدقه وكان عمره اذ ذاك ثلاث عشرة سنة وقال ابن اسحق اسم على
 بن ابي طالب وهو ابن عشر وقيل غير ذلك وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف الا ابي
 قبولك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في اهله فقال يا رسول الله اتخلفني

عقبا وفاطمة
 وحسنا وحسينا فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم واخرج التراب
 عن ابي سعيد بن ابي زيد
 ارفع عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال ما كنت اذى لغيره
 عمه واخرج عمه احمد بن
 علي وابي ايوب الانصاري
 وزيد بن ارقم وروى
 هذيل بن ابي عمير عن ابي
 عمرو والبراء بن العوف
 حنين بن يحيى بن جهمير
 وسليمان بن ابي قاص وابي
 سعيد الخدري وابي
 البراء بن ابي عبيد
 وعطارة
 وزيادة

في النساء والصبيان قال اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى غير
 انه لا يني بعدى اخرج به الشيخان صفته كان آدم شديدا لادمة ثقيل العينين
 عظيمهما اقرب الى القصير من الطول اذ ابطن كثير الشعر عريض المحية اصلع ابيض
 الرأس واللحية وفي ذخائر العقبي كان ربيعة من الرجال ادعج العينين عظيمهما
 حسن الوجه كانه قمر بدرى عظيم البطن وكان رضى الله عنه عريض مايز للتكبين
 لمنكبه مشاش كشاش السبع الضارى لا تبين عضده من ساعده ادعج اذ ماجا
 شش الكفين عظيم الكرايس اغيد كان عنقه ابريق فضة وفي اسد الغابة عن زاتم
 بن سعد الضبي قال سمعت ابي يعنت عليا قال كان رجلا فوق الربعة فظم للتكبين
 طويل المحية وان شئت قلت اذا نظرت اليه قلت آدم وان تبينته من قرب قلت
 ان يكون اسم رادى من ان يكون آدم وفي اسد الغابة لما اخذ ابن ملجم ادخل على
 على رضى الله عنه فقال احبسوه والهبوا طعامه والبنوا فرشه فان اعش فاناولى
 دمي عفوا وقصا صا وان امت فالحقوه بى خاصمه عند رب العالمين ومكث رضى
 الله عنه جرميا يوم الجمعة والسبت وتوفى ليلة الاحد الثالث عشر من رمضان
 سنة اربعين وكان عمره اذ ذاك خمسا وستين سنة وقيل ثلثا وستين كالنبي
 وابى بكر وعمر وهو من عجيب الاتفاق قال الواقدي وهذا هو المثبت عندنا وقيل
 غير ذلك وفي سفينة الاولياء وشهد في ليلة الاثنين الحادى والعشرون من رمضان
 في سنة اربعين من الهجرة وقال بعضهم السابعة عشر من رمضان وقال بعضهم الثالث
 والعشرون من رمضان وفي مخبر الواصلين التاسعة عشر من رمضان في نور الابصار
 وصيته رضى الله عنه الحسن والحسين رضى الله عنهما روى انه لما ضرب به ابن ملجم
 اوصى الحسن والحسين وصية طويلة في آخرها يا بنى عبد المطلب لا تخوضوا ما للسلين
 خوضا تقولون قتل امير المؤمنين الا لا تقتلوا بى الاقاتلى انظر واذا انامت من ضروته

روى في الروايات
 من عاواه ولا يملك من ابي
 الفليل قال جمع على الفليم
 في الرضا قال جمع على الفليم
 باشه كل امت مسلمة
 رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول يوم تقوم
 الحما قال ما قام فقام
 البعثون من الناس
 شهدوا ان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم قال
 كنت سموا نعلنى في الايام
 والذين آواه ما يرضاه
 انظر

هذه فاضربوه ضرباً بضرية ولا تملوا بدفاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول اياكم والثلة ولو بالكلب العتور اخرجها الفضائل وفي رواية عن الحسن رضي الله
 عنه لما حضرت ابي الوفاة اقبل بوصي فقال هذا ما وصى به علي بن ابي طالب ابو محمد
 صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصاحبه اول وصيبي الى ان شهد ان لا اله الا الله وان
 محمداً رسوله وخيرته اختاره بعلمه وارضاة تخلقه وان الله باعث من في القبور سائل
 الناس عن اعمالهم عالم بما في الصدور ثم اني اوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما وصاني
 به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان ذلك فالزم بينك وابك على خطيئتك ولا
 تكن الدنيا اكبر همك واوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في اهلها عند محلها
 والصمت عند التشبه والاقتصاد والعدل في الرضا والغضب وحسن الجوارم واکرام
 الضيف ورحمة المجهود واصحاب البلاء وصلة الرحم وحب المساكين ومجالستهم والتواضع
 فانه من افضل العبادات وكوالموت والزهد في الدنيا فانك رهن موت وعرض بلاء
 وطريح سقيم واوصيك بخشية الله تعالى في سرائرك وعلائقك وانهاك عن مخالفة
 الشرع بالقول والفعل واذا عرض لك شئ من امر الآخرة فابدا به واذا عرض لك شئ
 من امر الدنيا فتناه حتى تصيب رشداً فيه واياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون
 به السوء فان تزين السوء بخير جليسه وكن لله يا بني عاملاً وعن الخنازير والبلع
 امر وعن المنكر ناهياً رابع الاخوان في الله واحب الصالح الصلاحه ودار الفاسق عن
 دينك وابعضه بقلبك وزابلد باعمالك لثلاث تلون مثله واياك والجلوس في العراقة
 ودع المماواة ومجاراة من لا عقل له واقتصد يا بني في معيشتك واقتصد في عيادتك
 وعلبك في باب الامر الدائم الذي تطبيقه والزم الصمت وبه تسلم وتدم لنفسك تغتم
 وتعلم المخير تعلم وكن ذا كرامة تعالى على كل حال وارحم من اهلك الصغير وذر الكبير
 ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل اكله وعليك باليوم فانه زكاة البدن

وجنة لاهله وجاهد نفسك واحذر جليسك واجتنب عدوك وعليك بحجال الذكر
 وأكثر من الدعاء فاني لم ألك يا بنى تصحوا وهذا فراق بيني وبينك واوصيك بأخيك
 محمد خير فانه ابن ابيك وقد تعلم حبى له واما اخوك الحسين فهو شقيقك وابن املك
 واميك والله الخليفة عليكم واياه اسأل ان يصلحكم وان يكف الطغاة البغاة بمنكم
 والصبر الصبر حتى يقضى الله هذا الامر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم قال
 يا حسن ابصر واضاربني الطعموه من طعامي واستقوه من شرابي فان عشت فانا اولي
 بحقى وان مت فاضر بوجه ضربة ولا تمثلوا به فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
 يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور يا حسن ان انا مت لا تغال في كفنى فاني سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلوا في الاكفان وامشوا بين المشيتين فان
 كان خير اجملة فإلى اليه وان كان شر الاقيتوني عن اكتافكم يا بنى عبد المطلب الفيتنة
 تريقون دماء المسلمين بعدى تقولون قتلتم امير المؤمنين الا لا يقتلن بى الا قاتلى
 ثم لم ينطق الا بلاله الا الله حتى قبض رضى الله عنه وغسله الحسن والحسين و
 عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية رضى الله عنهم وكفن في ثلاثة اوثاب ليس فيها
 قميص ولا عمامة وصلى عليه ابنه الحسن ودفن في الغري ليلا موضع معروف يزار
 الى الآن وقيل بالنجف وفيه يقول بعض الشعراء

سقطته سحائب الرضوان سما	كجو ديديه ينسجم انسجاما
ولا زالت رواة المزن قهدى	الى النجف التحية والسلاما

وقيل دفن بين منزله والمسجد وقيل دفن به صرا الامارة بالكوفة كذا في الفصول
 وقيل غير ذلك ومرور يانه في كتب الاحاديث خمسمائة وستة وثمانون حديثا وكتبه
 عبد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافضيد شريح بن الحرث
 الكندى ولما فرغوا من دفنه جالس الحسن رضى الله عنه وامر ان يؤتى بابن بيلم فحج به

فلما وقف بين يديه امر بضرب عنقه واخذوه الناس واحرقوه **الثالث والثمانون**
 ومائة قال السيد اسمعيل البغدادي في الفيوضات الرباني في مناقب الشيخ السيد
 عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه **الرابع والثمانون ومائة** قال العالم في بنج
 الزهر في المغاخر الشيخ عبدالقادر رضي الله عنه **الخامس والثمانون ومائة**
 قال لسانه داود اجودي في ملفوظات سيد عبدالرزاق ابن الغوث الجيلاني رضي
 الله عنه **السادس والثمانون ومائة** قال الفاضل محمد علي خان في كتابه
 الحسن الاذكار في مناقب غوث الابرار وبيان نسبه الشريف وبيان قدمه على قبة
 كل ولي الله **السابع والثمانون ومائة** قال سيدنا الغوث الاعظم رضي الله عنه
 في بيان الاسرار للطلبين **الثامن والثمانون ومائة** قال سيدنا الغوث الاعظم
 رضي الله عنه في الرسالة العزيزية **التاسع والثمانون ومائة** قال ابو الحسن
 قطب الدين احمد القادري القرشي في اعجاز الغوثية في بيان نسبه الشريف حضرة
 غوث الثقلين ابو محمد محي الدين السيد عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه ابن
 السيد ابي صالح موسى ابن السيد عبداللّه ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد
 ابن السيد داود ابن السيد موسى ابن السيد عبداللّه ابن السيد موسى الجون ابن
 ابن السيد عبداللّه المحض ابن السيد حسن المثنى ابن الامام سيدنا الحسن المجتبي ابن
 الامام امير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه **التسعون ومائة** قال العالم مولانا
 محمد سعيد المفتي في الرسالة القول الجلي في بيان قدمي هذه على رتبة كل ولي
الحادي والتسعون ومائة قال ابن الحجر في الفتاوى الحديثية وبيان قدمي
 هذه على رتبة كل ولي الله **الثاني والتسعون ومائة** قال العالم العلامة الشيخ
 احمد بن محمد الوترى الموصلى الرفاعي الشافعي في روضة الناظرين **الثالث والتسعون**
 ومائة في المجالس السابع عشر وهي بالنظم الهندي **الرابع والتسعون ومائة**

قال في تكلمه خلاصة للفاحر الخامس التسعون ومائة قال في حقيقة الشقا
 السادس التسعون ومائة في حياة السابغ والتسعون ومائة
 في كشتن الكرامات الثامن والتسعون ومائة في مخارج القادرية التاسع
 والتسعون ومائة في مرات اليصقان المائتان في شجرة الانساب هل البغلام
 وهو من قذوة السالكين زبدة العارفين سند الكامدين سيد المتكلمين عمدة الفاضلين
 المتمسك بجبل الله المتين شيخنا ومرشدنا سيدنا ومولانا السيد محمد صالح الحسيني
 الحسيني الجليل في البغدادي العراقي الحنبلي رحمة الله عليه توفي في سنة عشر وثلاثمائة
 والف في التاريخ اربعة وعشرون من ربيع الاول في بلاد الهند من توابع الهند ومقره
 في بلدة راني پور **وهذا شجرة**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله فاتح اقفال القلوب بذكره وكاشف استار الغيوب ببره ورائع اعلام الزوائد
 للقائمه بشكره واحده على ان جعلنا من اهل توحيدة واشكره طالب الفضله ومزيد
 واصل واسلم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه افضل انبيائه وعبيده وعلى
 آله واصحابه الحائرين بطويل الفضل ومزيده اما بعد فيقول العبد الفقير المقرب
 لعجزه بالتقصير الزاجي عفوريه الولي السيد محمد صالح القادري ابن السيد خميس بن
 السيد سلمان ابن السيد مصطفى ابن السيد زين الدين ابن السيد نور الدين
 ابن السيد محمد درويش ابن السيد حسام الدين ابن السيد نور الدين ابن السيد
 ولي الدين ابن السيد زين الدين ابن السيد شرف الدين ابن السيد شمس الدين
 ابن السيد محمد الهشاك ابن السيد عبدالعزیز ابن السيد السادات قطب الوجود
 الدرّة البيضاء مالذك ازمة المتصرفين واصل المجوبين امام الجواهر للفرق سلاب
 الاحوال قطب الاقطاب الغوث الاعظم الجامع بين المستوقين السيد الشيخ عبدالقادر

الحسيني

الجليلي قدس الله سره العزيز ابن أبي صالح موسى جنكي دوست ابن السيد عبد
 الله الجليلي ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داؤد ابن السيد
 موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد موسى الجون ابن السيد عبد الله المحض ابن
 السيد حسن المثنى ابن السيد الامام الحسن رضي الله تعالى عنه ابن السيد الامام
 علي رضي الله عنه ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن
 قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر
 ابن كنانة ابن خزيمية ابن مدركة ابن اليانس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان
 ابن اذ بن اد بن الهيصم ابن سلامان ابن جمل ابن بنت ابن قيد بن اسمعيل
 عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام ابن ازارق ابن تارخ ابن ناخور ابن شاروخ ابن
 ارضويت ابن فالغ ابن غابر ابن شالح ابن ارفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن
 لملك ابن اخنوخ ابن اليار دان ادريس ابن محملا تيل ابن قيمان ابن انوش ابن شيت
 ابن ادم عليه السلام ابي البشر وعلى نبينا افضل الصلوات والسلام وادم من
 التراب والتراب من الارض والارض من الزبد والزبد من الموج واللوح من الماء
 والماء من الدرّة والدرّة من القدرت والقدرت من الارادة والارادة من علم
 الله تعالى انتهى **الحادي** وما تسان قال العالم الفاضل القاضي طلال محمد البشاري
 في عروة الوثقى بسلسلة قدوة السالكين مخزن اسرار وحضور الشيخ عبد الغفور
 رحمة الله الشكور المعروف بابو البركات مستجمع الحسنات مولنا اخوند صاحب الصوات
 عليه الرحمة والتحيات وهي منظوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُرْتَبِعِي عِنْدَ حَوْمِ الْحَاوِثِ الْجَلِكِ
 مُقَدِّرُ مَالِهِ فِي الْأَمْرِ مِنْ مَثَلِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي السُّلْطَانِ مِنْ أَرْزَلِ
 مُهَيِّمٍ مَالَهُ فِي الْخَلْقِ مِنْ شَيْبِهِ

<p>وَلَا يَزَالُ وَلَا يَفِينِي وَلَمْ يَزَلْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ عَلِيٍّ وَمِنْ عَلِيٍّ رَأَيْتُ بَعْضَ ضِيَاعِ رَوْحَةِ الْأَمَلِ خَيْرُ الْخَلَائِقِ مِنْ حَافٍ وَمُتَعَبٍ هُوَ الَّذِي قَدْ هَدَانَا وَضَعُ السَّبِيلِ إِذْ قَامَ أَحْمَدُ فِينَا أَشْرَفُ الرُّسُلِ مَوْلَى الْأَنْبِيَاءِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ حَبِيبًا بَعْدَهُ أَمْرَ الْعِبَادِ وَبِي لِأَهْلِهِ فِي أَرْضِهِ التَّهْلِيلَ وَالنَّجْدِ بِلَا فُتُورٍ وَلَا مَهْلٍ وَلَا فَتْدِ وَقَضَاهُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَمَالِ جَلِيٍّ نَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُ شَيْخِي شَيْخُ كُلِّ وِلْيِ عِلْمَةٍ الْعَصْرِ عَبْدًا لَوْ جِدَّ الْبَطْلُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ فَخْرَ الْبَدِينِ وَالْبَدَلِ أَبُو سَعِيدٍ مَنِيحَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ شَيْخُ الْخَلَائِقِ مِنْ عَالٍ وَمُنْسَهْلِ أَنَا الَّذِي تَدْعِي فِي جِيدِ كُلِّ وِلْيِ مُنَوَّرَعْنَهُ وَأَوْغِيْرُذِي خَطْلُ جَنِيْدُ نَامِنُهُ ذَكَرَ الْمُسْتَعَانِ بُلِيٍّ مُحَمَّدٌ فَضْلُهُ السَّامِي تَسْبِيْحَ لِي جَزَاءُ رَبِّي جَزَاءُ الْخَيْرِ فِي الْعَمَلِ</p>	<p>قُلْ هُوَ اللَّهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ صَمَدٌ وَفِيهِ ضَلَّتْ عَلْوِيٌّ لَمْ يُصَبْ وَطَرًا خَيْرُ الصَّلَوةِ الَّتِي مِنْ سَيْبِ عَارِضِهَا عَلَى النَّبِيِّ أَمِينِ اللَّهِ بَدْرُ دُجَى مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْأَشْرَافِ مَنَقَبَةٌ فَهَيْدُنَا أَشْرَفُ الْأَدْيَانِ قَالِبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلْوَمُ الْبَدِينِ حَدِيثَنَا وَبَعْدَهُ مَنْ بَاهَتِ الْحُسَيْنِي بِهِ حَسَنٌ وَبَعْدَهُ أَوْ دَلَقِي الذِّكْرُ فِي عِلْنِ أَدَى وَصِيَّتِهِ الْمَعْرُوفِ سَيِّدِنَا وَبَعْدَهُ قَامَ عَبْدًا لِلَّهِ مُرْشِدِنَا رَوَى جَنِيْدًا أَصُولَ الذِّكْرِ عَنْهُ وَقَدْ وَبَيْنَهُ فَاصَتْ شَاهِبِي الْعُلُومِ إِلَى رَوَى أَبُو الْفَرَجِ السَّامِي عُلُومَ هُدَى أَلَى أَبُو الْحَسَنِ الْوَلِيٍّ وَبَعْدَهُ بَدَا فَعَبْدُ قَارُونَ الْجَلِيلِي إِمَامَ هُدَى وَهُوَ الَّذِي نَالَ فِي الْقَوْلِ الشَّرِي عِلْنًا شَهْدُ وَرَ عَنْهُ رَوَى ذَكَرَ الْإِلَهِ كَمَا شَهْ عَالِمٌ ثُمَّ أَحْمَدُ ثُمَّ مُرْشِدُنَا صِدْقٌ بَعْدَهُ شَيْخٌ وَمِنْ عِلْنِ وَبَعْدَهُ فِي شُعَيْبٍ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ</p>
--	--

عبد الصغور

عَبْدُ الْعَفْوِ إِمَامُ الْحَقِّ مُرْشِدُنَا
 لَهُ إِلَى سَيِّدِنَا الْحَيْدَرِ رَابِطَةٌ
 فَعَبْدُ رَافِقُنَا تَالِ الْمَعَارِفِ مِنْ
 وَلَا حُورُ الْهَدَى مِنْ شَمْسِهِ شَرَفًا
 وَمِنْهُ نَالِ بَهَاءِ الدِّينِ لَا مَعَانٍ
 لَأَحْتِ عَقِيدًا وَتَمَسُّرَ التَّيْنِ لَمَعْتُهُ
 أَعْبَنِي بِهِ شُغْلٌ وَكُرَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 أَبُو الْحَسَنِ فَا زَمِينُهُ تَمَّ عَارِفُنَا
 وَبَعْدُ سَيِّدٌ كَمَا تَمَسُّرَ لِيَلْتِنَا
 سَيِّدٌ زَبَعْدُ هُمْ تَمَّ الْجِدُّ دُنِي
 وَأَدَمُ بَعْدَهُ تَمَّ الْحَيْدِبُ لَقَدْ
 فَشَاهُ بَارِئِيْلِيَهُ مُؤْمِنُ الْكَكْرِي
 هَلُمَّ نِسْبَةُ الْعَرِّ الْمُرْشِدِنَا
 أَقُولُ نِسْبَتُهُ الْأُخْرَى مُشْتَرَحَةٌ
 فَبَعْدُ أَدَمُ قَدْ وَصَى بِهَا دُرْنَا
 وَمِنْهُ عِلْمٌ مَا مَوْنٌ أَحْوِثِقَةٍ
 مُحَمَّدٌ بَعْدَهُ تَمَّ الْجِبَلِي حَسْبًا
 وَالْحَسِبُ طَرِيقَتُهُ الْعَلِي الْمُرْشِدِنَا
 رُوِيَتْ عَنْ نِسْبَةِ أُخْرَى وَأَظْهَرُهَا
 حَيْرٌ الْأَفَاضِلُ مَسْتَانُ الْجِبَلِي حَكْمًا
 وَبَعْدُ سَيِّدُنَا أَحْمَدُ تَتَبَعَهُ

شَادَ الْأَصُولَ وَكَمْ مَهْمَلٌ وَكَمْ عَيْلٌ
 أُخْرَى أَقُولُ وَأَشْفَى الْقَلْبَ عَنْ غَلْطِ
 آيِيهِ عَوْنُ الْوَرَى كَالْوَابِلِ الْهَطِلِ
 إِذَا اتَّخَى فِي كُلِّ مَوْجِ الْحَقِّ كَالطَّلِبِ
 كَأَشْمَسِ ضَاحِيَةً لَا وَهَى فِي الطَّفَلِ
 وَصَارَ مِنْهُمْ كَمَا رَحِمَانَ فِي شُغْلِ
 بِيْرًا وَجَهْرًا وَفِي أَمْنٍ وَفِي وَجَلِ
 شَيْخُ الْمَعَارِفِ لَيْسَ فِي عَرَى عَيْلِ
 وَمِنْ فَضِيلِ كَمَالِ الدِّينِ مِنْ كَمَلِ
 الْعُرْفَانِ وَالْعِلْمِ رَفِي مَنَاحِي لِقَلْبِ
 وَفِي عُلُومًا أَتَتْ مِنْ سَيِّدِ الرُّسُلِ
 بِهِمْ صَدِيقٌ بِحُسْنِ الْإِحْتِقَادِ يَبِي
 كَمَا مَضَتْ قَبْلُ فِي شِعْرِ عَلَيْكَ تَبِي
 وَقَابِيَهُ اللَّهُ يُجَنِّبُنِي عَنِ الْخَطَلِ
 مَنْ قَدَرَهُ فِي الْمَعَالِي خَيْرُهُ الْمُقْبَلِ
 رَسُومَ زِكْرِي نَعِيمًا صَادِقَ الْعَمَلِ
 صَدِيقُنَا وَهُوَ تَمَسُّرَ الدِّينِ وَالِدَوْلِ
 كَمَا مَضَتْ اِنْقِافًا فِي الْأَسْطُرِ الْأَوَّلِ
 يَدَا مِثْرَاءٍ وَلَا زَيْغٍ وَلَا مَيْسَلِ
 رَوَى عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلِي
 شَيْخُ الْمَشَائِخِ عَبْدُ اللَّهِ ذُو نَيْبِ

صَارَ لَهَا عَيْنٌ الدُّنْيَا مُسْتَعْبِلٌ
 مَحْفُوظَةٌ عَنْ حَدْرُثِ الْوَعِينِ وَالْخَلِيلِ
 زَيْنِ الْهَدَى فِي أَرْوَاحِ الَّذِينَ ذُلَّ جِلْدُ
 نَيْلِ الْمَرَامِ غِيَاثُ الْبَدِينِ ذُو جَدَلٍ
 شَمْسُ الْمَعَارِفِ سَيِّدُ مَنْهَا أَمِيلُ
 إِلَى جَنِيْدٍ بِمَا كَيْفِ وَلَا مَثَلِ
 آخِذَةٌ اللَّهُ مِنْ بُونِ وَمِنْ غَيْلِ
 تُضْرَبُ إِلَيْهِ كِبُودُ الْأَنْبِيَاءِ الدُّلَالِ
 هَذَا هُوَ الْأَخْرَجُ السَّامِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ
 يُجْتَنَبُ فِيهَا إِلَى التَّمْهِيدِ فِي الْعَمَلِ
 لَيْسَ السُّكُّنُ فِي الْعَيْنَيْنِ كَالْحَكْلِ
 وَسَيِّدِي وَمَلَأَ دُخَانُ فِي جَلَلِ

سَيِّدُ جَلَالِ إِمَامِي تُحَرِّفِي إِشْرَهُ
 قَبْعُهُ بِجَلَالِ الْبَدِينِ مَجْلِسُنَا
 وَيَعْبُدُ يَابِسِينَ مَسْتَانُ فَنَمُّ أَرَى
 تَعْبُدُ رَأْفَتَا الْوَأَنِي وَنَمَّةً مِنْ
 بَحْرِ الْفَضَائِلِ خَيْرُ اللَّهِ نُحْمَرُ إِلَى
 وَأَفْضَلُ الْعَصْرِ مَعْمُورٌ وَيَسْبَتُهُ
 هَلْكَ نَسْبَتُهُ الْبَيْضَا لِسَيِّدِنَا
 وَطَبَّ وَغَوَتْ وَلَا يَحْصِي فَضَائِلُهُ
 هَذَا الَّذِي بَاهَتْ الدُّنْيَا بِعِزَّتِهِ
 مَعْقُومَةٌ فِيهِ أَحْلَاقُ الْكِرَامِ فَكَلَا
 فِي الْخُلُقِ وَالْكَسْبِ بُونٌ إِذَا لَيْ مَثَلُهُ
 سَيِّحِي وَحِرْزِي وَمَوْلَانِي وَصُنْتِي

قلت هؤلاء الحادى و ما تان شيخان فاضل الامة واعيانها وفيهم اولياء
 العظام والعلماء الفخام من اكابر الاقطار وعمد الامصار كلهم مطبقون على ثبوت نسب
 الجليلي الشريف ليس فيهم من اشار الى خلاف فيه واوقول ضعيف بعضهم تلقى ذلك
 من الدفاتر العتيقة في النسب وبعضهم استفاده من التوازن الذي يستحيل معه الكذب
 وبعضهم اخذه من كشفه الصحيح زيادة على ما لاهل الظاهر من الالتمات الصريح فهل
 يبقى بعد اجماعهم ما يخامر العقل من ارتياب ومن اراد الاطلاع على كتبهم المشار اليها
 فالعرب بالباب واما حكم النازلة فحقا فان النسب يثبت بشهادة السماع والاستفاضة
 على الالسنه الغير المحصورة وهذا الحكم اتفقت عليه مذاهب الائمة الاربعة وهي محيط
 دائره السنة المحمدية اما النص عليها في مذهبنا المالكي فهو معلوم في شرح المختصر

في ردا على الطغ

و التحفة و غیره و اما اتفاق الایمة الثلاثة علی ذلک الحکم فهو مسطور فی دو او نیما من اراد تخفیف المطالعة فقد
 صرح به عالم المذاهب و محقق مہر کما سیدی عبدالوہاب اشعرائی فی المیزان الکبری و الامام ابو حنیفة یعمل
 بالاستفاضة علی الالسنہ فی خمسہ اشیا منها النسب و الامام شافعی فی ثمانیۃ منها النسب و الامام احمد
 فی تسعة منها النسب و المذہب المالکی فی تسعة عشر منها النسب فهو متفق علیہ عند جمیعہم قال الحق التسلوی
 فی شرحہ علی التحفة ما نصہ قبل الابن القاسم ایشہد بانک ابن القاسم من لا یعرف ابک و لا ابک ابنہ
 و لا بالساع فقال نعم یقطع ہذہ الشہادۃ و ثبت بہا النسب و الارث ابن رشد لا خلاف فی ہذا لان الجبر
 اذ ان شرفا د اعلم الخ انظر ان شئت فقد اطال بما یوید ذلک و قال ایضاً فی محل آخر یعمل بالساع فی النسب
 و لونی الشرف اہو الانساب تحازکما تحاز الاملاک کما قالہ الامام مالک نقل الاجوری فی فتاویہ و الناس
 مصدقون فی انسابہم کما قالہ سیدی خلیل فی التوضیح و ایہ الامام ولی الدین ابن خلدون فی مقدمتہ
 فی اثبات الشرف و قد اذنی فی مثل ہذاہ المنارۃ شیخ شیانفا عالم بسیطہ سیدی ابراہیم الریاحی زبیر الشوری
 المالیکیۃ بالقطر الافریق برساتہ نقل فیہا عن الاعلام ان الناس مصدقون فی انسابہم و لونی الشرف و حکم
 بوجوب الحد علی من نفی نساباً بائناً نقل فی ذلک نصوصاً متینۃ عن المدونۃ و غیرہ و ختمہا بقولہ و لیس ہذا القدر
 کاف لمن کتمت بصیرتہ بنور التوفیق و وان کان نطاق الاحاطۃ بتفصیل المنارۃ یضیق باب اول
در بیان نسب شریف سیادت حضرت محبوب جانی قطب ربانی غوث
 حمدانی غوث الاعظم قطب الاکرم شیخ شیوخ عالم سید السادات غوث الارض و اسموات شیخ الاسلام
 المسلمین غوث ثقلین و کف الخاقین حضرت شیخ نجم الدین ابو محمد سید عبدالقادر حسنی الحسینی البجلانی رضی اللہ
 عنہم نسب شریف سیادت ایشان ثابت و محقق است بروایات ثقات معتبرات از علمای کالمین محدثین مؤرخین
 و از فقہای کالمین و اولیاء اللہ العارفین و از کتب معتبرات عربی و فارسی و ہندی و دصد و یک کتاب عبارت
 تحریریہ و ثابت شدہ است نسب شریف سیادت کسی از علمای اہل سنت و جماعت خلاف مکررہ است
 و نخواہد کہ و یا معاند یا سفیہ یا جاہل یا رافض یا متدع و قول اہل زندقہ و عناد نباید شنیدہ و اعتبار بنا بر کرد
 کہ گمراہ است و گمراہ کنندہ است و نسب شریف ایشان بحد تو اتر رسیدہ است و جماع شدہ برین کہ بلا شک و سہم

تالیف سید محمد برجی الدین حنفی قادر غوری پشادری عفی عنہ

سادات انه واز نسل واصلیات اند از جانب پدر وولاد امیرالمؤمنین سید امام حسن رضی الله عنه اند و از جانب
 مادر وولاد امیرالمؤمنین سید امام حسین رضی الله عنه شهید که بلا اند و ترجمه عبارات کتب عربی و هندی بفارسی تحریر
 کرده میشود و آن ترجمه اینست و عبارات کتب فارسی بحسب منظور الذیل است بنظر انصاف از روی اشفاق
 ملاحظه باید نمود و استحقاق را از دست نباید داد و اسما کتب بعضی مضمضین ترجمه کتب عربیه و اصل عبارات کتب فارسی
 و مینه یعنی شواهد جناب قاضی القضاة قاضی سید ابونصر قدس سره این است اول عالم علامه شیخ الاسلام
 زین الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن امام شهاب لدین احمد بن رجب حنبلی بغدادی دمشقی و طبقات خود
 آورده است که از صحابا مام محمد بن حنیفه رحمه الله علیه است و زیند که ترجمه مولانا سید ارادلیا که داماد امام اصفیا
 ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی حنیفی رحمه الله علیه پسر سید ابی صالح موسی جنگی دوست پسر عبداللہ حبلی
 بغدادی زراشیخ عنصر و سلطان شایخ و قدوه عارفان و سردار طریقه در وقت خود سید محی الدین ابو محمد صاحب
 مقامات و کرامات و معارف و حوال مشهور و متصل است نسب ایشان با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه
 پیش یاده شد از عبداللہ حبلی پسر سید محی زاهد پسر سید محمد پسر سید داود پسر سید موسی پسر سید عبداللہ پسر موسی ابو
 پسر سید عبداللہ محض پسر سید حسن مثنی پسر امیرالمؤمنین امام حسن پسر امیرالمؤمنین علی بن طالب رضی الله عنهم جمعین
 تولد شد در سن چهار صد و هفتاد و یا چهار صد و هشتاد و یک در گیلان اتمی تاریخ تولد ایشان و عمر ایشان
 و وفات ایشان درین بیت سیننش کامل و عاشق تولد و وفاتش جوز مشوق الهی بیمنی تولد
 ایشان در سنه چهار صد و هفتاد و یک عمر نو و یک سال وفات پانصد و هشتاد و دو هم عالم علامه کامل و فقیه بی بدل
 ابو عبداللہ سید حسن بن عبدالرحمن اهل حسینی مثنی شافعی سنه متراج مختصر خود که تصنیف کرده است در سنه
 دین و ذکر حادثه سنه پانصد و هشتاد و یک است که وفات یافت قطب دلیا محی الدین سید عبدالقادر جیلانی
 ابن سید ابی صالح موسی ابن سید عبداللہ ابن سید محی زاهد ابن سید محمد ابن سید داود ابن سید موسی ابن سید عبداللہ
 ابن سید موسی ابو حسن ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن مثنی ابن امام حسن ابن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
 که مثنی و همه رضی الله عنهم و نسبت کرده شده است ایشان را بسوی جیلان و آن کلیت متفرقه ما و را در طریقت
 که از جیلان و گیلان گویند و در آنجا تولد شده اند و همه سید ابی عبداللہ موسی زاهد حسینی که جمله شیخ جیلان است

منابع غوثیه فی رد و فاعیه دمشقیه

که احوال عجیبه داشت اتمی سیلوم گفت عالم علامه امام زمانه عارف بالله عقیف الدین ابو محمد عبداللہ بن سید
 ابن علی بن سلیمان یا فی شافعی رحمۃ اللہ علیہما در تاریخ خود مراتب اجماع قطب اولیاء کرام شیخ الاسلام کن شمس
 نشان حقیقت و واضح اسرار حقیقت صاحب ای علمای معارف و مفاخر شیخ شیوخ و قد وہ اولیاء عارفین
 و اکابر استاد وجود ابو محمد سعیدی الدین عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی جنگلی دوست جمیلی حسنی شریف
 قدس سرہ و نور ضریحہ تاریخ وفات امام عبداللہ یا فی رحمۃ اللہ علیہ قطب مکہ معظمہ بن کتاب مجزا اولو اصیلین

<p>آن امامی که یا فی بود مقتدا ای خدا شناسان است از مریدان او که دل خواه است سال تحریک آن ستوده سرشت باز از روی اختلاف زبان هست در مکہ قرآن مغفور</p>	<p>تاریخ راه شافعی بوده صاحب فیض وجود و احسان است نور دین شاه نعمت اللہ است خردم گفت ادرج خلد بهشت گفت ساکن بخلد پیر و جوان زارش برور و شب ملائک دجوان</p>
--	---

جمہارم خاتم حفاظ محمدین و ایش علوم سلف صالحین امام عبدالرؤف المناوی قدس سرہ گفته در کتاب
 خود طبقات الکبریٰ اسمی بگوایب الدینی تراجم سادہ الصوفیہ است که سید عبدالقادر بن سید موسی بن سید
 بن سیدی زاهد جیلانی جنبلی از ذریت امام حسن رضی اللہ عنہ است روشن است ذکر ایشان در آفاق و اجامع
 کرده اند اہل خلاف و وفاق بر امامت ایشان اتمی پنجم شیخ محقق مدق ابو عبداللہ محمد بن احمد سنابلی
 ولای بکری صدیقی فاسی مغربی گفته است در کتاب خود توجیہ التحقیق فی بعض اہل الشرف الوثین ذکر کرده اند
 بعض حفاظ ثقات برستیکہ بود سردار ایمان سید شریف شیخ المسلمین و الاسلام ابی صالح محی الدین سید القادر
 حسنی دینی صدیقی بغدادی رضی اللہ عنہ ششم عالم علامہ حافظ ابو سعید عبدالکرم بن محمد بن منصور صومالی
 گفته است در تاریخ خود ابو محمد سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ از اہل جیلان و امام حنابلہ و تلمیذ شیخ ایشان است
 و عصر خود فقیہ صالح دین صاحب خیر مشفق بزرگوارم افکار شک با جاری از خوف باری تعالی اتمی ہفتم
 مورخین محب الدین محمد بن نجار گفته است در تاریخ خود آنکہ سید عبدالقادر بن سید ابی صالح جنگلی دوست زمانہ

ہدایت میکن محمد مریدی الدین حنفی قادری غفوری پشاوروی طفلی عنہ

یازدهم قطب بانی و امیر صدیقی سردار عبدالوہاب شافعی رحمۃ اللہ علیہما گفته است طبقات الکبریٰ
 سنی بلوچ تلخ الانوار فی طبقات الانبیا از ایشان سیدی عبدالقادر حبلی رضی اللہ عنہمین پسر سیدی موسی پسر سید عبدالقادر
 پسر سید محیی زام پسر سید محمد پسر سید داؤد پسر سید موسی پسر سید عبدالقادر پسر سید موسی چون پسر سید عبدالقادر محض
 پسر سید حسن شنی پسر سید نامن پسر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم جمعین تولد شد سید عبدالقادر
 رضی اللہ عنہم در ششگه چهار صد و هفتاد و دو فوات در ششگه پانصد و شصت و یک و مدفون شد در بغداد
 رضی اللہ عنہم انتہی و وار ذہم عالم علامہ امام زمانہ عقیف الدین امام عبدالقادر ابن اسعد یافعی سنی شافعی
 رحمۃ اللہ علیہما گفته است در کتاب فی روض الریاضین فی حکایات الصالحین و حکایات کردہ است تحقیق شیخ امام
 و استاد اکابر جامع در میان علم باطن و ظاہر صاحب حسب نسب شریف بنی فخر سید جلیل عبدالقادر حبیلانی
 قدس اللہ روحہ و نور ضریحہ یعنی پر نور گرداند قبر او را و گفته است کہ اجماع کرده اند در دو مشایخ کہ مثل ایشان
 در دنیا نیست یکی شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہم دویم شیخ ابی مرین مغربی قدس اللہ روحہ در مغرب مثل
 ایشان نیست و در شرق مثل شیخ سید عبدالقادر حبیلانی رضی اللہ عنہم نیست آہی سیر و ہم عالم علامہ
 عزالدین فاروقی گفته است در کتاب خود فتح المسکیتہ الرفاعیہ است تحقیق کہ بعض صوفیہ ذکر کرده اند
 نسب ایشان را کہ شیخ عبدالقادر حبیلانی رضی اللہ عنہم و حیثاً ما ظنن کردہ اند کہ نیست در نسب ایشان مایان را
 علم داشته تار یافته است از ایشان آنکہ عجم اند و آنکہ گفته است بستیری در اصل صحیح همین است و آنست
 کہ ایشان مردی فاطمی اند یعنی اولاد سیدہ نسا و العالمین فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما و شک و شبہہ
 در نسب ایشان تا بحمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم و سکونت کردہ اند اجداد ایشان در فارس تا زمانہ ایشان
 و ازین سبب عجمی فہم کردہ اند و آن صیبت کہ واجب است بر مایان کہ عقائد داشته بشیم بان و آنست کہ
 بدستیکہ و تحقیق او لیار اللہ از مایان عالمہ بودند بآداب شریع شریف و امور دینی و آہن و حجر شرعی است
 یعنی دلیل شرعی است اگر چند ثابت نباشد وصول ایشان آنچیز بر اکہ دعوی کردہ اند و حال آنکہ سیادت
 و نسب شریف ایشان مانند آفتاب نصف نہار است و بجد قوا تر رسیده است چنانچہ مولانا علی قادری رحمۃ اللہ
 دزیرتہ انما طر گفته است وحی آید ترجمہ عبارت ایشان و عبارت عربی تحریر یافته است ہی چهار و ہم

شیخ تقی الدین واسطی رحمه الله علیه گفته است در بجهت ارفاعیة الکبریٰ آنست بدستیکه غوثیت چیست و همین غوثیت
 ریاست مطلقه است در اولیا و بنیادش در عصر گری می باشد در کینفر از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همین
 مقام معروف تبطیبت است و تحقیق ذکر کرده اند از شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی رضی الله عنه که قطب اند استی
 پانزدهم این بر علیه شرفی گفته است در کتاب خج مسمی بروضه تحقیق آن مقام گرفت الله تعالی انزوریرام ناصر
 که معروف بود بر پسر بوزن ظالم از جهته آنکه حسد و بغض و هتد و تعدی و بدینتی در قبیح افعال داشت با و لا سلطان
 اولیا و بران اصفیا بحد و شریعت جد و بشیر و نذیر صلی الله علیه و سلم مولانا و سیدنا شیخ الاسلام ابی محمد محی الدین
 سید عبدالقادر جیلانی ابی صالح موسوی جنگی دوست این عبداللہ بن محی زاهد حسنی بغدادی رضی الله عنه و عنہم
 از جمیع در وقت مرگ از این یونس از زمین آن بر آید بیدای و سوخت تمام بدن او در وان شدیم در کم از زمین
 و بوی بد و مکروه داشتند از اهل خانه آن بر آنچه چیزی که فعل کرده بود او از روز زمانست آن کاری آید و مرد به جلال
 نگه دارد و خدا تعالی بایان و شمایان را که تعدی و ظلم کرده بود بر آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اولیا کرم
 بعد از آن بر سبیکه خلیفه امام ناصر فی الحال آمد در بغداد و بجانمای اولاد غوث رضی الله عنه آمد و عذر خواست
 و اگر امام دعا عز و احترام کرد ایشانرا و مقرر کرد بعضی مناصب عالی برای ایشان و تا که باینها قریب و محبت شد
 قول تعالی و ما ربک بغافل عما یعلم انظالمون انتی شانزدهم این عا و جنبل گفته است در کتاب خود
 شذرة الذهب آنکه کرامات ایشان قدس سره بحد تو اتر سیده است بخلات کرامات غیر ایشان از اولیا انظلموا
 نیامده است پس بر سبیکه نقل کرده یگان یگان و باین مقدار کفای میکند از برای دشمن بر جلالت قدر ایشان
 قدر الله سره بر این احتیاج دلیل نیست بسوی ایشان ذمیت صحیح در نظر چیزی که ذمیتی محتاج باشد آفتاب بسوی
 دلیل بر آنکه استغنی است از دشمن و بر آنکه استغنی نیست و روشن و هویدا است که نسب ایشان رفع میکند یعنی
 میرسد بجناب امام حسن رضی الله عنه باین وجه پس گفت حضرت شیخ سید عبدالقادر ابن سید موسی ابی صالح ابن
 سید عبداللہ ابن سید محی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی ثانی بن سید عبداللہ صلح بن سید موسی چون
 این سید عبداللہ محض بن سید حسن بنی بن امام حسن سبط بن سیده فاطمه رضی الله عنها بنت سید و امین و آخرین
 محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم آل و صحابه و سلم جمیع هفتدهم علامه آوسی گفته است در کتاب خود از ائمده

۱۱۰

شرح قصیده ابنازالاشهب از مرحوم ادیب لاثانی در بلاغت و فصاحت عجیب عبدالباقی افندی عمری در
قول ایشان که خوف من حضرت اباز به احتسین وانی و لافوادم اجل به و می آید در شرح خواتی مراد
از باز حضرت مولانا خوش صمدانی و مهمل ربانی شیخ سید عبدالقادر گیلانی قدس سر و همین آنست در تذکره الذکا
بن ابی صالح موسی جنگی دوست بن ابی عبداللہ عبداللہ بن یحیی بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبداللہ بن سید بوج
بن سید عبداللہ محض بن سید حسن بن شیخ بن امام حسن بسطین علی کرم اللہ وجہہ و ایشان نیرہ سید عبداللہ موسی امیر
شہر و ہم عارف جلیل صاحب علم طویل ولی اللہ شہیر صاحب مقام قدسی شیخ عبدالغنی بابلسی و شیخ نقشبندی
قادری قدس سرہ در بیح سلطان اولیاد و صاحبین امام جلیل عزت اعظم نبیل باز اللہ الا شہد لیسف الا شہد
مولانا قدوة نا شیخ السید محی الدین عبدالقادر حسنی الحسینی الجیلانی الجنبلی رضی اللہ عنہ قصیده درسی و شش بیت
عربی گفته و ثبوت نسب شریف و اسما و اجداد شریف بنظم کرده است که شیخ سید عبدالقادر ابن سید ابی صالح بونکا
جنگی دوست ابن سید عبداللہ بن سید یحیی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد ابن سید موسی ابن سید عبدالملک بن سید بوج
بن سید عبداللہ محض بن سید حسن بن شیخ بن امام حسن بن سید ناعلی کرم اللہ وجہہ انتہی فوز و ہم عالم ملہ بر فساد
امام سید جعفر بن سید حسن بن سید عبدالکریم بزنجی مرئی مفتی شافعی در مدینه منورہ صاحب مولد البنوی المنطوق مہر
مشور قدس سرہ گفته است در کتاب خود جنی الدانی در ذکر مناقب قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ عنہ پس میگوید من که ہوں شیخ کامل قدوة الواصل خزینہ معارف مرجع کل طب و عارف صاحب مقامات
عالی قدم را رخ صاحب ملکین تام و احوال متبرکہ و مقامات بلند غوث الثقلین صاحب تصرف بر جن در آن زمان کہ
کرا طوع میکند ابو صالح محی الدین سید عبدالقادر سید ابو صالح موسی جنگی دوست پسر سید عبداللہ پسر سید یحیی زاهد
پسر سید محمد پسر سید داؤد پسر سید موسی پسر سید عبداللہ پسر سید موسی جون پسر سید عبداللہ محض پسر سید حسن بن شیخ پسر
امام حسن بسطین پسر اللہ بن سید ناعلی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و پسر فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ عنہا بنت
سیدنا و نبینا صلوات اللہ علیہ وسلم نسب ایشان بود مانند آفتاب نصف النهار و مانند نور کہ بوقت صبح
می بر آید انتہی بیستم عالم علائق محمد پسر یحیی ناوی رضی اللہ عنہم گفته است در کتاب خود فلما لڑ الجواہر
و مناقب شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ ہمین سطور را بیان و شیخ الاسلام و مفتی ای اویدا و عظام نشان

تالیف میکند محمد رحیمی الدین خفی قادری غفوری پشاور حنفی عند

علم الهدی الذی من انتمی الیه کان من السعداء قطب بانی فرجام صحدانی دراصل طاہر محی الدین ابو محمد
 سید عبد القادر بن سید ابوصالح موسی جنگلی دوست بن سید ابی عبد اللہ بن سید محی زاہر بن سید محمد بن سید داؤد
 بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض بن سید حسن شینی بن امیر المؤمنین ابی محمد حسن
 بن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب
 بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر
 بن عدنان قریشی ہاشمی علوی حسینی حبلی حبیبی سید کہو اریایان عبد اللہ صومی زاہر کہ از جملہ شایخ کبار
 وزاہر جیلان و سرداران ایشان صاحب حالات سنینہ و کرامات جلیہ انتہی سمیت و حکم عالم حلیل و فاضل
 نبیل عالم علائق شیخ محمد امین بن احمد تونسلی مالکی رحمۃ اللہ علیہ گفته است در کتاب خود ریاض البساتین در
 اخبار سرداران سید عبد القادر حبلی محی الدین گفته است تمسی در نظم الدرر و العقیان پس بدستیکہ خدا بیجا
 نهاد برکت و عقبت ایشان پس سہ طاہرہ لوگ گشتند بنوا خضر ملوک یامہ و ایشان اولاد ابرہیم بن موسی جون
 نکو را ندوبنی عزیز و بنی ہاشم ملوک مکہ شرف معظم از مساوی گفته است و نوشته کرده است شیخ تصار بر کلامی است
 کہ برکت کاملہ و لغت شامہ سرداران سید عبد القادر جیلانی صاحب مالک حقیقی است و خلافت تطبیق ایشان
 و در ذریت سرداران سید عبد القادر از اخبار و عبد اللہ پیر موسی جون لقب بہ کامل و بجل اسم مفعول است
 از اجلال و محض بمعنی خالص است از ہم عیب و نسب را بنظم عربی آورده است ارج انتہی سمیت و دویم
 عالم علامہ جبر فہاشم شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر بنی شطنونی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ما در کتاب
 بہجت الاسرار و حدیث الاوار آورده است بر ادایت فقیہ عالم لاثانی ابو المعالی احمد بن شیخ محقق ابی الحسن علی
 بن احمد بن عبد الرزاق بن عسی ہلالی بغدادی گفت خبر داد ما را قاضی القضاة سید ابونصر گفت خبر داد ما را
 والدین سید عبد الرزاق گفت سوال کردم من از والد خود شیخ سید محی الدین عبد القادر از نسب ایشان گفت
 شیخ سید عبد القادر بن ابی صالح موسی جنگلی دوست بن سید ابی عبد اللہ بن سید محی زاہر بن سید محمد بن سید داؤد
 بن سید موسی بن سید عبد اللہ بن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض ایضا لقب بجل بن سید حسن شینی بن سیدنا
 اہم بن بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و عنہم نیر و سید ابی عبد اللہ صومی زاہر

مکتوب

سنة
هجری

و بهین شناخته میشود در جیلان پس سوال کردم از ایشان از ولادت ایشان پس فرمودند
 نمیدانم حقیقت آنرا مگر رقم در بغداد در آن سال که وفات یافت تمیمی و عمر من همان وقت
 از نوزده سال بود پس پرسیدم من از ایشان که تمیمی آن که ام کس است فرمودند ابو محمد
 رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحرث بن اسد وفات یافت در سال چهار
 صد و هشتاد و هشت پس بو مولد وی رضی الله عنه بر همین بیان در سنه چهار صد و
 هفتاد و هجرت او ما را فقیه ابو عبد الله محمد بن الشیخ ابی العباس احمد بن عبد الواسع
 بن ایرکاه بن شافع جلی جنلی رحمته الله علیه بدرستی که تولد شیخ محی الدین سید عبد القادر
 جلی جنلی رضی الله عنه در سنه چهار صد و هفتاد و یک بود در شهر جیلان و بدرستی که
 ایشان داخل شدند در بغداد در سنه چهار صد و هشتاد و هشت و عمر ایشان در وقت
 از پنجاه سال بود و جناب ایشان نسبت کرده شده اند به جیلان بکنسجم و سکون یا و
 آن ملک است متفرقه غیر طبرستان و در آنجا تولد شده اند و آنرا جیلان و گیلان و
 گیل نیز گویند انتهى الم بیست بیوم گفت عالم علامه عامل و فاضل کامل زبده محققین
 و عمده محدثین عارف و لی مولانا شیخ عبد الحق بن سیف الدین محدث دبلوی بخاری
 و ترک سمرقندی در کتاب خود زبده الاسرار ذکر کرده است نسب ایشان را و اوصاف
 ایشان را و آن حضرت غوث اعظم شیخ الشیوخ عالم سردار سادات شیخ الاسلام
 و المسلمین شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر پسر ابی صالح سید موسی پسر سید عبد الله
 پسر سیدی زاهد پسر سید محمد پسر سید داود پسر سید موسی پسر سید عبد الله پسر سید
 موسی پسر سید عبد الله محض و ما لقب شده اند بحل پسر سید حسن منشی پسر امیر المومنین
 امام حسن پسر امیر المومنین علی مرتضی پسر ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین نیره سید
 سید عبد الله صومعی الزاهد و بهین شناخته میشود در جیلان رضی الله عنه بیست
 و چهارم گفت فاضل ادیب شیخ عبد الباقی عمری موصلی عراقی در دیوان خود در باب

فاروقی قصیده در مدح سلطان اولیا و عارفین قطب ربانی قدیل نورانی غوث
 صدرانی مولانا شیخ محی الدین سید عبد القادر حسنی و حسینی جیلانی رضی الله عنه و تحقیق
 شرح کرده است کلان عجیب لطیف علامه عراق مفتی بغداد شیخ محمد مرحوم آلوسی بغدادی ^{رحمته}
 علیه و آن قصیده در صفحه ۳۰ همین کتاب است در اینجا ملاحظه باید کرد ^{۲۵} بیست و پنجم گفتم
 فقیه ربانی شیخ عبد الغنی ابن بلسی در کتاب خود در آخر شرح صلوات کبری که نامیده
 شده است بکوکب المعانی به و موکب المعانی شرح صلوات بدرستیکه شیخ سید عبد القادر
 گیلانی و بر برکت ایشان آسان کرده است بر ما خدا ایتعالی بهمین شرح را بر وجه
 اختصار بطریق شرح و بیان و امداد کرده است استاد ما بخدمت خدا ایتعالی و به استعداد
 انسانی در مقام روحانی قطب دائرة الوجود و کوکب سموات المعانیة و الشهود الفرد
 الکامل و العالم العلامة العالم السید الشیخ عبد القادر بن سید موسی ابی صالح جنکی دوست
 بن سید ابی عبد الله بن سید کجی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید
 عبد الله بن سید موسی جون بن سید عبد الله محض بن سید حسن مثنی بن سید سادات
 امام حسن بن امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه و عنهم اجمعین جیلانی
 نسبت است بسوی جیلان و آن ملک بیست متفرقه سوامی طبرستان و در اینجا تو که شد اند
 و گفته است امام عبد الرؤف مناوی تو که شده اند در جیلان در آنکه چهار صد هفتاد
 و ایشان نیره سید عبد الله صومعی زاهد که ایشان از اجل مشایخ جیلان بودند انتی
 بیست و ششم گفتم عالم عامل و فاصل بین الحق و الباطل شیخ سید علی بن شیخ سید کجی
 بن شیخ سید احمد بن شیخ سید علی در کتاب خود تحفة الابرار و لوازم الانوار ذکر نسب
 شریف طاہر ظاہر و باهر و مولد ایشان و شهر ایشان و هجرت ایشان رضی الله عنه
 بدانکه توفیق دهد الله تعالی ترا براه راست و خدا ایتعالی گرداند شمار از حزب
 ایشان و از سرداران ایشان و تحقیق پیدا کرد الله تعالی بقدرت خواز بحر بنویسے

صلے اللہ علیہ وسلم در شہوار بے بہا و ناپیدا مثل روشنی صبح از افق سما شیخ الاسلام
 مقتدی الاولیا العظام القطب الربانی و الفرد الجامع النورانی ذوی الاصل الطاهر
 و المجد الباهر شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پسر سید
 ابی صالح موسیٰ جنکی دوست پسر سید عبد اللہ پسر سید محی زاہد پسر امام سید محمد پسر امام
 سید داؤد پسر امام سید موسیٰ پسر امام سید عبد اللہ پسر امام سید موسیٰ جون پسر امام سید
 عبد اللہ محض پسر امام سید حسن ثنی پسر امیر المؤمنین امام حسن سبط پسر امیر المؤمنین
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پسر عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن
 کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ
 بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و ہست نسب ایشان مانند
 آفتاب نصف النهار ہاشمی علوی حسنی حسینی جیلانی نبیرہ سید عبد اللہ صومعی زاہد
 و ہمین شناختہ میشدند در جیلان و قتی کہ در آنجا بودند ولادت ایشان در سنہ
 چہار صد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد و ہفتاد
 در کل قضیہ محمود بن سلیمان مشہور کفومی در کتاب خود موسیٰ با اعلام الاخبار در کتبہ عاشر
 از سید عارفین و قبلہ و اہلین شیخ ربانی محبوب سبحانی غوث صمدانی قطب اولیا
 و غوث اصفیا ابو محمد سید عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ بن سید عبد اللہ جبلی حسنی و
 حسینی قدس سرہ و بود مادر ایشان ام الخیر امۃ البجائر بنت سید ابی عبد اللہ صومعی
 و ولادت ایشان در سنہ چہار صد و ہفتاد و یک بود و مادر ایشان بود صفا احوال
 فاخرہ و کرامات باہرہ و ظاہر گردانید اللہ تعالیٰ از ایشان احوال عجائب و غرائب
 اتنی بیست و ہتم گفت سید سادات تاج الدین ابو بکر سید عبد الرزاق ابن شیخ الاسلام
 شیخ محی الدین سید عبد القادر رضی اللہ عنہ و رفووح الغیب گفت پدر من مواید
 الایمہ سردار طوالت ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی حسنی و حسینی و صدیقی

ابن سید ابی صالح موسیٰ جنجلی دوست بن امام عبد اللہ بن امام محیٰ زابدین امام محمد
 بن امام داؤد بن امام موسیٰ بن امام عبد اللہ بن امام موسیٰ جون بن امام عبد اللہ محض
 بن امام حسن شیخی بن امام سیدنا حسن بن امام امام اسد اللہ الغالب مخزومی غالب
 امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم و عنہم اجمعین و در
 مرات الاولیاء آورده است سید شیخ تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق قدس سره قدوه
 و کمال اتقیا بود در علوم ظاہر و باطنی از آنحضرت رضی اللہ عنہ بوجه کمال کسب نمودند
 و خلق بسیار از فیض صحبت ایشان بدرجہ کمال رسیدند و تفکر و سکوت با ایشان غالب
 بود و زهد و ورع بر تہ اعلیٰ داشتند و از حیای پروردگاری سال سر بالا نگذردند
 ولادت ایشان در ۲۵ شہنیا صد و بیست و ہشت ہجری و عمر شریف نمود و پنج سال
 و وفات ایشان در ۲۳ شہنیا صد و بیست و ہشت ہجری و قبر شریف در بغداد است
 انتہی بیست و ۲۹ و نم گفت امام عالم فاضل کامل فرید عصر و جدید ہر عالم علامہ محقق مدقق
 محدث الشہیر الساری مولانا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ بلطفہ العالی در
 کتاب خود نزم بہ الحما تر فی ترجمہ سیدی الشریف عبد القادر محی الدین سلطان
 الاولیاء و العارفین الاکابر الحسینی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ اما بعد پس میگویم من
 امیدوار از برکات صاحبین از در گاہ رب العالمین علی بن سلطان محمد القاری
 بدرسیلنگہ رسیدہ است بمن از کلام و حسد رافضیان و منافقان حجاب از راہ ہدایت
 در حق مولانا و سردار ماتاج مفاخر آنکہ گردن نہادند اکابر قطب ربانی غوث
 صمدانی سلطان الاولیاء و العارفین سید شریف شیخ الاسلام محی الملتہ و الدین عبد القادر
 حسنی و حسینی جیلانی قدس اللہ روحہ و فتح علینا فتوحہ گفتند رافضیان آنکہ حضرت
 سیدنا شیخ نیست در نسب از سادات و نماندہ است اولاد در عقب ایشان تا بہ
 اینجا بعضی فقہا کوتاہ فکر نیز موافقت بہ کلام اہل ضلال و طغیان کرده اند از راہ

۲۹

بحالت و موافق نیست کلام ایشان بتحقیق و آنکه حق ایشان را دریافت نکرده اند و
 جرات عظیم کرده اند در باب نسب شریف ایشان نبی و انبیا از غیر تحقیق و دور
 بودن از اثبات این لائق نیست از ارباب علوم و صاحب دیانت بلکه خوف لازم
 بود بر ایشان و آنها که جرات کرده بر عدم نسب شریف این جرات ایشان بدو زنج است
 گویا خود را در هلاکت انداختند پس جواب دادم آنچه ذکر کرده میشود بنسب شریف
 و متعلق آن و حسب لطیف و منیف پس بدر سینه تکه جمع شده اند دو امر در رنگ
 عزیز وجود و غریب شهود در دو جهان پس ساختم من این رساله الطیف را و نام نهادم
 تزیینة الخاطر الفاتر به ترجمه سردار ما شریف عبد القادر میگویم آنچه حق است و سخی است
 است توفیق که دهد و عطا کند و بامداد و بتوفیق خدا تعالی در بیان نسب شریف ایشان
 اجمالاً ذکر کرده است بتحقیق مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس الله سره السامی
 در کتاب نفحات الانس از حضرات القدس بدر سینه تکه سردار ما شیخ سید عبد القادر
 جیلانی رضی الله عنه سید است و ثابت نسب است و جامع است مابین نسب حسب
 آنکه شیخ سید عبد القادر علومی حسنی بود از جانب پدر و حسینی بود از جانب مادر نبیره
 سید عبد الله صومعی زاہد حسینی یکے از مشایخ عظام و اولیای کرام بود و صاحب
 حال سینه و کرامات جلیه و دشت و آنچه تفصیلاً ذکر کرده عقیف الدین امام عبد الله بن
 اسعد یافعی شافعی یمنی در کتاب تتمه روض الریاحین و حکایات الصالحین آنکه سردار
 ما شیخ محی الدین سید عبد القادر ابن ابی صالح موسی جنگی دوست بن سید عبد الله بن سید
 یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی ثانی بن سید عبد الله بن سید موسی
 الجوان بضم جم یعنی سفید لقب ایشان بن سید عبد الله محض و این لقب ایشان است
 و معنی محض خالص بن امام سید حسن مثنی بن امیر المؤمنین امام حسن سبط بن امیر المؤمنین
 سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه نبیره سید عبد الله صومعی زاہد حسینی و بهین

شناخته میشدند در وقتی که بودند در جیلان علیه الرحمه و الرضوان و مادر ایشان
ام الخیر امته البیجار فاطمه بنت سید ابی عبد الله صومسی زاهد و بود بر ایشان حفظ وافر
و خیر و صلاح و عمه ایشان بود زن صالحه شریفه عالیه دختر سید عبد الله صاحب
کرامات ظاہره و مقامات باهره و گفت سید عبد الله محض جد ایشان ملقب
شده است محض ازین سبب که پدر ایشان حسن مثنی پسر امام حسن سبط پسر سیدنا
علی رضی الله عنه و مادر سید عبد الله محض فاطمه دختر امام حسین پسر سیدنا علی المرتضی
رضی الله عنه و همین نسبت سالم است از خاندان ایشان و شرف عالی ایشان
انتہی شی^۳ ام گفت عالم فاضل شیخ عبد القادر بن محی الدین اربلی در کتاب خود
تقریب الخاطر در مناقب شیخ سید عبد القادر گیلانی رضی الله عنه در مناقبت
شخصت و پنجم در نسب شریف ایشان از طرفین یعنی از جانب پدر و مادر لیکن
نسب ایشان از جانب پدر آنکه شیخ سید عبد القادر بن سید ابی صالح موطا جنکی
دوست بن سید عبد الله بن سید کی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی
ثانی بن سید عبد الله ثانی بن سید موسی الجون بن سید عبد الله المحض بن سید
حسن المثنی بن سیدنا الحسن بن سیدنا علی کرم الله تعالی و جبهه و رضی الله عنهم
اجمعین انتہی شی^۳ و یکم گفت عالم علامه شیخ محمد بن کیتی دارنی دمشقی در کتاب خود
فوات الوفيات سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه بن سید ابی صالح یوسی جنکی
دوست منتہی میشود یعنی میرسد نسب شریف ایشان بجناب امام حسن بن علی رضی الله
عنهما شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلی جنلی مشهور زاهد صاحب مقامات و
کرامات و شیخ خا بله رحمه الله تعالی آمد در بغداد و فقه را خواند از قاضی ابی
سعد و سماع حدیث شریف کرده و بودند ایشان که میچوردند از عمل دست خود
و تکلم میکردند در وعظ و ظاهر میشد از ایشان آواز جلال و هر یک می شنیدند از دور

سید ام

سید یکم

و نزدیک و گفت شیخ شمس الدین تولد شده اند در جیلان در ۱۰۰۰ چهار صد و
 بنفاد و یک دو فات یافته اند در ۱۰۰۰ پانصد و شصت و یک هجری انتی استی و
 دوم گفته است در ماده بشیری در قاموس و زیاده است در شرح آن سید مرتضی
 در کتاب خود تاج العروس فی شرح القاموس بشیری از اهل جماعت است و
 آنکه بالضم و سکون شین و کسر ثنات فوقیه و سکون تحت آن همچنین است در نسخه
 مایان آنکه شیخ الاسلام و المته الکبری علی الله الانام قطب محی الدین سید
 عبد القادر بن سید ابی صالح موسی جنکی دوست جیلی حسنی تولد شده اند در ۱۰۰۰ چهار
 صد و بنفاد و یک و وفات شده اند در ۱۰۰۰ پانصد و شصت و یک همچنین است
 در حفظ ذہبی و همچنین نسب ایشان از احفاد ایشان امام محدث عماد الدین قاضی
 نصر بن سید عبد الرزاق بن شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه انتی استی و
 سیوم گفته است در کتاب خلاصه و ذکر کرده است در آن چهار اقطاب رضی الله
 عنهم راهمه اشرات و از اهل بیت البنی علیہ السلام بودند و میرسد نسب ایشان
 بجناب امام حسین بن علی رضی الله عنهما و آنچه شیخ سید عبد القادر جیلانی پس بدینگونه
 منتی میشود نسب شریف ایشان بجناب امام حسن بن علی رضی الله عنهما انتی استی
 و چهارم گفته است سید در بحر النساب موسوی اثبات نسبت سید کل در کل قطب
 الاقطاب شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سره و بیان نسب ایشان برین وجه
 شیخ سید عبد القادر جیلانی بن سید ابی صالح موسی جنکی دوست بن سید عبد الله
 بن سید یحیی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد الله بن سید
 موسی چون بن سید عبد الله محض بن سید حسن منشی بن امام حسن بن امام
 امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین و بعد از ایشان در ذکر
 اولاد ایشان که مانده اند و بستند و بست اولاد ایشان مشهور در شهر

۳۷
سی و دوم

۳۳
سی و سوم

۳۲
سی و چهارم

۳۵
سی و پنجم

مصر و حماه و بغداد انتهى ^{۳۵}سی و پنجم گفته است در منتخب از جوار النسب اثبات نسب
 غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر رضی الله عنه و رفع میشود یعنی میرسد نسب شریف
 ایشان بجناب امام حسن رضی الله عنه بهمین وجه و آنکه شیخ سید عبدالقادر بن سید
 موسی جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحیی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن
 سید موسی ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسی جون بن سید عبداللہ محض بن سید
 حسن منشی بن امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و بعد از ان عقب
 ایشان و اولاد ایشان و اولاد اولاد ایشان گفته اند تا به اینجا که در شهر مصر و
 ہندوستان و حماه و بغداد شریف بستند انتهى ^{۳۶}سی و ششم گفته است در کتاب
 تاریخ اسلام شیخ ابو محمد محی الدین و النسب سید عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی
 بن عبداللہ جنگی دوست جلیلی زاهد صاحب مقامات و شیخ فقہا و قرا و بلو در وقت
 خود امام زمانہ و قطب وقت خود و شیخ شیوخ وقت خود بجز گرفت و گو گفته است
 در آخر ترجمہ خود بود شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ سر دار معلوم و عمل پس کرامات
 او نشان متواتر بود و کسی پیدا نشد بعد از ان مثل او انتهى ^{۳۷}سی و ہفتم گفته است در
 کتاب سیرۃ النبلا امام عالم زاهد عارف شیخ الاسلام علم الاولیاء تاج الاصفیاء فی النسب
 و مہمیت البدعہ سید شریف در حسب و نسب حافظ احادیث از جد خود سید سلیمان
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی جلیلی
 حبلی شیخ بغداد از جمیع آثار رضی اللہ عنہ ^{۳۸}سی و ہشتم گفت علامہ خاتمہ مفسرین
 ابو شامہ شہاب الدین سید محمود آفندی آلوسی مفتی بغداد رحمہ اللہ در کتاب خود
 شجرۃ الانوار سلطان اولیاء سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ و ولادت ایشان
 در عشق و عمر ایشان کمال دو قات ایشان معشوق الہی انتهى ^{۳۹}سی و نهم گفته است
 در تاریخ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ و آنکہ کرامات ایشان خارج است از اندازہ

۳۶
سی و ششم

۳۷
سی و ہفتم

۳۸
سی و ہشتم

۳۹
سی و نهم

۱۰۰

و تحقیق خبر داده اند و یافته اند علماء اعلام است و فرموده اند که کرامات ایشان بحد تو اسیرا قریب تو است
رسیده است و هیچ شک نیست در آن و معلوم است با اتفاق و بدرستی که ظاهر نشده اند کرامات
از دیگر اولیای آفاق مانند ایشان علی الاطلاق یعنی مطلقا از دیگر اولیاء کرامات ایشان همت
ایشان ظاهر نشده اند و ایشان تحقیق پوشیده اند خرقة را از دست شیخ ابی سعید مبارک بن علی
مخزومی و این نسبت است بسوی محله یزید لیسیر مخزوم در بغداد و شنیدم من از کتاب اجازه
ابن بکر کفوی آنکه داده است بسوی شیخ آن ابو الوفا شیخ سید محمد بن سید قاسم بن سید بحیر بن سید
حسین بن سید علی بن سید محمد بن سید احمد بن سید صالح بن سید نصر بن سید عبد الرزاق بن غوث
الکرمی الدین ابی محمد سید عبد القادر حیلانی بن سید ابی صالح موسی بنکی دوست بن سید عبد الله
بن سیدیچی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد الله بن سید موسی بن جون بن
سید عبد الله محض بن سید حسن مثنی بن امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم مجتنبین ثابت
است در آن و گفته است در آن که منتهی میشود یعنی میرسد نسب کریم ایشان از طرف پدر بچنان
سیدنا ابی محمد حسن رضی الله بن علی رضی الله عنه و از جانب مادر ایشان میرسد بجناب شهید کربلا
امام حسین رضی الله عنه بن علی رضی الله عنه انتهى چهلم گفته است عالم علامه شیخ سید محمد سعید الدین
در کتاب خود در راسخسینه و مواعظ گیلانیه حضرت غوث الاعظم ربانی و قطب و فرد صدیقی سردار
سلطان شیخ سید محی الدین عبد القادر حیلانی رضی الله عنه ابن امام ابی صالح موسی بنکی دوست
ابن امام عبد الله ابن امام یحیی زاهد بن امام محمد بن امام داؤد بن امام موسی ثانی ابن امام
عبد الله ابن امام موسی الجون ابن امام عبد الله محض ابن امام حسن مثنی ابن امام الهام سیدنا
حسن سیدنا ابن سیدنا و مولانا امیر المؤمنین وصی رسول امین ابی الحسین سیدنا امام علی کرم الله
وجهه انتهى چهلم یکم گفته است عالم علامه فاضل یگانه جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول
قدوة المحققین زبدة الملقنین مولانا محمد غوث بن ناصر الدین محمد ناظمی شافعی اسکانی الحنابلط
بشرف الملک رحمه الله در کتاب انهار المغاخر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی الله عنه در منبر

اول در جدول ثانی در بیان نسب شریف ایشان الجداول الثانی فی نسب الشریف رضی الله عنه
 و این جدول مشتمل است بر دو شعبه الشعبة الاولى فی ابائهم و می است از شیخ ابی بکر عبدالرزاق
 پسر وی رضی الله عنه بر وایت قاضی القضاة ابی صالح نصر رحمة الله علیه که پدر وی رضی الله عنه
 ابو صالح موسی حبیبی دوست پسر ابی عبد الله عبد الکریم پسر محی الزاهد پسر محمد پسر داود پسر موسی -
 پسر عبد الله پسر موسی الجون پسر عبد الله محض پسر حسن مثنی پسر ابی محمد امام حسن محبتی پسر امیر المؤمنین
 علی ابن ابیطالب است رضی الله عنهم بدانکه لفظ جون بالفتح لقب موسی از اسما افسد است
 اطلاق کرده میشود بر سفید و سیاه و سمرخ و اطلاق آن بر سیاه اکثر است در استعمال و مراد در اینجا
 همان است زیرا که موسی سیاه رنگ بوده و ویران مادر وی هند بنت ابی عبیده میگفت بیت
 انک ان تکون جونا انزعاً به اجد ان تضرهم و منفعاً به یعنی بدرستی که بودن تو سیاه و بی موی
 از دو جانب پیشانی لائق است بضر دادن تو مردم را یا نفع رسانیدن تو زیرا که این هر دو صفت
 دلیل کمال قوت و توانی اند و مادر وی حامله شد بد و در شصت سالگی میگویند که حامله نمیشود
 در شصت سالگی مگر زن قرشیه و نه در پنجاه سالگی مگر زن عربیه کذانی بجهت الاسرار از اینجا ظاهر
 شد عدم صحت قول صاحب غوثیه که مادر محبوب سبحانی در شصت سالگی حامله شد بوی رضی الله عنه
 انتقی و هند بنت ابی عبیده عبد الله ابن ام سلمه بنت محمد بن طلحه بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
 امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی الله عنه از اهل فضل و فصاحت و تقوی و طهارت بوده رضی الله
 عنها و لفظ محض بالفتح لقب عبد الله یعنی خالص است بنا بر آنکه پدر وی حسن مثنی پسر امام حسن
 و مادر وی فاطمه صغری دختر امام حسین است رضی الله عنهم پس نسب وی خالص آمد از جهت پدر
 و مادر هر دو بسبب سالم بودن آن از موالی و رجوع آن بپسوی امیر المؤمنین علی رضی الله عنه
 و ارضاء کذانی بجهت الاسرار و امام باقری رحمة الله علیه در خلاصه المفاخر گفته که لائق در توجیه تالیف
 بدان اینکه گویند خالص است در شرف انتقی و در لقب عبد الله محل بضم میم و فتح جیم بصیغه اتم مفعول
 از اجمل هم آمده است بمعنی بزرگ بسبب بزرگی وی از طرفین و لفظ مثنی بضم میم و فتح تون مشتده

بصیغه اسم مفعول از تشبیه بمعنی دو گردانیدن چیز را لقب حسن ازان است که وی حسن بن حسن است
 کذا قال صاحب بجهت الاسرار و امام یافعی گفته که اولی در وجه مناقب آنکه نام حسن منتهی شده و مذکور
 گشته است دو بار در خاطر این عامی عفا الله عنه سنوح کرده که اگر وجه مناقب وی نسبت او بعلی
 مرتضی یا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما از جانب پدر و مادر هر دو گیرند بعدی ندارد و الله اعلم بالصواب
 در کتاب فصول مهمه فی معرفت الایمه آورده است که حسن مثنی خواستگاری نمود پیش عم خود امام حسین
 رضی الله عنه برای یکی از دو دختر وی رضی الله عنه فاطمه و سکینه رضی الله عنهما امام حسین رضی الله
 عنه فرمود ای پسر هر که را محبوب داری بخواه پس وی شکر بگفتن شده جواب نداد پس امام حسین
 رضی الله عنه خود فرمود اختیار کردم برای تو فاطمه را که مشابه تراست بمادر من فاطمه بنت رسول الله
 صلی الله علیه و سلم پس فاطمه صغری را با حسن مثنی تزویج نمود و حسن مثنی با عم خود در کربلا حاضر بود
 بعد از شهادت وی رضی الله عنه با دیگر اهل بیت نبوی علی جدیم و علیهم الصلوٰة و السلام در بند
 نیزیدیان آمد پس اسما بن خارجه آمده از آنها باز گرفت و گفت و الله بخواید رسید اور از بونی همیشه
 جدی نظام الدین احمد رحمه الله علیه در کنوز السعادت آورده است که مادر حسن مثنی خوله بنت
 منظور فرزاریه و مادر فاطمه صغری ام اسحاق بنت طلحه بن عبید الله تیمییه است صاحب بجهت الاسرار
 گفته که فاطمه مذکوره بعد از وفات حسن مثنی در نکاح عبد الله مطرف بن عمرو بن امیر المؤمنین عثمان
 بن عفان رضی الله عنه درآمد و از وی محمد دبای منقول شد و مناقب شد بدیباچ بسبب حسن او
 و مناقب شد پدر او بمطرف بضم میم بصیغه اسم مفعول از اطراف بسبب جمال او میگویی چون عبد الله
 بن عمرو پیدا شد مردم میگفتند که وی یلیح حسن مطرف است بعد از عبد الله بن زبیر و عبد الله
 بن زبیر جمال فائق داشت و مادر عبد الله مطرف حفصه بنت عبد الله بن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب
 است رضی الله عنه موجه بدانکه از تحقیق مذکور ظاهر گردید که شیخ الاسلام محی الدین عبد القادر
 رضی الله عنه از اولاد فاطمه زهرا است علی ایها و علیها الصلوٰة و السلام پس باطل شد توهم بعض
 جمال زمانه ماکه میگویی رضی الله عنه از اولاد امیر المؤمنین علی است رضی الله عنه از غیر فاطمه زهرا

و این قلم از راه جهل و عناد ناشی شده و معشایان عبارت آنحضرت الانس مولانا عبد الرحمن جامی است
 رحمة الله علیه که علوی بود حسنی و اسفا که اقتصار نظر بر لفظ علوی کرد و چشم خود را از لفظ حسنی
 گور نمود و بر تکلیف در مناقب السادات نوشته است که علوی نزد فقها کسی است که منسوب باشد
 بسوی حسن و حسین رضی الله عنهما و جمال را غشاوه عناد ازین اصطلاح و از عبارت لغات هر دو
 گور گردانیده است اما ذوالنورین ذکاء استی چهل و بیستم گفته است عالم علامه فاضل کامل نجم آل
 بیته رسول شمس مشرق و در علم معقول و منقول قانع مبتدعین و دامن بطلین ابی النظر سید
 ظهیر الدین سید عبد الرحمن القادری الحسینی الحنفی حفظه الله بلطفه الجلی و الحنفی در کتاب خود
 فتح المبین در آن چیزی که شتعلق است تبریاق المبین و تحریر کرده است در ترجمه غوث جیلانی
 ابی محمد شیخ سید عبد القادر محی الدین و گردانیده است کتاب را تحفه جته برادران اهل اسلام
 و گفته است عالم عامل و فاضل فاضل بین الحق و الباطل شیخ سید علی ابن شیخ سید احمد ابن شیخ
 سید علی الشامی در کتاب خود تحفه الابرا و رواع الاوار ذکر کرده است نسب شریف طاهر ایشان
 و ولادت ایشان و شهر ایشان و هجرت ایشان رضی الله عنه بدانکه مدد کند ترا خدا تعالی براه
 راست و گرداند خدا تعالی شمار از حزب ایشان و جز ایشان یعنی اوصرداران و مجانب ایشان
 و تحقیق پیدا کرده است خدا تعالی بقدرت خود از سجد بنوی صلی الله علیه و سلم در شهوات مثل مرادید
 مسلسل و فرد است در مرتبه خود و یکتا است در اولیا شیخ الاسلام و مقصدی الاولیا الکرام علم
 الهدی الذی من اتقی الیه کان من السعد القطب الربانی و الفرد الجامع النورانی ذوالاصول الطاهر
 و المجد الباهر محی الدین سید عبد القادر جیلانی بن سید ابی صالح موسی جنگی و ویرت این سید
 عبد الله ابن سید کجی زاهد ابن امام محمد ابن امام داود ابن امام موسی ابن امام عبد الله ابن امام
 موسی جون ابن امام عبد الله محض و لقب کرده شده است بحبل یعنی از اجلال ابن امام حسن ثننی
 ابن امام حسن بسط ابن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه ابن عبد المطلب ابن هاشم
 ابن عبد مناف معدن الجود و العفاف ابن قضی ابن کلاب بن مره ابن کعب ابن لؤئی بن غالب

بن ہرین مالک بن نصر بن کنان بن مدرکتہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان نسب
 ایشان بہت مانند آفتاب نصف ہزار روشن است مثل صبح از افق سہا ہاشمی علوی حسنی و حسینی
 و جلی نیرہ سیدہ عبد اللہ الصغوی الزاہد و ہمین شناختہ میشود در جیلان و تولد شد نزد جیلان
 در سنہ چہار صد و ہفتاد و ہفتایم ہجری و سیوم گفتہ است عالم علامہ حیر قمامہ عالم فاضل شیخ
 از روق در قواعد منضمہ خود از مواند فوائد فینکلم حکم کردند در نسب مصطفوی بدرستی کہ معبود
 اصل نسب دینی است و فرع آن نسب بشری مجرد است بعد از ان اضافت کردہ شدہ بطرف طینی
 آنکہ بود بر اسب ایشان تا یکد گنڈہ پس طینی نمیشود و مرتبہ صاحب بحال آن دانا و ہمین جواب
 دادہ میشود از قول شیخ سید عبد القادر کہ گفتہ است قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ در زمانہ
 خود ہر آئینہ جمع گردیدہ است علو نسب شرف از عبادت و علم ایشان و نبود این علو در غیر
 ایشان در وقت ایشان انتہی چہیل و چہارم گفتہ است امام محمد بن محمد بن جزی اللاندسی
 الغزنائی الشہید در کتاب خود مختصر البیان فی آل عدنان و تصریح کردہ است بہ نامہای الساب
 جیلی تا بہ امیر المؤمنین امام حسن سبط رضی اللہ عنہ چہیل و پنجم گفتہ است عالم علامہ شیخ عبد الرحمن
 ابن عبد القادر قاسمی در کتاب جوہرۃ العقول فی ذکر آل الرسول و ذکر نگردہ است در آن
 مگر اشرف را و جمع کردہ است شرافت ایشان و ہمچنین بدانند بر آن کہ گذشتہ است بیان
 آہنہا و آنکہ تالیف کردہ ام از برای آنها باذن پدر خود شیخ جماعہ انتہی چہیل و ششم گفتہ است
 حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب خود غبظۃ الناظر در نسب ایشان انتہی چہیل و ہفتم گفتہ است
 عالم علامہ ابن عصفون بنقل علامہ مغربی شیخ سیدی محمد قنوی انتہی چہیل و ہشتم گفتہ است
 عالم زمانہ ابن جوزی در کتاب خود مرآت الزمان انتہی چہیل و نهم گفتہ است عالم علامۃ النساء بہ
 شیخ محمد عربی قاسمی در کتاب خود مرآت الحاسن آپنیزی است ثبوت در فاس از شرفا قادر لوین
 از اولاد قطب سردار سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و نسبت ایشان ثابت است
 تا بہ اینجا گفتہ اند آنکہ وی رضی اللہ عنہ سید عبد القادر بن سید ابی صالح موسی و ذکر کردہ است

نسب ایشان را که معروف است انتہی پنجاه ام گفته است در کتاب انساب اقرطاس ذکر کرده است
نسب شریف ایشان را تا به امام حسن سبط رضی اللہ عنہ انتہی پنجاه و یکم گفته است امام نسب ابن
فرحون در کتاب خود المسمی الاعتبار و تواریخ الاخبار و تعریف کرده شده است بنسبت نسب
بسوی بنی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نیست آنکه ابرایم فقیه که معروف است بلکه نام ایشان علی است
و ایشان آنکه صاحب کتاب ذم الجنان است انتہی پنجاه و دویم گفته است علامه انساب ابن طیب
در نظم خود که سیمی است با شرافت بر نسب چهار قطب اشرف و ایشانان که ذکر شده اند در گفتار
من پس از شروع نظم و این نظام است از برای ستون نسب از چهار قطب اهل رتب شیخ سید
عبد القادر جیلانی و ابن شیش و شاذلی کامل و ابن سلیمان جزولی رحیم اللہ انتہی پنجاه و سیوم
گفته است شیخ محمد بن عبدالرحمن فاسی در کتاب خود منح البادیہ و خوف لکن در تحریر انساب و
بتحقیق بی اندازه در علم انساب از علوم ایشان آیینان بکشیده است اللہ تعالیٰ ہمراہ ان ایشانرا
و بہت برای ایشان اجازات از اہل علم انتہی پنجاه و چهارم گفته است شیخ مراد بغدادی در شجرہ
خود انتہی پنجاه و پنجم گفته است شیخ محمد قاسم قصار کہ گفته است مناوی و توقف کرده است در غیر
آنچیز کہ مقید است و آنکہ بود وی رحمہ اللہ معتمد علیہ و رجوع داشتند بسوی ایشان خلایق از
شدت بحث علم مزید ہتمام ایشان و راسخ و صاحب دیانت و بسیار وصف کرده اند ایشان را در
تحریر نسب شریف تا بہ اینجا کہ گفته است شیخ جماعت سردار عبد القادر فاسی در حق شیخ قصار
پس از تناء ایشان بتحقیق در علوم انساب اشرف بودند عارف محقق در آن و کسی طاقت مقاوت
ایشان نداشت کہ نزدیک شود یا مکلم کند بایشان گفته است حافظ نونسی در نظم الدر والعقیان
در نزد بیان بر موسی چون جدا امام جیلی پس اللہ تعالیٰ اعطا کردہ است برکت را در عقب ایشان
سید عبد القادر رضی اللہ عنہ پس آن املاک ایشان سہ طائفہ بنو اخضر ملوک یامہ و ہوا شتم و بنوا
ابی عزیز ملوک مکہ و در بنی ابن عزیز باقی مانده در ملک مکہ تا بہ الحال پس نوشت شیخ قصار بر کلام
تفسی مذکور و گردانید آنرا بر ملوک و مشورہ کرد بسوی آن چیزیکہ ثابت است برکت و نعمت

شامل است سردار یان را سید عبد القادر جیلانی صاحب ملک حقیقی و صاحب خلافت قطبانیته و آنکه
 بنسبت در ذریت سردار سید عبد القادر از اخبار الم گفته من آنکه ابو عزیز مذکور اسم ایشان
 قتاده وی از جانب خلیفه ناصر وقتیکه نوشت عتاب بر عدم واقع او در بغداد پس بست جواب
 آن انتہی پنجاه و ششم گفته است عالم شیخ محمد بن عباد اندلسی در شیخ خود انتہی پنجاه و هفتم
 گفته است عالم شیخ علی بن عبد الوهاب الشامی در شیخ خود پنجاه و هشتم گفته است شیخ عبد الوہد
 لوانشریبی در شیخ خود انتہی پنجاه و نهم گفته است عالم علامه امام اہل و ع در زمانہ شیخ رضوان
 بن عبد اللہ شصت گفته است عالم شیخ عبد الواحد بن احمد الحمیدی شصت و یکم گفته است شیخ
 رقیم علی الصقلی الحسینی در کتب سستہ اخیرہ کہ مطالعہ کردہ است آنہا را محقق مناوی نقل کردہ
 است از ان آنچه شفا بود از برای اہل غش اگر نمی بود طوبت در کلام نقل میکردم فائدہ میگرفتم
 انتہی شصت و دویم گفته است عارت و شیخ ابو توفیق ملیحی مصری در کتاب خود سوراقلب
 نسب شریف را انتہی شصت و سیوم گفته است در کتاب دُرستی در بعضی کہ بودند در فاس از
 اہل نسب حسنی انتہی شصت و چهارم گفته است عالم علامہ و جبر فہامہ عالم و فاضل شیخ شبلی سمی
 بسید مومن نفع بدہتر خدا تعالی بآن در کتاب نور الابصار فی مناقب آل البیت النبوی الختار
 از چہار اقطاب سردار سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ابو صلح سید عبد القادر بن سید
 موسی بن سید عبد اللہ بن سید کی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد اللہ
 بن سید موسی الجون بن سید عبد اللہ المحض بن حسن المثنی بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین
 و تولد نمودند در سنہ ہجری ہجرت و ہفتاد و پنجین است در طبقات امام شعرانی و حکایت کردہ شدہ است
 از والدہ ایشان رضی اللہ عنہا کہ گفتہ است وقتیکہ تولد شد فرزندم سید عبد القادر ہرگز نگرفت
 لیستان مرا و شیر نخورد در روز ماہ رمضان و تحقیق در آن روز ابر بود و ماہ ظاہر نشدہ بود بر
 خلق پس مردم آمدند نزد والدہ ایشان و سوال کردند فرمود کہ امروز فرزندم شیر نخوردہ است
 بعد از ان ظاہر شد ب مردم همان روز از لواحق نبوت ماہ شدہ پس از ان شہرت یافت در جیلان

کہ فرزند تو لگندہ در خانہ اشرف یعنی سید و شیر خجورده است در روز رمضان و ایضا شلمخی
 در نور الابصار آورده است ناقل از طبقات شرفی نام نمادہ شدہ عبد القادر جیلانی زبیر کہ
 اللہ تعالیٰ جل شانہ تعالیٰ کرد بر ایشان صد دفعہ و ایشان در شکم ما در بود ندیس نام نہادند بآن
 ملائکہ پس شنیدند آن مردمان و نامیدہ شد برین و ظاہر گردید بر خلایق و فوت شدہ اند در سنہ
 پانصد و شصت و یک و مدفون شدند در بغداد و گفتہ است ابن اثیر کہ بود سید عبد القادر جیلی
 از اہل صلاح و صاحب احوال عظیم و بودند ایشان جنبلی مذہب و مدرسہ و رباط داشتند
 مشہور در بغداد و یمنین است در تاریخ ابی الفدا انتہی اشخصت و سچم گفتہ است حافظ النسب
 شیخ عبد اللہ بن طاہر سجلماسی در وقتیکہ کہ سوال کردند بعض عارفان از فاس آنکہ قابل بودند
 بر آن فرمودند کہ من دو ہست میدارم اشرف را یعنی سادات را برین کہ دلیل است کہ ہستند
 در فاس شرفا قادر یہ و بعضی آنها را شہرت است در شرف و نامیدہ شدہ در بعض مشاہیر
 نسب شریف را انتہی اشخصت و ششم گفتہ است عالم علامہ سید علی جزائری در شجرۃ
 الانساب خود انتہی اشخصت و ہفتم گفتہ است در شجر محمدی و تحقیق واقف شدم من بر سچم
 اصل آن ہست بر آن کتابا بر موافقت و دانست بصحت آنچه نیز می کہ در آن مانند چہل ہفت
 از لقب اہل اصحاب یعنی شہر ہا و از اہل النسب آن طرف یکی از ایشان علامہ ولی کہ مشہور است
 سردار مالو الغیث قشاش تونس و سید احمد کی فقیر سادات الاشراف بیافا و سید محمد علی
 فقیر قدس شریف و سیدی علی عزوز و غیر ایشان و بعض ایشانان اختتام کردند در مکاتیب
 خود ہا و این آخر آنست کہ من مطالعہ کردم بران از کتب نسابین پس ازان کوشش کردم من
 باقوال آنها کہ تصریح کردہ اند بشرافت امام سید عبد القادر جیلی از مورخین و اصحاب طبقات
 و مناقبات از علما و عارفین پس میگویم من کہ صحیح النسب اند انتہی اشخصت و ہشتم گفتہ است
 عالم کبیر عارف مشہور سردار احمد زروق فاسی مغربی مالکی در کتاب خود قواعد الطریقہ انتہی اشخصت
 و نہم گفتہ است عفیف بن مبارک صاحب فتح ربانی انتہی اشخصت و ہم گفتہ است استاذ ابن باعزمہ

کورگرد اینده است اعادنا الله من ذلك انتہی کذا فی انہار المغائر تاریخ رحلت جناب مولانا عبد الرحمن
جای قدس سرہ السامی از کتاب مجز الواصلین کثیر برگزیدہ - منظوم است

اصح بی نظیر جامی بود	کلمات علم نامی بود	درجہ رتبہ ولایت داشت	اہل عالم از بدایت داشت
بہ تصنیف آن معلی شان	عدو جام شد رقم بر خوان	شب آدنیہ بود لوز دہم	بیشک ریب از بیع دوم
کہ ز دنیا گشت عارت حق	جانب آسمان بہفت طبق	سال عمر شریف او بود	یک و بیس از شمار صد است
ہاتفم گفت سال رحلت او	جای جامی بہشت ہدن بگو	یک در نسخہ کہ بابرکات	ہست نام شریف و شجاعت

خواندہ ام سال رحلت او را
بہر دہم روز ماہ عاشورا

بہشتاد و چہارم گفته است عالم فاضل محمد بن محمود الملقب بہ ہمدار دمشقی لغات الانس جلد دوم آورده است
این است عبارت آن شیخ محی الدین سید عبدالقادر حلی مراد ازین حلی گیلانست نہ آنکہ بعضی را توہم
افتادہ کہ مراد حلی نزدیک بغداد است چہ ہوموہی است نزدیک بشہر لایہجان و جد مادری ایشان
از انجا است و حالا اولاد ایشان آنجا می باشند و خالقہای بارونق دارند و نسب علیہ اش این است
السید محی الدین عبد القادر ابن ابی صالح موسی ہنکی دوست ابن عبد اللہ ابن سخی زاہدان محمد بن داؤد
بن موسی بن عبد اللہ بن موسی الجون بن عبد اللہ المصطفی اور عبد اللہ الشامل نیز وصف کردہ ابن حجر العسقلانی
نام حسن ابن ابی ہریرہ بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم و والدہ فاطمہ شریفہ بودہ حسینی و بعضی از اہل انساب
آورده اند کہ بازار اشہر شیخ سید عبدالقادر زمان حیوۃ خود اظہار سیادت نمودہ این را سند خود
ساختہ اند و اصلاً متبع ننمودہ این قبیلہ کہ یک پیش این است کہ کلی قطب یطوف بالہیت سبحا و انما ہیت
طائف سیمای سخواندہ اند کہ میفرماید کہ جدی المصطفی اشقیح الامام و والدہ ایشان گفته کہ فرزندم عبدالقادر
متولد شدہ ہرگز در روز رمضان شیر نخورده این است دولت مادر زاد و مضمون حدیث شریف
تسعید من سعید فی لطن امہ ترتیب الہی حسین است و این نشانہ وراثت تامہ کاملہ است مرایشان را و
ایشان فرمودہ اند کہ مادر مراد ازین سفر کرد و مرا عمد داد و صدق در جمیع احوال انتہی این دلیل روشن است
بر علو شان و ترقی مقامات آن ولیہ عارفہ چہ صدق درین راہ اکیس جمع اجساد است حکم آب دارد

برای تطهیر و تهیه عبادات و پیمان نهائی شمر که شیخ سید عبدالقادر است از پیشین مبینی و حضرت شیخ حماد
 ذب اس قدس سره گفته که شیخ سید عبدالقادر قدس سره در انشای سخن گفت قدیمی بده علی رقبه کل
 ولی الله استمی بدان نفعنا الله تعالی و ایاک من برکاتهم که این کلام حق انجام اگر در حال سکون شود دل
 شلخ است اما چون از حضرت سید عبدالقادر قدس سره در حال صحی صفا در شده کنایه است از وصول ایشان
 بمقامی که فوق ولایت است و صاحبش حاکم بر ولی بمشابه که اگر آنرا در عالم محسوس تماثل آوزند چنان
 واقع میشود که قدم صاحب آن مقام محاذی کردن دلی باشد و نسبت میانه این دو مرتبه از روی شرف
 و نشان نسبت کسی است که یاری برگردن دیگری داشته باشد و چون وصول باین مقام از غیب است
 مامور بگفتن و خبر دادن از آن شده چون حق صرف است و از وجود بشری شایسته اثری با آن نبود
 جمیع اولیا گردن بنادند و بجان قبول نمودند و بدانکه این اشاره است بآنکه بمقامی رسیده که اگر خست
 بنوت نشده بودی او نبی شدی و قدیمی کنایه است از موقف عرفان یعنی معرفت من از قسم معرفت انبیا
 است و اینجا ابستاده ام و هم چنانچه گردن اولیای زمان زیر بار متابعت من است من متصرفم در همه
 انتهی بنفاد و پنجم گفته است انس جلیس شایخ ابن بادیس هفتاد و ششم گفته است عالم علامه جبر
 فهما امام عبدالقادر یعنی شافعی یعنی رحمة الله تعالی در کتاب خود خلاصه المعارف در مناقب غوث
 ملکوت قطب صمدی عارف ربانی اشرف اقطاب سید السادات سید محی الدین سید عبدالقادر حسنی
 و حسینی جیلانی رضی الله عنه و در کلامه خلاصه المعارف در این است عبارت آن ذکر نشیبه مولده وصفه یعنی
 الله عنه اما نسب او پس شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر بن ابوصالح سید موسی چونکی و هست بن سید
 ابی حمید الثمیرین سید یحیی زاید بن سید محمد بن سید داود بن سید موسی بن سید عبدالقادر بن سید موسی
 الجوان بن سید عبدالقادر بن سید موسی بن سید داود بن سید محمد بن سید موسی بن سید عبدالقادر بن سید موسی
 بن علی بن ابیطالب رضوان الله علیهم سید ابوعبدالله صومعی زاید و در جیلان بدو نشانده میشود
 و اما مولد او پس از سوال کردند فرمودند از روی حقیقت نمی دانم ولیکن در آن سال که من در بغداد
 در آمدیم بمی نقل کرد و عمر من پشده سال بود یعنی از اهل علم گفتند تمیمی مذکور ابو محمد رزاق بن عبدالوهاب است

در سنه ثمان نمانین و اربعهائمه یعنی چهارصد و هشتاد و هشت نقل کرد پس مولد رضی الله عنه بدین طریق
در سنه سبعین و اربعهائمه شد و ذکر کرد ابو الفضل احمد بن صالح بن شافع جیلی که بدر سینه کوه ولد شیخ
محمد الدین سید عبد القادر در سنه امد و سبعین و اربعهائمه در گیلان بود و آن زمان که در بغداد درآمد
سال سنه ثمان نمانین و اربعهائمه بود و عمر شیخ محمد الدین سید عبد القادر باشد بنوده سال و جیلانی بعضی
گفته بحبل بکسرتیم و سکون یا و آن بلاد و را طبرستان است آنرا جیلان گیلان گیل هم گویند و
بعضی گویند که منسوب است بجد خود جیلان و الله اعلم و والده شیخ ام الخیر فاطمه بنت سید عبد الله صومی
و والده شیخ راحلی وافر بود از خیره صلاح و صومی از اجلا مشایخ جیلان در و سالی ز یاد ایشان بود
احوال سینه و کرامات جلیه داشت و برادر شیخ محمد الدین سید عبد القادر شیخ ابو محمد سید عبد الله بود در عمر
از شیخ محمد الدین سید عبد القادر خورد بود ناشی شد فتوی صلاح در علم و خیر و در حال جوانی متوفی شد
و عمه او عورتی صالحه صاحبه کرامات بود و عالیه نام داشته بود و کنیت او ام محمد بود و قتی در بلاد جیلان
تخط شد و اهل جیلان استسقا کردند پنج باران نشد پس جمیع خلق و مشایخ بر در خانه عالیه مذکوره
آمدند و از و دعا استسقا درخواست کردند در خواست کردند او بر بخت و صحن خانه لجاروب داد و گفت یا آب
انی کنست فرش انت یعنی ای پروردگار من من جاروب کردم و تو آب پاش در حال باران بچو افواه
قرب بارید و ایشان میان آب خوش کنان بازگشتند انتی بهفتاد و هفتاد در و خلیه خلفاء عباسیه
مع ذکر المستنجد بالله آورده است نسب شریف و تولد ایشان و وفات ایشان رضی الله عنه را
و مکر المستنجد بالله ابو المظفر یوسف بن محمد و بیان آنچه در ایام اقبال او واقع شد از نیک بد
منشایان آثار سابقه و مستحقان اخبار لاحقاً آورده اند که ولادت یوسف بن مقفی در غره ربیع الآخر
سنه خمس و خمساً اتفاق افتاد و چون بسن رشد و تمیز رسید مقفی منصب لایت عهد خود بدو
داد و او را المستنجد بالله لقب نهاد اما در ولایت که مقفی بسلاطنت گرفتار گشت پس دیگرش ابو علی
داعیه خلافت نموده مادر آن پسر از امر او ارکان دولت رشو تا قبول کرد که بعد از وفات مستنجد بالله
برسد خلافت نشایند آن جماعت گفتند که ما دست بیعت بستنی داده ایم حال آنچه تا و بل نقص عهد

نمایم مادر ابوعلی گفت که چون مستنجد بیدین در آید من خاطر شمار از عمر او دفاع گردانم انگاه جمعی کینه کارنا
 کار و داد داده در کین نشانند که چون مستنجد پامی در آن خانه نهد دست بردی نمایند و یکی از خواج
 سرایان برین مکیدت اطلاع یافته صورت قضیه را معروف و عضد الدین که او را استاد الدار میگفتند
 گردانید و عمر الدین مستنجد را بنیونه او در رعایت احتیاط نزد پدر رفت و چون نقی رخت سفر
 آخرت بر لبست ابو مستنجد برسد خلافت لشت و ابوعلی را با مادرش مجوس کرده مجموع آن کینه کارنا در
 وجهه افکند و مستنجد بوفور فرست و کیاست موصوف بود و بتهمید بساط عدالت و رعیت پروری
 مردم مقرری پیشه از همیشه مترج میساخت و هرگز گوش بسجن ساعی و نام نمی انداخت نقیست که نویستی
 مستنجد بحبس یکی از غمازان امر فرمود آن شخص مدتی مدید در زندان مانده مردی از دوستان او بعض
 مستنجد رسانید که اگر از مو قف خلافت حکم باطلاق آن دوست من صادر گردد بقتل مینمایم که
 ده هزار دینار بخیزانه عامه رسام خلیفه جواب داد که اگر تو مانند آن غماز شری دیگر پیدا کنی که مجوس
 گردانم من لبشکرانه ده هزار دینار بخواهم بکنم وزارتش تعلق بعون الدین بجای بن محمد بن بربر میشد
 و عون الدین ببعانت رای صاحب مظاہرت تدریس ثاقب کما یبغی تمیشت آن امر قیام می نمود و در
 تشدید مبانی احکام شرع شریف و تهمید قواعد ملت منیف هما لکن سعی میفرمود و او در سنه ستمین
 و شصت و هفتمین وفات یافته شرف الدین ابو جعفر بن احمد میرسد وزارت نشست و در سنه شصت و هفتمین شیخ محی الدین سید
 عبدالقادر جیلانی بجوار مغفرت سبحانی میبوست و همو محی الدین سید عبدالقادر ابن ابی صالح موسی
 ابن ابی عبداللہ بن کجی بن محمد بن داؤد بن موسی بن عبداللہ بن موسی الجون بن عبداللہ المحض
 بن حسن المثنی بن الحکم بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین و مادر شیخ محی الدین
 عبدالقادر جیلانی گویند و تولد انجناب در گیلان فی سنه احدی سبعین اربعانہ یا ثمانہ روی
 نمود و چون سن ششیش میزده سالگی رسید فی سنه ثمانین اربعانہ به بغداد آتشرف قدوم ارزانی فرمود
 و در آن دیار بدرجہ فضل و کمال ترقی کرده از انجناب کرایات و خوارق عادات بجز ظهور رسید
 چنانچه در کتب مبسوطه مسطور است در نفحات از شیخ شهاب الدین سهروردی مرویست که گفت

شنیدم از شیخ محی الدین عبد القادر که میگفت کس ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی الله علیه
 و سلم و مارفع المصطفی صلی الله علیه و سلم قدما الا وضعت فی موضعه الا ان یکون قدما من اقدام
 البنوة فانه لا یسبیل الی ان یتاله غیر نبی و در سه اشئین و سبتن و خمسایه صاحب تصانیف تاج الاسلام
 حافظ ابوسعید عبد الکریم بن محمد بن منصور الحلج که محدث مشرق بود از جهان فانی روی بعالم جاودانی
 آورد و در سه ثلث و سبتن و خمسایه ذکر المستغنی بنور الله ابو محمود حسن بن یوسف المستغنی که نبش
 ید و از ده واسطه بامیر المؤمنین ابو بکر بن ابی قحافه میرسد و در اکثر فنون منصفات مفیده دارد و
 جهان فانی را وداع کرد و در سه مستغنی بر لیس شده گلشن حیات را پدید کرد مدت خلافتش
 یازده سال و یکماه بود و اوقات حیاتش بنجاه و شش سال انتهی بهفتاد و هشتاد و هشتاد و هشتاد
 جامع سیدی احمد بن مبارک مطی صاحب ابریز بهفتاد و نهم گفته است در کتاب جامع الاصول الشهب
 هشتاد و هشتاد گفته است شیخ محی در خلاصه الاثر در ترجمه سید نعمت الله که از نسل حلی است انتهی بهشت
 یکم گفته است عالم فاضل سید عبد اللطیف المعروف بسید شاه محی الدین قادری نقوی ویلوری در
 کتاب خود فصل الخطاب بسیم الله الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً و مسلماً عظما و علما اعلام و کبرا اولیا
 عظام که ارکان اسلام و اقطاب شرع عالی مقام اند اتفاق کرده اند برین که حضرت سید الاصفیا
 و امام العلماء جناب سید ابو محمد محی الدین عبد القادر حسنی دینی جعفری حیلانی رضی الله عنه و رضاه
 در اقامت شفاعت شریعت و التزام احکام کتاب و سنت چندان مبالغه داشتند و از هر صاحب
 حال که اندک فتور در تتبع شع باهر النواذیر یافت میفرمودند تا دیدیش همت می گماشتند که مزیدی
 بران متصور نبود و وعظ آنجناب با فادات عقالت و علوم پهل سال و درس و فتوی آنحضرت با فاضله
 پانزده علم سی و سه سال بود و مشاییر علماء ماجدین از مفسرین و محدثین و فقها و اصولین و غیر هم که
 که چندی از آنها که بامیر المؤمنین ملقب بودند و بسیاری از آنها را باب تصانیف راقه اند و تعداد
 ایشان طولی دارد و شکران جناب عالی نشان بودند تا آنکه با ستاد صحیح متصل بر وایت ثقات
 کمل ثابت شد که چون آنجناب بمجمل زیارت امام احمد حنبل تشریف بردند و امام بهام از قبر بیرون

آمدند و خلعت نورانی گذرانیده و معالقه نموده گفتند که من در علم شریعت و علم حقیقت محتاج
 ایشان هستم انتہی کلام فصل الخطاب و همچنین آورده است در قلائد الجواهر شیخ محمد بن یحیی التامنی
 جنلی و طاعلی قاری در زینبہ الخاطر و شیخ نورالدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر یحیی شطرنجی
 و محمد صادق در مناقب غوثیه و دیگر کتب در فضل علمی و تحریر میثود در انجا باید دید در باب
 بیان کرامات ایشان رضی اللہ عنہ انتہی ہشتاد و دویم گفته است امام عارف بالله ذوی الصبابة
 فی الحفرة النبویة سید عبدالرحیم برعی ذکر کرده است نسب شریف را در قصیدہ ربانیہ کہ متصل
 است بحضرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجال خرقہ جیلانیہ دریافت کردند و مطالعہ نمودند آنرا
 کہ در آن گفته است تا بہ اینجا شیخ ابی سعید تلامیذ غوث رضی اللہ عنہ کہ شیخ سید عبدالقادر
 رضی اللہ عنہ فضل ایشان طلوع کرده است مانند نور و آفتاب روشن در حسن و مانند ماہ شب
 چہارہ و پر نور گردانید چشم ہای نظارہ کندہ کانرا کہ آزال فاطمہ زہرا است صاحب عرت
 و شرافت و مانند تیغ آبدار و روشنی حسن ایشان رضی اللہ عنہ کہ تا بید نور از پیشانی ایشان
 و ہدایت جلال ایشان رضی اللہ عنہ ہشتاد و سیوم گفته است شیخ جبرتی در تاریخ خود در ترجمہ
 سید عبدالخاق مصری حنفی جبلت انتہی ہشتاد و چہارم گفته است سردار محمد ملانی تو تنسی
 ہشتاد و پنجم گفته است شیخ ذوالاوار و الکرامات الغزار سیدی محمد بن اسمعیل کیالی حلبی
 در رسالہ خود آنکہ حاصل شدہ است در ان مشرب سنت سینہ قادریہ و شاذلیہ و رفاعیہ و
 نقشبندیہ و از ہمہ مقدم است بشہادت ہفتاد و پنج نفر از علماء اعلام طریقہ قادریہ ہشتاد و ششم
 گفته است شیخ محمد عیسی قزوانی ہشتاد و ہفتم گفته است عالم صاحب ذوق و شوق صوفیہ
 شیخ محمد امین گیلانی تو تنسی در مواہب جلیلہ انتہی ہشتاد و ہفتم گفته است قطب کامل سردار
 عبداللہ علوی مینی ہشتاد و ہفتم گفته است صاحب مسالک الابصار عالم علامہ ابو العباس شہاب
 الدین احمد ابن فضل اللہ عمری دمشقی قدس سرہ در تاریخ خود مسالک الابصار فی البلاد و الامصار
 در جز ہشتم آن در نزد ذکر ترجمہ سردار ما سید عبدالقادر جیلانی و از ایشان شیخ سید عبدالقادر

عہ قال الشیخ بن
 ابی زینبہ
 سیدی الشیخ
 عبد القادر
 بقابن الجوارح
 احمد بن عبد
 شمس بن
 قزوینی
 عبد القادر
 والبس فلعنہ
 الیک فی علم
 حق فی الحقیقہ
 کردہ ان تلامذہ
 صفحہ ۳۰۹
 مصر

بن سید موسی ابی صالح الملقب بحنکلی دوهست بن عبد الله بن یحیی زاهد جلی جنبلی نشان اولیا آ
 محی الدین سید الطائفه که تولد زنده اند در جیلان در سنه چهار صد و یک و داخل شدند در بغداد
 در حال عنفوان جوانی و عبارت این کتاب سقوط یافته در تعداد عربیه و آن عبارت مسالک
 الابصار این است قال الامام العلامة ابو العباس شهاب الدین احمد بن فضل الله العمری دمشقی
 قدس سره بتاریخیه مسالک الابصار فی البلاد و الامصار فی الجزء الثامن منه عند ذکر ترجمه سیدنا
 السید عبدالقادر الجیلانی رضی الله عنه و قد ترجمه ترجمه عظیمه جدا و لها و منهم الشیخ عبدالقادر بن ابی
 صالح عبداللہ بن جنکی دوهست الجلی جنبلی علم الاولیاء محی الدین ابو محمد سید الطائفه کالوا بانهارا لایفترون
 و بالاسفار بهم سیتعقون و نطلع من ہاشم بن عبد مناف فی الذو اب و کرع منه فی غدیر لم یرفع بالسواب
 و کان من الشرف فی تشایخ فلاله و راسخ النسب العلوی فی کرم خلاله - و کان له مجلس لیاالی نیرہ
 الانتحاب و یجری فیہ الاصحاب و تری الجبال تحسبها جامدہ و ہی ترم السحاب فمابرح اجتہادہ و محدودا
 و جمادہ بقول عیسی ان یرجع ربک مقام محمودا و کان مخلصا دون اشکالہ و مخلصا و کل علی اللہ
 حق آکالہ علی انہ بقیۃ قوم یرجعون کالوا قلیلا من اللیل ما یرجعون و صلوا اللیالی بالاسفار و رکبوا
 بیح الفیانی و قفار البحار محمد و اما کالوا ینملون و علی ریح یتوکون مولدہ بجیلان سنہ احدی و
 سبعین اربعایہ و قدم بغداد شابا ففقہ علی ابی سعید الخرمی و سمع الحدیث من جماعته و جدت عنه
 طائفه من الکتاب اتی لخص ذکر فی الکتاب المذكور من کراماتہ و خوارق عاداتہ و اقوالہ الشایعہ
 قدس سره نو ذم گفته است ابن شاکر در کلمه خود نوذ و یکم گفته است شیخ ابن زکی نوذ و دویم
 گفته است سردار مصطفی بکری نوذ و سیوم گفته است علامه لیزنی نوذ و چهارم گفته است
 امام ابن اریق نوذ و پنجم گفته است سردار ما عبد السلام ابو نوذ و ششم گفته است امام
 منزلی نوذ و هفتم گفته است عالم ربانی سید ابی بکر شطرا المکی در فتنه الرحمن نوذ و و ششم
 شیخ عیسی التیانی در شرح السفانۃ تصریح کرده است بنسب شریف جیلانی در نزد قول خود در نظم مولائی
 عبدالقادر جیلانی - عونا علی خسته اطمانی - نوذ و نویم گفته است علامه ابو المحاسن القاؤتی شاذلی

و بعضی گفته اند القافجی در نظم اسما ابا کرام رضی الله عنهم گفته است سه یار بنا با بهیمل النورانی
 قطب لوبون و محمد العیانی پغوث الوری و عیاشه الباز عبد القادر الجیلانی ^ث صد ووم گفته است عالم
 فاضل محدث شیخ عبدالحق دهلوی رحمة الله علیه در کتاب خود زبدة الآثار بیان نسب شریف
 ایشان رضی الله عنه و صل در ذکر نسب و صفات آنحضرت غوث الاعظم شیخ شیوخ العالم
 سید السادات شیخ الاسلام شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صلاح موسی بن ابی عبد الله بن
 یحیی الزاهد بن محمد بن داود بن موسی بن عبد الله بن موسی الجون بن عبد الحفص با مقب بالجل بن
 حسن المغنی بن حسن بن علی مرتضی رضی الله عنهم جمعین بسط ابی عبد الله صومعی زاهد لومی شناسنده ایشان
 بهنگامیکه بجیلان بود و وی رضی الله عنه منسوب است بسومی جیل بکنهیم و سکون یا و می بلاد متفرقه
 است در ای طبرستان و در وی مولود شده در مینق قضیه ازان است و گفته میشود او را نیز گیلان و
 جیلان و گیل نیز قریه است بر ساحل و جمله بر مسافت یکروز از بغداد متصل بطریق واسط و گفته
 میشود او را جیل عم و گیل عم و گیل عراق و جیل نیز قریه است تحت مداین در روایتی آمده که جیلانی
 منسوب است بجدا و که جیلان است و از بعضی گیلانیان شنیده شد که محمد مزاردهای ایشان
 در گیلان مستند بر مذہب اهل سنت و ابو عبد الله صومعی از اجله مشایخ جیلان و رؤسا زهاد
 ایشان صاحب احوال سینه کرامات جلیبه ملاقات کرد جماعتی از عظامی مشایخ عراق و عم را بود
 عجیب الدعوات و بود با وجود ضعف و قوت و کبر سن کثیر العوافل دائم الذاکر ظاہر الخشوع صابر بر
 حفظ حال و مراعات اوقات و بود وی که خبر میداد بامری پیش از وقوع آن پس واقع میشد چنانکه
 خبر داده بود و بعضی مشایخ از وی حکایات نقل کرده اند و امام دی رضی الله عنه ام الخیرة الجبار
 فاطمه بنت ابی عبد الله صومعی بود مر او را خطی و افزایخیر و صلح روایت کرده است شیخ اصیل
 ابو محمد عبد اللطیف بن شیخ قدوه ابو النجیب از مشایخ که گفته بود مر امام الخیرة الجبار فاطمه ام شیخ
 عبد القادر رافعی را شیخ در بنی طریق و شنیدم او را که میگفت بار با چون زایدم پسیر خود را عبد القادر
 نمی یکید پستان مر او ماه رمضان و پنجم مردم هلال پس آمدند مرد نزد من و پرسیدند مر از حال و

پس گفتیم مرایشان را نخورده است امروزشیر لپتر واقع شد که آن روز از رمضان بود مشهور
 شد و شهر مادر آن وقت که مولود شده است مر اشرف را ولدی که شیر نمینورد در نهار رمضان
 و برادروی رضی الله عنه شیخ ابوالاحمر عبد الله خود تراز وی رضی الله عنه ناشی شد نشاء صالح در
 علم و خیر و مرد بجیلان جوان و عمه وی رضی الله عنه شیخه صالحه ام محمد عالیشه صاحب کرامت ظاهر
 و روایت کرده شده است که یکبارگی قحط افتاد در جیلان و استفسار کردند اهل آن پس آب داده
 نشد پس آمدند بر شیخه ام محمد عالیشه عمه شیخ عبد القادر رضی الله عنه و عنما و در خواستند از وی
 استفسار پس ایستاد بسوی صحن خانه و چهاروب دادی اوزین را و گفت خداوند منم چهاروب
 دادم آب پاشیدن از درتست پس درنگ نشد که یارید آسمان همچو دهنهای مشکها و برگشته
 مردم بسوی خانهای خود در آب و عمر دراز یافت و مرد بجیلان تنبیه گذشت در نسب مقدم
 چون وی لقب است مرموسی را وی از اسما اصفاد است اطلاق کرده میشود بر ابیض و
 اسود و این اکثر است در استعمال و همین است مراد اینجا و موسی ادم اللون بود از ادمت و
 ادمت سفیدی مخلوط بسیاهی و باردار شد بوی مادر وی در شصت سالگی و گفته اند محل در شصت
 سالگی مخصوص بزنان قریش است و محض لقب عبد الله است و هر شئی خالص را محض گویند لقب
 کرده شد بدان عبد الله زیرا که پدرا و حسن بن حسن بن علی است و مادر وی فاطمه بنت حسین
 بن علی است پس خالص است نسب او از موالات پس کریم الطرفین است و از اینجا است الحسنی
 الحسینی خوانده اند و محل بضم میم و فتح میم لقب حسن مثنی است سلام الله علیهم اجمعین انتی و تابع عمر

<p>ایشان و وفات ایشان از کتاب مخبر الواصلین منظوم از جاب شیح زمره الله حامی شرع و دین نیکست عالم و متقی و عارف بود آری خاری است تالیفش آنچه او را در تصانیف است چو نظم و چه نثر تالیف است یکی بشصده هزار آمد عمر او بود یکصد و سه سال بخلان بهشت متوقفست مدفن او شهر دلی دان</p>	<p>فصل هفتم شیخ عبد الحق شرح مشکوٰۃ از تصانیفش بیابانش که در شمار آمد سال نقاش نزد عیان و نهفت صد و یکم گفته است</p>	<p>بلعوم غریبه واقف بود چه نظم و چه نثر تالیف است کان زمان شد ازین بر طلال مسکن و شهر دلی دان</p>	<p>فصل هفتم شیخ عبد الحق شرح مشکوٰۃ از تصانیفش بیابانش که در شمار آمد سال نقاش نزد عیان و نهفت صد و یکم گفته است</p>
---	--	--	--

عالم شیخ ابی بکر عبد اللہ بن نصر صدیق شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب خود انوار الناظر فی مناقب
 سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و دویم گفته است عالم و امام محمد بن سعید زنجانی شافعی
 رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب خود روضۃ الناظر و نزہۃ الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ
 عنہ صد و سی و سوم گفته است عالم علامہ حافظ قسطلانی شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ در کتاب خود روض
 الطاہر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و چہارم گفته است شیخ مجد الدین -
 فیروز آبادی شافعی لغوی صاحب قاموس در کتاب خود روض الناظر فی مناقب سید
 عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و پنجم گفته است سید عبد القادر عیدروس شافعی رحمہما اللہ
 در کتاب خود دار المفخر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و ششم گفته است
 سبط ماردنی در کتاب خود مرآت الناظر صد و ہفتم گفته است علامہ زر قانی در کتاب خود
 نزہۃ الناظر در مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و ہشتم گفته است امام مقدسی در
 بہجتہ الناظر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و نہم گفته است سید امام حاتم
 البلال در انوار المفخر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و دہم گفته است امام
 حافظ ذہبی در عقد الجواہر صد و یازدہم گفته است شیخ عبد الکریم جلیلی در کتاب خود لفتان الزمان
 فی المقامات الجبلانیہ صد و دوازدهم گفته است امام ناصر الدین دمشقی در کتاب خود نثر الجواہر
 فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و سیزدهم گفته است ابوالحسن علی یعقوبی رحمہ اللہ
 در کتاب خود دار الناظر فی مناقب شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و چہار دہم گفته است
 امام ابن ملقن سراج الدین عمر ابو حفص عمر بن علی بن احمد بن محمد انصاری شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ
 کہ وفات یافتہ در ششم ہشت صد و چہار در کتاب خود در الجواہر صد و پانزدہم گفته است
 ہاشمی گیلانی حسنی لقیب حماد در لواح الانوار صد و شانزدہم گفته است علامہ قدوہ فہامہ
 شیخ محمد بن محمد بن جلیلی در کتاب خود شمس المفخر فی مناقب سید عبد القادر رضی اللہ عنہ
 صد و ہفتم گفته است عالم فاضل سلالہ فاضل صاحب عقل و فہم است شیخ سید محمد علی بن

استاذی سیدی مصطفیٰ ابن عزوز نعمتاً اللہ تعالیٰ بیکر کاتر تو نشی در کتاب خود سیف الربانی فی
عشق المعترض علی الغوث الجیلانی رضی اللہ عنہ ذکر میکنم اول علمای النساب را و نسبت که تصریح
کرده اند به متصل بودن نسب شریف محبوب سبحانی شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ
عنه بجناب امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ عنہ بعد از آن تحریر کردم شامی ایشان را که مشهور است
رسانیده اند فقہار جمیع اللہ تعالیٰ بدانکه هدایت کند تر اللہ تعالیٰ بر او راست و نگردد و خدا تعالیٰ
بکرم خود از مواقع اغلاط یعنی از کذب و دروغ بدر رسیدنکه شرف است سردار سید عبدالقادر رضی اللہ
عنه بهره مند کند میان را خدا تعالیٰ بیکر کات ایشان و بواسطه ایشان همراه ایشان نسب شریف
که متصل با امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ عنہ و تصریح کرده اند علمای النساب محققان و اهل
تقوی همیشه ایشان بصفیعه حزم که ذکر میکنم ایشان را تا که بدانند که کدام اند از ایشان مغفرت
کند خدا تعالیٰ جمیع ایشان را اول عالم علامه تها می علمی حسنی در کتاب خود فخر الذہب
فی خیر نسب پس بدر رسیدنکه گفته است در شرفا البغدادی و سلسله جماعه علی اند و تعداد کرده اند جیلانی
پارا و جد همه ایشان سید عبدالقادر جیلانی است رضی اللہ عنہ و مخفی نیست نسب شریف که حسنی
اند و از شدت تحریر مؤلف که اخوان کرده از قبایل اشرف در مغرب که آنها هستند نسبت کرده شده
بسیادت و دیم اما احمد بن محمد بن جزلی اندلسی غرناطی که مشهور است در کتاب خود مختصر البیان فی
نسب آل عدنان و تصریح کرده به نامهای نسب جلی تا به امام حسن رضی اللہ عنہ سیوم صاحب جوهره
العقول فی ذکر آل الرسول و ایشان عالم نسب اند شیخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فاسی و ذکر کرده
است در آن مگر اشرف را و همه در آن اشرف اند تا که بدانند آن و همین سبب تصنیف شده
باذن پدر خود شیخ جماعه چهارم حافظ ابن حجر عسقلانی در غیبه الناظر بجمع علامه ابن عوفون نقل
علامه مغرب شیخ محمد قنوی ششم سبط ابن جوزی در مرآت الزمان هفتم علامه نسایب شیخ محمد عربی
فاسی و مرآت الحیاسن گفته است که هست در فاس از شرفا قادیانیه از اولاد قطب سید عبدالقادر
جیلانی رضی اللہ عنہ و نسبت ایشان ثابت است با ایشان رضی اللہ عنہ و عنهم هشتم و در النساب

قرطاس ذکر نسب ایشان تا به امام حسن رضی الله عنه بنام امام نسابه ابن فرحون در کتاب خود موسمی
 باعتبار و تواریخ الاخبار که تعریف کرده شده است بسوی بنی مختار صلی الله علیه وسلم و نیست
 ابراهیم فقیه معروف است بلکه نام ایشان علی صاحب کتاب ذم خبائث دهم علامه نسابه ابن طیب
 یازدهم شیخ محمد بن عبد الرحمن فاسی در متن با دیده آورده است و دوازدهم مشجر شیخ مراد بغدادی
 سیزدهم در نتیجه تحقیق فی بعض اهل النسب الوثیق از شیخ مسناوی صاحب تخریر و رد الوابط
 در النساب اشرف یازدهم مشجر عالم شیخ محمد بن عیاد اندلسی شانزدهم مشجر عالم شیخ علی بن عبد الوهاب
 شامی هفدهم شیخ عبد الواحد لوانشرسی در مشجر خود هجدهم عالم علامه امام اهل و ع در زمانه خود شیخ
 رضوان بن عبد الله در مشجر خود نوزدهم شیخ عالم عبد الواحد الحمیدی بیستم شیخ زقیم علی صقلی
 حسنی بیست و یکم عارف النساب شیخ ابوالوفیق بلخی مصری در کتاب خود سه و در القلب بیست و دویم
 کتاب درسی در بعض اهل نسب حسنی بیست و سیوم ابن الوردی در تاریخ خود بیست و چهارم مولانا
 علی بن سلطان القاری یکی در کتاب خود بیست و پنجم سید مومن صاحب نور الابصار فی کتاب
 آل بیت بنی مختار صلی الله علیه وسلم بیست و ششم حافظ النساب شیخ عبد الله بن طاهر سجلماسی -
 بیست و هفتم در شجرة الانساب تلخیص عالم سید علی بن موسی جزائری بیست و هشتم در شجرة محمدی
 آورده است از بهفتاد نفر نقباء امصار شرف و صحت نسب جلی را بیست و نهم جامع علم الظاهر و
 الباطن قطب ربانی سردار ماجد الوهاب شعرانی در طبقات خود سی و ام عالم کبیر عارف شهیر سید احمد
 زروق فاسی - سی و یکم شیخ صفدی سی و دویم عنقیف بن مبارک صاحب فتح ربانی سی و سیوم شیخ
 مراد شاذلی در فتح کامل سی و چهارم استاذ ابن باختره سی و پنجم شیخ علی بن یوسف مینی سی و ششم شیخ
 نور الدین جامی در نفحات الانس سی و هفتم انس الجلیس ابن بادیس سی و هشتم امام عبد الشیافی شامی
 سی و نهم حافظ ذهبی بنقل مسناوی جهلم استاذ سید عبد الرزاق پسر امام جلی در اول فتح الغیب که
 گفته است گفت پدر من ابو محمد می احمد بن سید عبد القادر نسب شریف خود را تا به امام حسن رضی الله
 عنه جهلم و یک علامه جامع سیدی احمد بن مبارک لطنی صاحب ابنیزر جهلم و دویم جامع الاصول شهسواری

جهیل و سیوم شیخ نجفی در خلاصه الاثر در ترجمه سید نعمت الله که از نسل جهلی است جهیل و چهارم
 امام عارت بالله ذوی صبا به در حضرت بنویسید عبد الرحیم برعی ذکر کرده است همچنین در قصیده
 ربانیه که توسل کرده است در حضرت بنویسید در حال خرقه جلیله که شیوع یافته است جهیل و پنجم
 شیخ خبرتی در تاریخ خود در ترجمه سید عبد الحاق مصری حنفی جهلی و ششم سید محمد تونسلی جهیل
 و هفتم شیخ محمد بن یحیی التادنی در قلند الجواهر جهیل و هشتم اربلی مقدسی در تفریح الخاطر جهیل و نهم
 شیخ ذوالانوار و الکرامات سید محمد بن اسماعیل کلبلی حلی در رساله خود پنجاه ام شیخ محمد عیسی
 قیروانی پنجاه و یکم شیخ محمد امین گیلانی تونسلی در مواهب جلیله پنجاه و دویم قطب کامل سردار ما
 عبد الله با علوی بمبئی پنجاه و سیوم ابن فضل الله در مسالک الابصار پنجاه و چهارم ابن شاکر
 در تکمله خود پنجاه و پنجم شیخ ابن زکی جهیل و ششم سردار مصطفی بکری پنجاه و هفتم علامه لفرنی پنجاه
 و هشتم امام ابن ازرق پنجاه و نهم سردار عبد السلام اسم شصتم امام منزلی شصت و یکم عالم ربانی
 سید ابی بکر شط مکی شصت و دویم شیخ عیسی تجانی در شرح استغاثه تصریح کرده بنسب
 جهلی در نظم **مولای عبد القادر جیلانی** عونا علی ذی خسته ظمانی ^{۱۱۸} صد و نهم گفته است
 سلطان محمد داراشکوه در کتاب خود سیفیه الاولیا حضرت غوث الثقلین شاه محمد بن سید
 عبد القادر الحسینی رضی الله عنه کنیت ایشان پادشاه مشایخ اندر طریقت و امام ائمه
 اندر شریعت و محبوب ربانی ابو محمد است و نام شریف آن پیر زمانه سرور عارفان یگانه شرف نهاد
 غمزه عباد قطب صمدانی سید عبد القادر و هو ابن ابی صالح سید موسی اجنکی دو است بن سید
 ابی عبد الله بن سید یحیی زاید بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبد الله بن
 سید موسی الجون بن سید عبد الله المحض بن حسن المثنی بن حسن بن علی مرتضی رضی الله عنهم
 و حسنی و حسینی جهت گویند که پدر عبد الله محض حسن مثنی بن حسن بن علی مرتضی است رضی الله عنهم
 و مادر عبد الله محض فاطمه بنت حسین بن علی مرتضی است رضی الله عنهم دیگر آنکه والده ماجده حضرت
 نیز حسینی بوده اند تا تاریخ رحلت سلطان داراشکوه رح از کتاب منبر الواصلین -

آنکه شاه بلند قبال است	زبانش در مقام بدل است	در حقائق کسی با و نسید	گفت شبلی هر آنکه او را دید
شاه داراشکو نامش بود	در کمال شیخ جامش بود	چون زین امکاه حزین مال	شرف و درین دل خوشحال
جمعه وغره معاشور	بود روز وصال آن مغفور	سال تاریخ نقل آن دین	شد رقم حسابشست برین
مقدان قتل عشق آله	هست رنگت بهماون شاه	آنکه او دلر بای عالم بود	عارف حق نامی عالم بود
در جهان بود از جهان بیرون	نتوان گفت حق درون	مرم بزم لی مع الله بود	بینا زکد او از شنه بود
هر که او محقق بود بیدار	حالت او چنین بود ناپاچار	بجهان شاه دلریا بوده	بخدا عارف خدا بوده

بیشک وریب سال رحلت او و منزل دلر با بهشت بگوسه

صد و نوزدهم گفته است عالم فاضل محمد صادق لطفی قادر می مخلص بمشربی در کتاب خود
 خوارق صادقیه من مواهب قادریه ناقل از بحرانساب آورده است مکاشفه دوازدهم
 در مشاهد یازدهم حضرت غوث الاعظم و شرح طرح اعداد آن بیازده عدد احسن بنیه امام حسن
 امی خلاصه جان و تن و آمی مجموعه روح و بدن این مکاشفه اسم مبارک حضرت امام حسن رابوجه
 احسن فهم کن و خاطر خود را از انفاق بیوهم کن و بدانکه اسم مبارک امام بهام رضی الله عنه مرکب
 بسنه حرف است و بنیه اسم شریف آن جوهر لطیف دو حرف اند یکی حرف سین و دویم حرف نون
 و عدد هر دو حرف یکصد و ده اند که باعداد اسم علی متحد اند زهی پدر که در بنیه پسر سین آمد
 و زهی پسر که بحسن پدر متعین شده زهی خلف اشرف که بنیه اسم شاه نجف می آید و زهی بنیه اش
 که بیازدهم غوث الاعظم مشرف مینماید عزیز من اسم بنیه امام حسن رضی الله عنه که دو حرف اند
 و یکصد و ده عدد طرند همه بیازده یا زده طر می پذیرند و این یازدهم که مخصوص بغوث
 الاعظم است اظهر من الشمس است و آن محبوب سبحانی فرزند دل بند جگر چونید امام بهام است
 که سلسله نسب وی رضی الله عنه بیازده واسطه بحضرت امام حسن رضی الله عنه میرسد که بنیه
 اسم امام حسن یازده عشره اند و این سرسیت معظم از اسرار غوث الاعظم که کم کسی بکنند این اسرار
 بزرگ اطلاع یافته است و اسما آن یازده بزرگوار که هر یک برگزیدگان خدا و نور دیدگان

سنة

مصطفی و آباء مکرّم حضرت غوث الاعظم اند در کبر الالساب غیره کتاب جنین بصحت رسید ه اند
که اسید الشریف و الجوه اللطیف قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین ^{السید} شیخ عبدالقادر جیلانی
ابن سید ابی صالح موسی و هو ابن سید عبداللّه و هو ابن سید یحیی زاهد و هو ابن سید محمد و هو
ابن سید داؤد و هو ابن سید موسی ثانی و هو ابن سید عبداللّه ثانی و هو ابن سید موسی
الجون و هو ابن سید عبداللّه الخضر و هو ابن سید حسن المنفی و هو ابن حضرت امام حسن بن علی ^{رضی} نصری
رضی اللّه عنه و عنهم اجمعین بدانکه از پدر بزرگوار حضرت محبوب سبحانی که اسم مبارکش سید ابی صالح
موسی است بحضرت امام حسن یازده واسطه متوسط اند و بر هر واسطه متوسط اند اگر بدین اعداد اسم
امام حسن را تفریق دهی و بر یکی عشره بیشتره بتقسیم نمی یازده عشره کامله که در اصل اعداد اسم
شریف حضرت علی و باعتبار میان اعداد بدین امام حسن اند رضی اللّه عنه و کرم اللّه وجهه حقائق و
دقائق یازدهم حضرت غوث الاعظم ترا منکشف خواهد نمود و عزیز من در سلسله شریفه حسینه
دوازده امام حسنی اند که ایشانرا الیمه المؤمنین امام المسلمین خوانند و در سلسله شریفه سادات
حسینه ذات بابرکات حضرت غوث الاعظم امام العارفين و قطب الموحدين است که مخاطب
بخطاب غوث الاعظم و قطب الاقطاب محبوب سبحانی است که خدا تعالی بیازده خطاب مستطاب
معزز نمود که آن معروف و مشهور اند مشرعی ای آل حسن ای مصدر حال حسن به ای باخط و
خال حسن محبوب ذات کبریا به نور حسین و هم حسن در ذات تو سر و علن به توجاتی و عالم بدن از
تو منور جسمها به صد و بیستم گفته است عالم فاضل و عادل و ولی کامل لا شک و لا ریب مولانا
حضرت شیخ محمد شعیب ابن مولانا حافظ گل محمد رحمة اللّه تعالی در کتاب مرآت الاولیاء نزدیکان
سلسله قادریه غوث اعظم و قطب اکرم غوث الثقلین قطب الحقیقین محبوب سبحانی سید عبدالقادر
جیلانی و ایشان از پدر خود سید موسی و ایشان از پدر خود سید عبداللّه کبلی و ایشان از پدر خود
سید یحیی زاهد و ایشان از پدر خود سید محمد و ایشان از پدر خود سید داؤد و ایشان از پدر خود
سید موسی و ایشان از پدر خود سید عبداللّه محمد و ایشان از پدر خود سید موسی الجون ایشان

از پدر خود سید عبد الله المحض و ایشان از پدر خود سید حسن المشنی و ایشان از پدر خود امام المتقین
 سیدنا حسن رضی الله عنه و ایشان از مادر خود بی بی فاطمه رضی الله عنها و ایشان از حضرت
 امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه و ایشان از حضرت سرور کائنات شفیع عرصات رحمته للعالمین
 سید الاولین و آخرین محمد مصطفی و احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم و جناب ایشان از حضرت
 رب العزت جل جلاله عم نواله و تاریخ رحلت حضرت شیخ محمد شعیب قدس سره العزیز بتاریخ شان در نیم
 ماه سیصد و هشتاد و صد و سی و هشت و قبر مبارک ایشان در قریه تو دیر می اضلاع شهر لنگر و رست
 و ایشان بر طریقت از جناب ولایت آب سالک کامل عارف مکمل مخزن اسرار و حضور حضرت
 شیخ مولانا عبد الغفور رحمته الله علیه المشهور بابو البرکات مولانا خود صاحب سواد بود و صد و
 بیست و یکم گفته است عالم علامه مولوی محمد نعیم الله بهر لیس خفی نقشبندی در محمولات مظهریه
 یعنی حضرت میرزا جان جانان مظهر شهید علیه الرحمته در نزد بیان سلسله آورده است که سید
 السادات سید عبد الرزاق و ایشان از پدر خود سید السادات قطب ربانی محبوب سبحانی غوث
 الظالمین سید محی الدین عبد القادر جیلانی و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید السادات سید
 ابی صالح موسی حنکلی دو است و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید عبد الله و ایشان از پدر خود و شیخ
 خود سید محی زاهد و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید محمد و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید اود
 و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید موسی و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید عبد الله و ایشان
 از پدر خود و شیخ خود سید موسی الجون و ایشان از پدر خود سید عبد الله المحض و ایشان از پدر
 خود و شیخ خود سید السادات جامع البرکات سید حسن المشنی و ایشان از پدر خود و شیخ خود امام المؤمنین
 و قدوة المتقین امام حسن رضی الله تعالی عنهم اجمعین و ایشان از پدر خود امام هدی امیر المؤمنین علی
 المرتضی کرم الله وجهه و جناب امام حسن رضی الله عنه نیز از مادر خود سیده النساء فاطمه الزهرا رضی الله
 تعالی عنها و ایشان از پدر خود و شیخ خود سید المرسلین خاتم النبیین و شفیع المذنبین احمد مجتبی
 محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم انتهی صد و بیست و دویم گفته است عالم فاضل خواجہ

و شیخ خود

محی الدین المعروف بسید شاه محی الدین القادری الکرکونی حیدرآبادی در کتاب معدن الاسرار
 فی بیان جواهر الابزار در نزد ذکر سلسله قادریه که سلطان الاولیا سید عبدالقادر جیلانی و ایشان
 از پدر خود سید ابی صالح موسی جنگلی دوست و ایشان از پدر خود سید عبداللہ و ایشان از پدر
 خود سید سبکی زاہد و ایشان از پدر خود سید محمد و ایشان از پدر خود سید داؤد و ایشان از پدر
 خود سید موسی و ایشان از پدر خود سید عبداللہ و ایشان از پدر خود سید موسی الجون و
 ایشان از پدر خود سید عبداللہ المحض و ایشان از پدر خود سید حسن المنشی و ایشان از پدر خود
 امام حسن المجتبی و ایشان از پدر خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ و ایشان از جناب شفیع المذنبین
 سید المرسلین صلی اللہ علیہ آلہ وسلم صد و بیست و سیوم گفته است عالم فاضل سید شاه محمد
 قادری در کتاب خود و لایۃ الکریمی کہ سید الاولیا الاولین و الآخرین فرد الافراد غوث الاعوذات
 حضرت محبوب السمانی السید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی رضی اللہ عنہ و از شاہ صد و
 بیست و چهارم گفته است در تاریخ بلخ کہ مشہور است بمؤمن خانی بدانکہ حضرت غوث الاعظم
 سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بن حضرت سید ابوصالح موسی بن حضرت سید
 عبداللہ بن حضرت سبکی زاہد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید داؤد بن حضرت سید موسی بن حضرت
 سید عبداللہ بن حضرت سید موسی الجون بن حضرت سید عبداللہ المحض بن حضرت سید حسن منشی
 بن حضرت امام حسن بن حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہم اتہمی صد و بیست و بیستم
 گفته است عالم علامہ فاضل یکانہ محدث محقق مولانا شیخ عبدالحق دہلوی بخاری سمرقندی در
 کتاب خود اخبار الانبیا قطب الاقطاب فرد الاحباب الغوث الاعظم الشیخ الشیخ العالم غوث الثقلین
 امام الطائفتین شیخ الطالبتین شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی
 رضی اللہ تعالی عنہ از اکل اولیا اہل بیت و از اعظم سادات حسینیہ است از احفاد عبداللہ المحض
 بن حسن منشی بن امام المسلمین حسن بن امیر المؤمنین علی مرتضی است رضوان اللہ و سلامہ علیہم اجمعین
 منسوب است بحیل کہ آنرا جیلان و گیلان نیز گویند تولد شریف آنحضرت قدس سرہ در ششمین شعبان

داربعامتة وبروایتی احدی و سبعین و اربعامتة است و عدت نصدراوم تدریس و فتوی راسخی و سه
 سال و مدت کلام او بر مردم و ارشاد و خلق چهل سال و عمر آنحضرت نو دسال و وفات سنه احدی
 و ستین و خمسامتة و در سنه ثمان و ثمانین و اربعامتة که سال عمر آنحضرت هزده مبعثه اذ قدوم سعادت
 لزوم ارزانی داشت و قصد اشباح و ائمه و اعلام است و علماء ائمت و اعیان دین نموده آتی
 المصد و مبیت و ششم گفته است شیخ عالم احمد مغربی گنج بخش در رساله عربیه خود صد و بیست
 و هفتم گفته است عالم زمانه میر محمد صادقی قادری اورنگ آبادی در رساله خود محبوب المعانی
 صد و بیست و ششم گفته در کتاب محبوب القلوب بزبان هندی دکھتی صد و بیست و نهم
 گفته است عالم فاضل حسن نظمی در لطافت قادریه خود صد و سی ام گفته است عالم علامه محمد
 شیخ محی الدین النووی رحمه الله در لبستان العارفين صد و سی و یکم گفته است عالم فاضل سید
 عطا حسین در کنز الانساب خود ثمره نسبت دویم باب اول ذکر اولاد حضرت امام حسن مجتبی رضی الله
 عنه نسبت دویم در ذریت حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه واضح باد از شکر بیرون
 سابقین ازواج حضرت امام حسن مجتبی رضی الله عنه قریب پنجاه و شش زوجه آمده اند در شمار
 چرا که آنحضرت بودند کثیر النکاح بحدت شرعی یکی بعد دیگری چهار زن موافق داشتند میکردند طلاق
 کثرت نکاح بود بمنای ارشاد آنحضرت صلی الله علیه آله و سلم و آنحضرت شهر با نوب بودند رضی الله عنهما
 و در کتب تواریخ کل اسما زوجه آنجناب نیافت که می نگاشت الا اسما چند جای یافت می نگارد و
 بدانید زوجه اولین خوله بنت منظور ابن جیدر از اولاد هاشم بن عبد المنان هاشمی نسب از بطن
 این زوجه یک فرزند رتبه بان جناب حضرت امام حسن مثنی رضی الله عنه و از بطن بی بی صفوره
 بنت سعد ابن زید بن خطاب یعنی از اولاد برادر حضرت عمر خطاب رضی الله عنه یک فرزند بی بی عاتقه
 ثانیه کنیت ام عبد الله و نیز فاطمه ثانی نام منبشته اند مورخین این بی بی زوجه حضرت علی ثانی
 امام زین العابدین ابن امام حسین رضی الله عنه و که خدای حسن مثنی از دخت عم بزرگوار
 حضرت امام حسین رضی الله عنه کردند نام نامی این بی بی فاطمه صغری از بطن عقیقه تولد

بروز نسبت
 نسبت اول
 در ذریت امام
 حسن رضی الله
 عنه

شدند سیدنا عبد اللہ الحنفی و از حضرت امام حسن مجتبیٰ و نبیره حضرت امام حسین شهید کربلا
 که از اجداد و اجداد حضرت غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہم و فرزند بی بی
 ام عبد اللہ عایشه ثانی حضرت امام محمد باقر ابن حضرت امام زین العابدین نو اسه سید الشهدا
 امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ذریات اینحضرات بلقب بیادات حسنی الحسینی و حسینی الحسنی اند
 کیفیت ذکر نسب بیشتر گاشته خواهد شد در اینجا تفصیل از و از حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ
 می آرند مینویسند باید شنید بی بی ام ابی شکر دختر مسعود انصاری از طین ابن بی بی متولد شدند
 سیدنا قاسم هستند و از زوجه رابعه بی بی ماهره تولد شد سیدنا عبد اللہ ابن امام حسن
 مجتبیٰ و از طین زوجه خامسه بی بی زرا بده سیدنا ابو بکر بن حسن تولد یافتند و از طین زوجه
 سادسه بی بی ام ولد سیدنا عمر بن حسن پیدا شدند و از طین زوجه سابعه بی بی سعدا تولد شدند
 سیدنا محمد ابن حسن مجتبیٰ و از طین بی بی امیه ثامنہ و از طین بی بی طاہرہ چند دختران بوجود
 آمدند و نیز تولد چند زوجه بی بی فاضله و بی بی محمود و بی بی نفیسه و بی بی خدیجه و بی بی
 عابدہ دختران متولد شده باشند کل چهارده از و از اولاد اواحده جده بنت اشعث
 که اسما هم نام بود کاشته زهر نوشیده شهادت یافتند ان اللہ و انالیہ راجعون ذکر فرزندان
 حضرت امام حسن مجتبیٰ در کتاب امامیه تا اینجا گاشته اند و دختران مسیت تحریر میکنند
 الا اهل السنن مورخین معتمدین همینقدر نوشته اند که در تحریر در آمد باید دانست پس سیدنا
 ابو بکر سیدنا بر اہم و فرزند سیدنا عمر سیدنا جعفر و ابن سیدنا محمد و اندکی سیدنا بر اہم و بی سید
 ادریس و فرزند سیدنا عبد اللہ سید یونس سید سلیمان کیفیت ذریعت حضرت قاسم دریافت
 نشد باید شنید اولاد سیدنا بر اہم اولی سید فوح و سید سلیمان و سید داود اند و فرزندان سید
 جعفر ابن عمر زید شهید و اولاد سیدنا محمد سید موسی و سید یحیی و سید جعفر و سید ابو بکر و دند
 و اولاد سید عبد اللہ سید یونس و سید اسمعیل و سید اسحاق ذریات ایشان وقت دوره امارت
 بنی امیہ و خلفاء عباسیہ خروج کردند بعضی از صلوات آنها فرار شدند بعضی شدند شهید شمر نسبت

دویم باب اول ذکر اولاد حضرت امام حسن مثنی جد اعلی حضرت غوث الثقلین
 باید دانست بحضرت امام حسن مثنی پنج فرزند شدند از آن جمله اولین سیدنا عبد الله المحض ثانی
 سیدنا ابراهیم ثالث سیدنا عمر رابع سیدنا حسن مثلث خامس سیدنا اصغر این همه از طین بی بی
 فاطمه صغری بنت حضرت امام حسین رضی الله عنه و از طین حلیه رومیه سیدنا داود و سید
 جعفر و سید اصغر مگر گویند اولاد حسن مثلث باقی مانند از دیگران باقی مانند ثمره سیوم سیدنا
 عبد الله المحض را پنج پسر شدند از طین بی بی رقیه دختر حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه
 سه فرزند سیدنا موسی الجون و سید محمد و سید ابراهیم و از طین حاربه سید ادریس و سید
 یحیی ذریت ایشان علاوه از ذریت حضرت موسی الجون که تفصیلاً نیز نگاشته خواهد شد اولاد
 سید محمد شیبیه بنی فرزند کلانی ایشان سید قاسم و ثانی سید ابراهیم سیوم سید عبد الله بلکه بعض
 اهل مذہب باطله و نواصب و خوارج سید محمد ابن سید عبد الله المحض را مده موعود دانند چنانکه
 نام پدر عبد الله و نام مادر آمنه بود منصور و واقی از خلفاء عباسیه بود اول سید محمد را مجوس
 نمود بعدد شهبید کرد و حال ذریت سید ادریس و سید ابراهیم و سید یحیی یکی کتاب یافته نشد که
 می نوشت ثمره چهارم نسبت دویم باب اول سیدنا موسی که سید رنگ سیاه و الله ایشان
 چون گفتند معنی چون سیاه رنگ که خدای ایشان یعنی سید موسی الجون از دختر نجسته اختر
 امام محمد باقر رضی الله عنه شد نام آن بی بی رقیه ثانیه دو فرزند از طین این بی بی شدند متولد یکی
 سید ابراهیم که اعقاب ایشان مانند ثانی سید عبد الله ثانی که با لقب بودند شیخ صالح که خدای
 ایشان از بی بی ماله دختر حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه شد از طین این بی بی پنج فرزند
 تولد گشتند پسر اکبر سید موسی ثانی که بودند از اجداد حضرت غوث الثقلین ثانی سید سلیمان
 ثالث سید احمد رابع سید یحیی خامس سید محمد الوصلح ذریات ایشان جانب بخارا و ترکستان
 بسیار اند ثمره پنجم نسبت دویم باب دویم بزرگ موسی ثانی کنیت ایشان ابو عمر که از دختر امام
 موسی کاظم رضی الله عنه که خدا شدند نام بی بی طیبه از طین این بی بی بوجود آمدند بخت پسر و

و یازده پسر از حاربه رومیه حضرت موسی ثانی در دوسه مجری از ششمین معتبره شدند شهید قاتل حضرت
 مطیع نیزید اولاد ایشان از بهر پسران شد آخر اعقاب مانند جز حضرت سید داود ثمره ششم
 نسبت دویم باب اول خلف الرشید سید موسی ثانی سیدنا او و محمد لقبه از اجداد حضرت
 غوث الثقلین بودند نام اتخوان نشان دریافت نشد که خدای حضرت سید داود از دختر حمزه
 اختر حضرت امام علی موسی رضا شد نام آن بی بی نبتیه بود جز یک فرزند کیفیت دیگر دریافت
 نشد ثمره هفتم نسبت دویم باب اول در ذکر سیدنا محمد کنیت ابو القاسم معروف
 که خدای ایشان شد از دختر یکی از بی بی اعمام سید حمزه نام تشبیه دخترشان بی بی مبارکه از لطن
 این بی بی سیدنا یحیی زاهد تولد شدند زوجه سید یحیی بی بی عصمت بودند ثمره هشتم سیدنا
 یحیی را از لطن بی بی رضیه دو فرزند یکی سید عبد الله که اعقاب مانند وی سید عبد الله شدند
 ثمره نهم که خدای سید عبد ثالث از دختر اتخوان شد از بی بی حمزت گردید سه فرزند از جمله
 اولادیک باقی ماند ثمره دهم نسبت دویم باب اول واضح باد سیدنا ابوصالح کنیت ابوصالح و
 نام جنگی دوست خدای لقب کردند ابوالاولیا سید الاصفیا بسیار عابد و زاهد شیخ کاملین بیلعاری
 زوجه آن حضرت بی بی ام الحیر فاطمه ثانی دختر حضرت سید ابوجعفر الله صومی که این حضرت
 در قریه جیلان زاویه بنا کرده عبادت الهی بودند مشغول کیفیت کرامات جد مادر می حضرت
 غوث الثقلین بسیار است به سبط و طول الی صل از لطن این عقیقه دو فرزند یکی سید ابوالاحمد
 ثانی معزز ربانی ثانی حضرت غوث الثقلین طیب بانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی صاحب
 سلسله معنوی و موجد طریقه قادریه که از نام پاک آنحضرت منسوب است عقیدت آنجناب بهر
 مطلوب است نام خواهران حضرت غوث پاک بود بی بی جملیه بی بی رقیه و اسمها زوجه پاک بی بی
 یقیه بی بی جمیلیه و فرزند آنجناب بودند یازده رتبه بلند فریست هر یکی پسران نیست الا اولاد
 سه فرزندان درین جوار رسیده اند از شاخ شجره دریافت شد اولین سیدنا سیف الدین
 عبد الوهاب ثانی سیدنا عبد الرزاق شهره آفاق ثالث سیدنا عبد العزیز سجاده نشین

بغداد از فرزندان ایشان بستند بهین بزرگوار را اولاد رسیده اند درین جوار و امصار
 باید شنید ز رابع سیدنا عبد الهادی خامس سیدنا عبد الجبار سادس سیدنا شرف الدین
 صالح سید نیامگی که حضور اند حسب الارشاد والد ماجد خود در شعب جبال دیار مغرب مخفی اند
 منتظر ملاقات حضرت عیسی علیه السلام شسته اند تا من سیدنا موسی تاسع سیدنا ابوالاسحاق
 عاشق سیدنا ابراهیم احد عشره سیدنا عبد الجلیل ابو نصر در نسب مشتای نجین این جور نیافت اسم این
 نسب بزرگوار الاصلین اقامت مدینه طیبه مکه مشرفه از بزرگی دریافت شد که بجز حضرت
 یحیی که حضور اند دیگر برادران ذمی اولاد اند و الله اعلم الحاصل نسب نامه مشتای نجین این جور
 ازین سه فرزند منی میشود از دیگران نه یعنی زراقیه اند و هایبیه اند عزیزیه اند بعل نسب نامه
 آن بزرگوار خواهد نوشت الا زراقیه کثیر اند و نسب نامه جانب مادری حضرت غوث الثقلین جعفری
 نسب اند و نیز نسب مادری چنانچه آنحضرت خواجه بزرگ نیز جعفری اند و نسب مادری
 حضرت شیخ الشیوخ نیز جعفری است صدوسی و دوم گفته است عالم فاضل کامل شاه ابوالمعالی
 در نسخه القادریه وثبوت کرده است نسب شریف را انتهی صدوسی و سیوم گفته است عالم
 فاضل کامل ابو عبد الله سید محمد بن سید احمد بن حسن حسینی نرمدی اکبر آبادی المدعو است بظهور
 الحق که در عهد دولت شاهجهان شهاب الدین بادشاه در سنه یک هزار و شصت و بیست و بیست و نهم
 کرده است کتاب مخیر الواصلین بنظم گفته است نسب شریف و تاریخ ولادت و رحلت قطب
 الاقطاب غوث الثقلین شیخ الجن والانس سید محی الدین شاه عبد القادر الجیلانی العنصلی رضی

<p>القدره و الثقلین در اباد برست گفت با تفسیر تاج اولیا صاحب فردوس علی زرقم قطب بغداد غوث جیلانی</p>	<p>آنکه پیشک قطب بانی بود سید عالی نسب اولیا است سال مولودش که برنگین است فی صفتش و مشانه بیست فی الدهر مثله ثانی</p>	<p>بگمان محبوب سبحانی بود نوزدهم مصطفی و نضی است شد رقم محبوب جلال قدر است آنکه محبوب حضرت حق است او پیش چرخ مهر کاب آمد</p>	<p>شاه شهابان شیخ عبد القادر است سال مولودش از حج کبریا عقل سال نقل آن عالی شیم بهر آفاق رحمت حق است قدرش از کمال آفتاب آمد</p>
--	---	--	---

لقب ابدان بصدق لقرین	قطب کونین شاه معی الدین	مفخر اولیا وجودش دان	اصفیا جمله رجوعش دان
در سنگی جهان اهل جهان	میر پیر زمان اهل زمان	نشود هیچکس باو همسر	کی نشود همسر سیما خن
ماه خنثی ماه تابان است	ماه تابان مهرش است	رافضی را ازو گریز بود	خارجی را ازو ستیز بود
ذات او صفا کرامت است	بیگانه آبروی سادات است	غوث و قطب فی سلطان است	بره حق دلیل برمان است
جلی و جنلی و بغدادی	بیشک شبهه مهدی باوی	حسنی و حبیبی است و شریف	حسن مجتبی و لطیف و لطیف
در زمی ناقه و فرید و حمید	عالی والی و حمید رشید	علم و فقه و بلوغ و فصیح	در همه اولیا بلوغ و صحیح
پدرش است نسبت حسن	بشکریب با امام حسن	مادرش را یحیی صبا دق	نسبت رابع است هم و اثن
هر که را بر یادش سخن است	دینش زن گزند و تیردین است	رافضی گفت شاه سید است	گفته رافضی مؤید نیست
خارجی گفت آن بان ز نازد	فی زنی دشته است فی اولاد	انکه اولاد است بیشک آن	است نسل پدرش بجهان
بچنین گفتنگوی نامعقول	آن و بدین گشته اند فحول	باو برود و لعنت دواوار	زانکه آن هر یک است لایق اولاد
ذات آن شاه روشن است چو ماه	باز اولاد او غیرت براه	تا قیامت همیشه معمور است	در دو آفاق فائق النور است
گر ز نام یکی هزار شود	صد هزارش سخن گذار شود	وصفا در شمار نتوانم	بلکه یک از هزار نتوانم
سال مولود آن معلی نشان	هاتم گفت کاشف جهان	سال و خنده ولادت او	ولی مالک القاب بگو
سال مولود او بصدق و عوایب	کو ولی و سرمد اقطاب	سال مولود آن سعید نزل	سرا قطاب اولیای اهل
بیشک و شبیه از بربع دویم	روز آدینه بود یازدهم	که ز دنیا باج علیسین	بچرخ خوشبختی خود روزین
گفت سال وصالش از اول جهان	صاحب وقت جان ضوان	گفته م سال نقل آن جنس	قطب قطاب عالم اقدس
شد رقم سال نقل آن عالی	قدس الله روحه العالی	سال نقلش بخوان که باقم	هاتم گفت نور عالم قدس
مرد پاک است در بغداد	اهل عالم ازو گرفته مراد	باوی خلق بود سوی خدا	قدس الله سره ایدا

صدوسی و چهارم گفته است عالم کامل قدوة السالکین زمین العارفين مهاجر مدنی سید اوم بنوری حسینی نقشبندی قادری در کتاب خود نکات الاسرار و قنیه سخن جاری شد در مجلس شیخ فرید الدین محمد شکر گنج و ذکر کردند در آن مجلس که گردن نهادند مشایخ و اولیا زمان که بودند

در آن وقت همه حاضران و غایبان زیر قدم شیخ سید عبدالقادر جیلانی و از همه گروه سبقت نمود شیخ
 ناخواسته معین الدین حسن قدس الله سره گردن نهاد زیر قدم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی الله
 عنه و فرمودند خواه فرید الدین و اگر من در آن وقت می بودم چشمها می نمودرامی نهادم زیر
 قدم ایشان و این منصب از ما می بود انتهى در مرآت الاولیاء آورده است که حضرت شیخ سید اوم
 بنوری رحمة الله علیه که ایشان بنیارت حرین مشرف شده بودند هرگاه که بنیارت حضرت است
 پناه صلی الله علیه و سلم میرسد ند میگفت السلام علیک یا رسول الله آوازمی شنیدند و علیک السلام
 یا ولدی و برد و لت مصافحه مشرف شده بودند و میگفتند که در وقت مصافحه نظر کردم ارواحان
 متابعان من تا قیامت همه حاضر بودند و برد دست هر یکی دست آنحضرت صلی الله علیه و سلم
 دیدم و مرابانین خطاب مخاطب کرده فرمودند که هر که دست تو گرفته است او دست من گرفته است
 و در اینجا وفات یافت و قبر مبارکش در بقیع است بجا امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه زیر میزاب
 گنبد فون اند انتهى صدومی و پنجم در مخزن القادریه آورده بدر سیکله امام الهام و غوث الانام
 سردار ما سید حسن عسکری رضی الله تعالی عنه سجاده خود را در نزد یکی از اصحاب خود گذاشته بودند
 امانت که این سجاده امانت میباشد از غوث الاعظم سید عبدالقادر و وصیت کرده بودند بحفظ آن
 در آخر عمر خود که این را بر ساینده دست بدست باعتباری و همچنین وصیت بکنند تا به وسط قرن
 خامس تا اینکه پیدا شود سید عبدالقادر الحسنی الکیلانی و این امانت او نشان است ادا بکنید و
 بر ساینده سلام مارا بایشان انتهى صدومی و ششم در قللند الجواهر و زبد الاثار و
 انهار المفاخر و طبقات امام عبدالوهاب شعرائی آورده است که او تاد عراقی هشت اندر وی است
 از شیخ ابی بکر بن هوار البطایحی بر اوایت شیخ ابی محمد شبنکی بطایحی حدادی از سه طریق که روزی در مجلس
 وی احوال اولیاء مذکور میشدند پس شیخ ابو بکر رحمة الله علیه فرمود که عنقریب ظاهر خواهد شد
 در عراق مردی عجمی عالی منزلت نزد خدا تعالی و عالی منزلت نزد آدمیان نام وی سید عبدالقادر
 و سکن می بغداد است و گوید قدمی بنده علی رقبته کل ولی الله و اطاعت خواهند کرد او را

اولیا و عرصه وی و او یگانگانه آن زمان خواهد بود و نیز از وی مروی است بروایت شیخ ابی محمد شبلی رحمه الله
 علیه که او تا در عراق هشت اندکی معرودت کردی و دویم احمد بن حنبل سیدم بشره حافی چهارم منصور بن عمار
 پنجم جنید بغدادی ششم سری سقطی هفتم سهیل بن عبد الله ششمی هشتم سید عبد القادر جیلانی نهم کوسیت
 فرمود مروی است عجمی نیز لایف ساکن خواهد شد در بغداد و ظهور او در قرن پنجم است و وی یکی است
 از صدیقان او تا در افراد که اعیان دنیا و اقطاب زمانند بدانکه شیخ ابو بکر بن هوار البضم با و دورا
 و دو الف اول سردار شاطران بود که قطع طریق میکردند در بطایح و در مقبره بطلح نشسته تقسیم
 اموال می نمودند شبی زنی شوهر خود را میگفت آیا در اینجا فرودی آئی البشبه که ابن هودال و با و ران و
 اموال ما را خواهند گرفت ابن هوار این سخن شنید و ازان پند گرفت و گریست و گفت که مردم
 مرا می ترسند و من خدا را نمی ترسم فی الحال تو بگرد و بیایار ان خود و بقدم صدق و اخلاص اراده
 متوجه بخدا شد و عزم نمود که خود را بکسی سپرد تا بخدا رساند و اوقات در عراق کسی از اهل طریق
 مشهور نبود پس در خواب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ابابکر صدیق راضی الله عنه دید و عرض
 کرد یا رسول الله مرا خرقه پوشان پس آنحضرت صلی الله علیه و سلم او را فرمود ای ابن هوار من پیغمبر
 تو ام و این شیخ تو است و اشارت بابی بکصدیق کرد پس فرمود ای ابابکر بمنام ترا خرقه پوشان
 چنانچه ما مور شده پس وی رضی الله عنه جامه طایفه او را پوشانید و دست خود بر سر و پیشانی او گرفت
 و گفت ببارک الله ینک پس آنحضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ای سپهر هوار را بتو زنده خواهد شد
 در عراق سنن اهل طریق از امت من بعد از آنکه مرده اند و پیر پا خواهد کرد و بدینسان راه باب حقایق از
 دوستان خدا بعد از آنکه مندرس شده است و در عراق تا روز قیامت بشیخت تو خواهد ماند و تحقیق
 و ز زبند نیسمات الهی برای ظهور تو فرستاده شدند لغیثت ایزدی برای قیام تو بیشتر از خواب بیدار
 شد و آنجامه طایفه بر بدن خود موجود یافت و بر سر او تو الیل بودند آنزانیافت پس گویند آنکرده
 در آفاق که این هوار بجا رسید پس خلق بروی هجوم آوردند از هر طرف و ظاهر شدند بر او علامات قرب
 الهی و متزاد گشت اخبار و از خدای تعالی و وی از هوار بود که قبیله است از کردان در بطایح است

اختیار کرده و بهما انجام داده و عمر او دراز نشده و برادر بهما بنجامست ظاهر و زیارت گاه مردم و در وقت
وفات چندان انوار بروی درخشان شد که عوام دیدند و حاضران وقت بوی خوش شمیدند که در
دنیا هیچ چیز خوشبو تر از آن نباشد و بعد از وفات ناله و آواز گریه چند در اطراف بطایح مسموع می شد
رضی الله عنه مروی است از شیخ ابی الفتح مواسس بن عبد الوهاب هاشمی بطایحی رحمه الله علیه که
شید شیخ اباج محمد شبنکی را رحمه الله علیه میگفت که شیخ ما شیخ ابو بکر بن هار را ذکر شیخ سید القادر که
عنقریب در عراق در وسط قرن پنجم ظاهر خواهد شد میگردد و بر فضل او تنصیب می نموده و آن وقت
زیاده از آنچه شنیدم نمی دانستم پیشتر مکتشوف شد بر من مقامات اولیا پس می از صد و آنها است
و مکتشوف شد بر من مراتب اقطاب پس وی یعنی شیخ عبدالقادر از صد و آنها است و مکتشوف شد
بر من مراتب مغربین پس می عالی تر است از آنها و مکتشوف شد بر من اطوار مکتشفین پس وی
بزرگترین آنها است و عنقریب ظاهر خواهد ساخت او را خدا تعالی در نظره کیه ظاهر نمیشوند و کن
مگر صدیقان عالمین بخدا و وی مقتدر خواهد بود در افعال و اقوال و عنقریب خدا تعالی بدرجات
عالیات خواهد رسانید خلقی کثیر را از بندگان خود ببرد او و او کسی است که خدای عز و جل بدو
مباهات خواهد کرد در روز قیامت بر سایر ائمه بدانکه شیخ ابو محمد شبنکی از اعیان مشایخ عراق و اکابر
عارفان و آئینه محققان است در او ایل بر قافله با قطع طریق میکرد در بطایح و با او رفیقان بودند
شبی قافله را در قریب شیخ ابی بکر بن هار را بند نموده بعضی از آنها گشتند و اموال آنها قسمت کرده
گرفتند چون بوقت سحر از زاویه شیخ ابن هار را گدشتند شبنکی یاران خود را گفت شما بروید شیخ مجامع
قلب مرا گرفت تجا و از آن همین شمال نمیتوانم کرد یا زانش گفتند که ما هم با تو ایم و اموال را فرد
انداختند پس شیخ ابو بکر بن هار را مر یاران خود را فرمود بر خیزید با ما تا ملاقات کنیم مقبولان خدا
و بیرون زاویه آمد چون آنها را دیدند گفتند ای سر دار ما حرام در شکمهای است و خونها در مشبه
ماست فرمود بگذارید از تحقیق مقبول شدید با این کار پس آنها بدست شیخ ابن هار را توبه کردند وی
سه روز متوجه بر مصالح شیخ ابی محمد شد روز چهارم فرمود ای اباج محمد برو به خدا و به انجا نشین پس بوی

خدا دعوت کن که تو شیخ کامل مکتب شدی پس بجدادیه آمد و شیخ ابو بکر فرمود که ابو محمد در سه روز
 بخند رسید و از ابی محمد شبنکی پرسیدند که در سه روز بچه چیز و اصل بخند شدی گفت روز اول ترک
 دنیا کردم و روز دوم ترک آخرت نمودم و روز سوم طلب خدا کردم مجرد از غیر او پس او را یافتم و او
 از شنا بلکه بود که قبیله است از کردان در صلاویه که دهبی است از بطایح ساکن شده و بهما بنجا مرده
 و سن شده و قبرا و بهما بنجا است ظاهر و زیارت گاه مردم مروی است از شیخ ابی احمد عبد الله
 بن علی موسی خولی ملقب بخیفی رحمه الله علیه بروایت شیخ ابی یعقوب یوسف بن ابوبن حسین
 بن شعیب همدانی بر و جزوی که در شهر سنه چهار صد و شصت و چهار هجریه میگفت عنقریب پیدا
 خواهد شد در ملک عجم پسر بکه او را ظموم عظیم خواهد بود در کرامات و قبول تام نزد کافه عالم و بگوید
 قدمی بده علی رقبته کل ولی الله و در آیند اولیا و وقت او زیر قدم او و او کسی است که مشرف
 شود بدوزمان او و نفع یابد و هر که بنید او را اتمی گذانی آنها را المفاخر صدوسی و هفتم گفته
 است بدرالدوله و امام العلماء قاضی الاسلام قاضی الملک محمد صبغته الله سقی الله شراره و جعل
 الجنة مثواه در کتاب خود نیز الجواهر فی مناقب سید عبد القادر رضی الله عنه که گفته است
 شیخ سید عبد الرزاق ولد مؤلف که گفت پدر من سید عبد القادر رضی الله عنه که مدد کننده امام
 است و سردار طائفه ابو محمدی الدین سید عبد القادر حسنی و حسینی و جیلانی صدیقی این سید ابی
 صالح موسی جنگی د هست ابن امام عبد الله ابن امام یحیی زاهد ابن امام محمد ابن امام داود ابن امام
 موسی ابن امام عبد الله ابن امام موسی الجون ابن امام عبد الله المحض ابن امام حسن المشقی ابن
 امیر المؤمنین امام حسن سبط ابن امام الهمام اسد الله الغالب فخر بنی طالب سید ناعلی بن ابیطالب
 کرم الله وجهه و رضی عنه و عنهم اجمعین صدوسی و هشتم گفته است در جبل متین صدوسی
 و نهم گفته است عالم متبحر سید جلال الدین بخاری در کتاب خود تحفة الاسرار انتهی صد و چهارم
 گفته است عالم فاضل کامل عبد الله ملینی در کتاب خود نور آرق الاخبار صد و پنجم و یکم گفته
 است عالم علامه جبر فها مه سید شرف الدین عبیدی رحمه الله علیه ابن خوث الاعظم رضی الله عنه در

کتاب جواهر الاسرار صد و چهل و دویم گفته است عالم علامه عمده الکاملین شیخ المشایخ و قدوة
 السالکین بدیع الدین شاه مدار قدس سره العزیز در ملفوظات خود چنانچه انهار المفاخر آورده
 است قطب الابرار شیخ بدیع الدین شاه مدار بن شیخ علی حبلی جباری قدس سره ملک العلماء منی
 شهاب الدین جوپوری رحمة الله علیه در ملفوظ شیخ بدیع الدین آورده است که روزی می
 رحمة الله علیه فرمود که امی فاضلی بچکیس بعد از صحابه کرام در رتبه امامت ایبه عالی مقام مثل غوث
 اعظم سید ابی محمد عبدالقادر حسنی جیلانی رضی الله عنه نیست و نباشد و بچکدام از اقطاب غیاث
 یرتبه او نرسید تا حال و رسیدن نتواند تا قیامت و او را در ولایت شانی اعظم است منتهای
 مراتب اهل مناصب از قطبیت عالم و فردیت و محبوبیت است و او از مراتب ترقی کرده
 بمنزل قربت و صدیقیت تمکن یافته است و هنوز ترقی در ترقی است و او را مقام ورا الورا
 است در آن می آساید پرسیدم ای شاه تفصیل مرتبه ورا الورا چیست فرمود ورا الورا باطن
 احدیت است که مرتبه مطلقه صرف است که از و بالا تر مرتبه نیست که او را اهل حقیقت ولایت
 مطلقه میگویند که عین ولایت مطلقه محمدیه است صلی الله علیه و سلم و در تمامی امت محمد
 صلی الله علیه و سلم سه کس را ورا الورا ظاهر شد یکی بهلول دانا و دویم جنید سید الطایفه جنید
 بغدادی همیشه تمنا میکرد که کاش جنیم جنید بدل بجای جنید می شد سیوم حضرت سلطان الاولیا
 سید عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه و بعضی از اکابر سیومی حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه و
 چهارمی حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه گفته اند و بعد از سلطان الاولیا
 غوث اعظم رضی الله عنه تا این زمان هیچکس را ورا الورا انکار نشده و ورا الورا همیشه مقام
 در تجلی ذات است که تنزل نمیکند مگر برای ادای فرائض و حضرت غوثیه محبوبیه را با وجود آن
 منزلت اتباع تام و قدم بر قدم سید انام صلی الله علیه و سلم اقم و اکل بود و مشغله عبادت
 و درس فرمودن علوم دینی و تربیت طالبان و ارشاد مریدان و تصرفات ظاهری و باطنی در
 هر زمان و مکان موقوف نمیشد و تصرف روحانیه حضرت غوثیه محبوبیه تا این وقت جاری است

و وضع رقاب اولیا با مرزیه ز قدم حضرت غوثیه مجوسیه ازان است و در جامی دیگر از ملفوظ مذکور آورده است که تا جانیکه لعنت محمدی صلی الله علیه وسلم رسیده بمتابعت آن تصرف ولایت غوثیه مجوسیه فرنگرفته است و محکیم از مشایخ اولیا چهارده خانوده در عرب عجم از خرقه خلافت و نعمت و برکت حضرت غوثیه مجوسیه رضی الله عنه محروم نمانده است این در ویش نیز از زبان فرزند آینه بنام است و الله اگر ختم نبوت بر سرورد و جهان صلی الله علیه وسلم نمیشد همی بر آینه بنام بزرگ شایان آن بومی انتهای تاریخ رحلت و ولادت حضرت بیچ الدین شاه مدار قدس از مجبور اولیا صلوات

آنکه قطب مدار عالم بود	پادشاه ممالک دین بود	شاهساز رواق علیین	نام در جهان بیچ الدین
بهنی است شامی و صلبی	پیشوا ای ره خدا طلی	آن شهنشاه که مطلع نور است	از مریدان شاه طیفوس است
لیک و لیبی است آن سئوده میر	یافت عرفان روح پیغمبر	شاه اشرف که مشرق پیوست	تقدس در جهان جهانگیر است
مرقدش همچو مهر و ممتابد	دیو بگرفته زوشفا باید	او قطب مدارم سفر است	وقف راز آن نکوست
بخارش در لطائف اشرف	او نوشت است با کمال شعر	باز محمود قاضی کشور	در کتب کرده حال و مسطور
مجادانش گفتگو است برون	طالبانش حد عدل فزون	ذکر کشف کرامتش همه جا	بچو خوشید آسمان پیوست
عمران شاه مطلع الانوار	یکصد سبب و چهار سال شمار	شده سال طلوع آن سقین	شمس دنیا و دین بیچ الدین
سقط الارل در کت کشور شام	این سخن نیست از کلام عوام	بشبه جمعه شاه نقل نمود	هزار و هم از جماد اولی بود
سال ترحیل و عیان نهفت	عقل قطب مدار جز گفت	در مکن پور است مرقد او	هزار صد هزار نفر از او

۱۶۰
۸۳۰

صد و چهل و سیدوم گفته است عمده الواصلین شیخ جلال الدین سهروردی قدس سره در کتاب خود سیر العارفین صد و چهل و چهارم گفته است شیخ عبدالرشید بن محمد جنیدی در کتاب خود مرز العاشقین صد و چهل و پنجم گفته است حضرت شیخ مخدوم بهانیان جهانگرد نام ایشان سید جلال الدین بخاری است موافق نام جد ایشان است در کتاب خود سیر المسافین و جناب شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله علیه در اخبار الانبیا آورده است مخدوم بهانیان قدس سره با حضرت علیه قادریه کمال محبت است و در خزانه جلالی میگوید که شیخ محی الدین سید

عبد القادر جیلانی میفرماید طوبی لمن رانی و لمن رای من رانی و لمن رای من رای من رانی و
 وی قطب است و صادق است درین قول مرا میدواری بسیار است که بموجب این کلام حق القادر
 مرا رحمت کند بعد از آن سلسله را که بیک واسطه شیخ شهاب الدین بهرودی میرسد غیر از سلسله شیخ
 بهاء الدین زکریا ذکر میکند و میگوید که من فلان را دیده ام و وی شیخ شهاب الدین بهرودی است
 و شیخ شهاب الدین شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی را نقل است که وی روزی
 نشسته بود آتش از جای برخاست مشتکی خاک برگرفت و نام شیخ محی الدین سید عبد القادر
 را با او بلند برخواند و خاک را بجانب آتش انداخت فی الحال آتش پست شد و تکلمه فارسی
 که در دیار بامشهور است یکی از مریدان مخدوم تکلمه کتاب روض الرایحین امام عبد الله
 یافعی را ترجمه کرده است و ولادت مخدوم جهانیان شب برات سنه سبع و سبعمائة و مدت عمر هفتاد
 و هشت چنین شنیده است که امیر سید علی بهدانی قدس سره بدیدن مخدوم جهانیان رفت و بر
 در حجره مخدوم نشست خادم نیزه کرد که سید علی بهدانی نشسته است مخدوم فرمود که همه دان غیر
 علام الغیوب کسی نیست این را گفتند و ایشان را درون تطبیقند کوفتی ازین معنی بخاطر
 شریف میرسد برگشت و باین تقریب رساله در بیان معنی بهدانی نوشت اما در رساله بهدانی
 دیده شده است که جماعه که منکر این نام اند غایت رود و تشنیع کرده است که نه لائق عظمت و
 جلال مخدوم جهانیان است و الله اعلم انتهى و در سفینه الاولیا آورده است اول بار که از بخارا
 ازین قبیله بهند و ستان آمد جد ایشان است که سید جلال بخاری شرح میگفتن چون از بخارا
 آمدند مرید حضرت شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی شدند از بزرگان صحیح است جلیل القدر و جامع
 علوم ظاهر و باطن بوده اند و ایشانرا سه فرزند بوده است یکی سید احمد کبیر دوم سید بهاء الدین
 سوم سید محمد و سید احمد کبیر را دو فرزند رشید قابل و سعادتمند بوده یکی قطب غوث وقت شیخ
 المشایخ و مشرف اهل زمانه و در روزگار یگانه مفرد اندر بیان و اعیان مخدوم جهانیان دوم
 سید راجوی قتال ایشان هم از اولیای بوده اند انتهى و نیز در مخبر الواصلین در تاریخ تولد و حلت

وقایع آورده
 است
 و در
 آن
 سلسله
 و
 قاضیان
 و
 سبب
 آن
 بود

سید بنظر دویی مانند جدا و سید جلال آمد است بیشبیه با کمال علوم صاحب کشف آن سید نصف کمال ز راه شعبان بود لیکال یقین معتبر دیدم بفصد و هفت سال عمری بود سال شفا آن عزیز جهان سال تحویل آن خدا آگاه	مصطفی است بیگمان ذات او مصدر کمال آمد بجهان جهانیان مخدوم وارث معرفت با عن جد که طلوعش چو آفتاب نمود متفق با همه سیر دیدم کان مدیح زین طلوع نمود گفت با تفهما قلده جهان گفت بخوان کل بهشت اله	دش از عرض به او امر است به بخارا حشم بدولت است نصف فلکان مصطفوی است عمر آن سید باند نژاد عمر مثلین صیقلیک سرشت نام نامی او حسین بخوان عبد قربان چارشنبه بود سال نقلش از بنهار رضوان هست در اربعه قرآن شاه	تقدش در جهان بن کرد است به بخارا شرف نسبت است مشهد می بخاری رضوان است بی کم و بیش خوانده ام مشتاد یکصد هفت سال کم بنوشت خلف احمد کبیر بدان که ز آفاق نهفتش فرمود گفت مخدوم باه دین خوان عطر اللد قبه و شراه
صد و چهل و هشتم گفته است زبده الکاملین قدوة العارفين خواجه معین الدین سنجری چشتی اجیرمین خواجه غیاث الدین حسن است سادات حسینی بوده اند رضی الله عندهم در تفسیر الاولیا آورده است و چشتی از ان جهت گویند که چشت شهر است در دامن کوه با فاصله دو منزل از بهرات واقع است حالا مشهور بشافلان است و تاریخ رحلت خواجه قدس امیر است			
فیض بخش جهان بعلوم و تقنین سنجری چشتی است ان فیاض جمعه و ششم رجب بوده سال نقلش عزت و تکمیل سال نقلش بخوان بصفنا	خواجه سقما معین الدین هادی مهدی است ان تاض که جهان خواجه نقل فرموده کوسرچ جهان معین الدین بیگمان زبیه جنت والا	رواق فاندان چشت اروا آفتاب مالک هند است نود و هفت سال عمرش بود سال تاریخ نقل او بر خوان گفت سال صفتش از دم قدس	زینت روضه بهشت است نور شمع مالک هند است کان زمان نقل از جهان فرمود با تم گفت شمس عدل جنا با تم پیشوای عالم قدس
روضة پاک او است در اجیر			
صد و چهل و نهم گفته است شیخ بهاء الدین امی در کتاب خود انیس القادریه صد و چهل و هشتم گفته است قدوة العارفين شیخ بهاء الدین سهروردی قدس سره در کتاب خود			

۸۰۰

۱
۳۳
۴۳۳
۲
۴۳۳
۲
۴۳۳

تالیف مسکین محمد مدیحی الدین الحنفی القادری الغفوری عقی عنده

خلاصه القادریه آورده است نسبت شریف رضی الله عنه را و در فیه الاولیا آورده است حضرت
 شیخ شهاب الدین قدس سره کینت ایشان ابو حفص است و لقب شیخ الشیخ و نام عمر بن محمد البکری
 سهروردی انداز اولاد امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی الله عنه شیخ الشیخ و قطب غوث
 زمان عالم و عامل و فاضل و کامل و پیشوای وقت بوده اند و ندیب امام شافعی داشتند طریقه
 ایشان تمام منابع شرع و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده و در بغداد مشهورترین متاخران
 بوده اند مرید عم خود اند شیخ ابوالنجیب سهروردی و ذکر شیخ ابوالنجیب در سلسله کبر و بیه مذکور
 شده و حضرت قطب ربانی غوث صمدانی شیخ محی الدین سید عبدالقادر گیلانی رضی الله عنه
 را دریافته اند و برکت ملازمت آنحضرت فوائد عظیم و بهره تمام حاصل نموده اند و خواص علوم
 بغداد را روی ارادت بخدمت ایشان بوده نقل است که شیخ شهاب الدین فرموده اند در جوانی
 بعلم کلام مشغول بودم و کتاب چند دران یاد گرفتم و عم من مرا ازان منع میکرد در وزی عم من
 بزیارت حضرت شیخ سید عبدالقادر رضی الله عنه آمد و من با وی بودم مرا گفت حاضر باش که بر مردی
 میروم که دل وی از خدا تعالی خرمید بد و منتظر باش برکات دیدار و بر این چون بیستم شیخ
 ابوالنجیب گفت یا سید این برادر زاده من بعلم کلام مشغول است هر چند منع میکنم ازان باز نمی آید
 غوث الثقلین فرمودند ای عمر کدام کتاب حفظ کرده گفتیم فلان کتاب و فلان کتاب دست
 مبارک خود را بسینه من فرود آورد و الله که یک لفظ ازان کتب بر حفظ من نمانده بود و خدای
 تعالی همه مسائل آنها بر خاطر من فراموش گردانید و از علم لدنی مملو ساخت و مرا فرمودند که آنچه
 یافته ام از برکت حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی است نقلت از شیخ نجم الدین مرید شیخ شهاب الدین
 که وقتی نزد یک شیخ خود در خلوت نشستم روزی هلم در واقع دیدم که حضرت شیخ شهاب الدین بر
 کوهی بلند نشسته اند و جواهر بسیار پیش ایشان و غلظت پیشمار در دامن آن کوه جمع آمده اند شیخ
 آن جواهر را بر خلق می اندازند و آنها می چینند و همین که روی می کرد باز زیاده میشد و گویا که پیش
 شیخ چشمه ایست از جواهر چون از خلوت برآمده پیش شیخ رفتیم پیش از آنکه ازین واقع خبر کنیم فرمودند

و یقین

انچه تو در واقع دیدی حق است این و ائمه این از برکت انفاش شیخ سید جید القادر است
 رضی الله عنه ولادت شیخ الشیوخ در رجب سال پانصد و سی و نه هجری بوده وفات در غلامحمد سال
 شش صد و سی و دو روی داده و قبر ایشان در ون شهر بغداد است و حضرت شیخ الشیوخ را
 مریدان بسیار بوده اند همه فاضل و کامل و مشهور چون شیخ بهاء الدین زکریا می لماتی شیخ نجیب الدین
 علی برغش و شیخ حمید الدین ناگوری و حضرت شیخ الشیوخ را نیز تصانیف بسیار است تاریخ رحلت و ولادت

عمده اولیای اعظم بود	مظهر خاص خالق کونین	هاومی پیر و مرشد تقسین
قدوة الکا ملین بالدین	درة التاج اولیای جمیع	راحت القلب صفیای زمان
اکمل اولیای شهاب الدین	ماه عاشورا و دوازدهم	بود کان قطب سیرج نیم
زینب اده بکنت الاء علی	بازار روی اختتام عوام	با تو بیگویم ای شریف نام
که بگذشت دهر نقل نمود	سال نقلش بگفت از شما	ساکن لوح جنت والا

۵۴۲
۶۳۱
۶۳۲

مدفن شیخ هست در بغداد رحمت ایزدی نثارش باد

صد و چهل و نهم گفته است شیخ سید محمد گیسو دراز در کتاب خود صحی الف الغرائب نسب
 شریف غوث الاعظم رضی الله عنه صد و پنجاه ام گفته است عالم فاضل سید محمود قادری در
 کتاب خود او را در القادریه صد و پنجاه و یکم گفته است عمده الواصلین عارف با شیخ فریدالدین
 شکر گنج قدس سره در کتاب خود اسرار السالکین نسب شریف رضی الله عنه را تاریخ وفات ایشان

از جنس الواصلین	افتخار زمان فخر زمین	شیخ دنیا و دین پیدالدین
زینت و جود و فو ق حال است	نسبتش با شرف فاروق است	حسبش از فروع عیوق است
رحمت حق همیشه بر وی باد	بیگمان تبحر محرم بود	که فرید از زمانه نقل نمود
کاندین نیست خورشید و گمان	سال شفقار او خلیل آمد	بر کمالات او دلیل آمد
ز جهان شد فریده آه بگو	سال نقلش باعتبار سند	کو شکر گنج بود موحو احد

۶۴۰
۶۴۱

عمده دین حق فرید الدین سال ترجمه آن فرسید زمان با بیشک شنبه اهل خلد سخنان

رضه پاک اودان بربتن فریدالدین که او بیغ شکر بود	رحمت حق بر سرت پیشین چو در ذات احد اند مخو مطلق	سال نقلش نقطه هم گفتم مبظهر گفتم با سال نقلش
--	--	---

شهنوازیمن چه گوهری ستم
فریدالدین دلی وصل حق

صد و پنجاه و دویم گفته است مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی قدس سره السامی در کتاب خود شواهد النبوة صد و پنجاه و سیدوم گفته است شیخ محمد ابراهیم پوری در ملفه ظات خود حقیقه الحقائق صد و پنجاه و چهارم گفته است شیخ موسی نعوتی در کتاب خود عامله القصه صد و پنجاه و پنجم گفته است عالم زمانه کمال الدین بغدادی در لطائف اللطیفه صد و پنجاه و ششم گفته است شیخ داود قیسری در شرح فصوص صد و پنجاه و هفتم گفته است عالم لاثانی مقنتی غلام سرور لاهوری در خزینة الاصفیاء محبوب الثقلین سید الکنوز ابو محمد محی الدین شیخ سید عبدالقادر بن سید ابوصالح موسی بن سید عبداللہ بن سید محی زاهد بن سید محمد بن سید داود بن سید موسی ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسی الجون ثالث بن سید عبداللہ المحض بن سید محمد مشهور بسید حسن المنشی بن الامام ذوی الاحترام امام حسن بن امیرالمومنین علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم جمعین صد و پنجاه و هشتم گفته است عالم فضل مولانا شاه محمد عالم الیقین در کتاب خود سلطان الاذکار و مناقب غوث الابرار بدانکه به تحقیق غوث الاعظم محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسی زین الدین محمد بن سید عبداللہ حبلی ابن سید محی زاهد ابن سید محمد ابن سید داود ابن سید موسی ابن سید عبداللہ ابن سید موسی الجون ابن سید عبداللہ المحض ابن سید حسن المنشی ابن امام سیدنا حسن ابن امام سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم جمعین صد و پنجاه و نهم گفته است در تنویر السیر بدان که حضرت غوث الاعظم و قطب لاکرم سلطان الاولیاء و برهان الاصفیاء قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الثقلین کہت الخ فقیہین محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر حسنی و حسینی و جیلانی رضی اللہ عنہ و ارضاء سید حسنی است از جانب پدر و حسینی است از جانب مادر و تولد شده اند در گیلان و این است نسب شریف ایشان از جانب پدر سید محی الدین ابو عبدالقادر

جیلانی ابن سید ابوالصالح موسیٰ جنگلی دوست ابن سید عبداللہ ابن سید کجی زاہد ابن سید محمد
 وگفتہ اند محمود ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید عبداللہ ابن سید موسیٰ الجون
 ابن سید عبداللہ المحض ابن سید حسن المثنی ابن امیر المؤمنین امام حسن ابن امیر المؤمنین سیدنا
 علی کرم و جہہ و رضی اللہ عنہم اجمعین صد و شصت و شصتہم گفته است عالم قاضی محمد لویوسف شافعی
 مذہب در زین الجلاس غوث الواصلین محبوب رب العالمین قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر
 جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی سید است حسنی از جانب پدر و حسینی است از جانب مادر در رضی اللہ
 عنہ و مثل است بر یازده مجلس در مناقب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ صد و شصت و یکم
 گفته است در ترجمہ تاریخ ابن ایدل رحمہ اللہ صد و شصت و دویم ذکر کرده است در نسب
 شریف تونسلی در نظم صد و شصت و سیوم گفته است امام عینی در ترجمہ غوث جیلانی رضی اللہ
 عنہ صد و شصت و چہارم گفته است ابن جوزی در ترجمہ کبیر صد و شصت و پنجم گفته است
 ابن رجب در ترجمہ سید عبدالرزاق صد و شصت و ششم گفته است امام مقدسی در ترجمہ
 خود صد و شصت و ہفتم گفته است ابن کثیر مورخ در ترجمہ سید جیلانی صد و شصت و ہم
 گفته است در اقتباس الاوار صد و شصت و نہم گفته است در اخبار الاولیاء صد و ہفتادم
 گفته است شیخ ہاشم بجا پوری در رسالہ اولیاء صد و ہفتاد و یکم گفته است امام ربانی حضرت
 شیخ احمد فاروقی سہرندی المشہور سہرندی رحمۃ اللہ علیہ در آخر مکتوبات شریف در جلد سوم موقفہ
 الحقایق صد و ہشتاد و سیوم نوشتہ کردہ است ہر چند اقطاب و بجای وقت بودہ باشند بغیر
 توسط محبوب سبحانی و وصول الی اللہ نمیشوند و غیر اجمال نیست بغیر توسل^{الذات} عبارات مکتوبات ابن
 مکتوب صد و ہشتاد و سیوم بنور محمد تماری در بیان آنکہ راہهای کہ موصل اند و اندہم اللہ الرحمہ
 الرحیم الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفی را ہما کہ بجناب قدس موصل اند و اندہم راہی است
 بقرب نبوت تعلق دارد علی اربابہا الصلوٰۃ والسلام و موصل اصل الاصل است و اصلان ابن
 را بالاصالت انبیاء اند علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات و صحابہ ایشان و سایر امتان تا کہ راہ باین دو

بنوازند اگر چه قلیل بود بلکه اقل و درین راه توسط و جیلولت نیست هر که ازین واصلان فیض
میگیرد ولی توسط احدی از اصل اخذ نمینماید و پنج یکی دیگری را حاصل نمیست و راهی است که
بقرب و لایت تعلق دارد از قطب او تاد و بدلا و بجای و عامه اولیا، الله بهمین راه واصل اند
راهی سلوک عبارت ازین راه است بلکه جذب متعارفه نیز داخل بهمین است توسط و جیلولت
درین راه کائن است و پیشوای این راه و سرگروه آنها و منبع فیض بزرگواران حضرت علی
الرضی است کرم الله تعالی و وجه الکریم و این منصب عظیم الشان بالیشان تعلق دارد و درین
مقام گویا بر دو قدم مبارک آن سرور علیه و علی آله الصلوٰة و السلام برفرق مبارک او است
کرم الله تعالی و وجه حضرت فاطمه و حضرت حنین رضی الله تعالی عنهم درین مقام بالیشان
شریک اند انکارم که حضرت امیر قبل از نشاء عنصری نیز ملاذ این مقام بودند اند چنانچه بعد از
نشاء عنصری و هر که فیض هدایت میرسد توسط ایشان میرسد چه ایشان نزد نقطه منتهای
این راه و مرکز این مقام بالیشان تعلق دارد و چون دوره حضرت امیر تمام شد این منصب
عظیم القدر بحضرات حنین رضی الله عنهما ترتیباً مفوض و مسلم گشت و بعد از ایشان بهر یکی از ائمه
اثنا عشر علی الترتیب و التفصیل قرار گرفت و در اعصار این بزرگواران و همچنین بعد از احتمال
ایشان هر که فیض هدایت میرسد توسط این بزرگواران بوده و بجیلوله ایشان هر چند از قطب
و بجبای وقت بوده باشند و ملاذ و ملجا همه ایشان بوده اند چه اطراف را غیر از حقوق بر مرکز
چاره نیست نوبت بحضرت سلطان الاولیا، برهان الاصفیا غوث الارض و السماء غوث الكل
محمی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه و افاض علینا الفیوض رسید و چون
نوبت این بزرگواران شد منصب مذکور با حضرت مفوض گشت و ما بین و جز این آئمه مذکورین
و حضرت شیخ سبکیس برین مرکز مشهور و میگردد و وصول فیوض و برکات درین راه بهر که
باشد از قطب و بجبای توسط شریف و مفهوم میشود چه این مرکز غیر او را میسر نشده ازینجا است
که فرموده شعرا فالت شمس الا ولین و شمسنا به ابد علی افق العلی لا تغرب به مراد از شمس

آنکتاب فیضان و هدایت و ارشاد است و از اقوال آن عدم فیضان مذکور و چون بوجود حضرت شیخ معامله که با اولین تعلق داشت با و قرار گرفت و او واسطه رشد و هدایت گردید چنانچه پیش از وی اولین بوده اند و نیز تا معامله توسط فیضان برپاست بتوسل او است نایب ار است آمد افت ثمنوس الاولین و شمسنا انتهى کذا فی المکتوبات الشریفین من جلد الثالث المسمی به معرفه

الحقایق تاسیخ رحلت حضرت شیخ احمد کابلی سرسندی فاروقی

آنکه او جوهر نبردندست	احمد کابلی سرسندیست	نقشبندیست آن ستود سیر	رونقی افزای شیخ پیغمبر
بیشک آن شیخ عاقبت محمود	از مردمان خواجه باقی بود	ذات الاهی آن خدا آگاه	قطب قطاب بود بی شبهه
او مجدد بالف ثانی بود	واقف سر جاودانی بود	الف ثانی با و مجد شدند	زانکه احمد بجای احمد شدند
نعل بالنعل بود با احمد	احمد کابلی با طفت احمد	بره شرع و ملت بریضا	از کمال علوم نور افزا
از مردمان اوست بن مشهور	میر نعمان و آدم و بنور	خواجه صدیق شیخ عبدلحمی	داشتت قبایل سرمدی از وی
شیخ چون چار بار چار سیر	داشتت کامل بشر پیغمبر	خلفش بوسعید معصوم است	سیرین همچو برود محمد است
وان چهارم ز دار دنیا شد	جانب عدل خلد و الاشد	بوسعید آنکه عارف حق است	کاشف سر واقف حق است
حالم و اوسع و ستوده شعار	مرشد اهل شهر ابل دیار	شیخ معصوم خود ذات خدا	مرشد رهنمای شاه و که است
و آن یوم شاه کشور بست	در جهان حق تا حق بین است	هر یکی عارف است بی شبهه	طول شد عمره و لبه
بود آن شیخ احمد ثانی	طاق آفاق در خدا دانی	اوسلخ صفر سفر فرمود	زیر بجهان سوی حضرت میبود
سال ترحیل آن خدا آگاه	شد رقم شیخ بود اهل الله	عقل تبارخ آن ولی احمد	گفت نور بهشت از احمد
ساقطش بگو چون احد	نور اوج بهشت از احمد	هاتفم سال نقل فرموده	شیخ احمد زا ولیا بوده
شد تبارخ آن ولی خدا	احمد کابلی بهشت آرا	بیشک است آن لی ربانی	گل باغ خلیفه ثانی

۱۰۲۴

مرقد او بشهر سرسند است زان زحق فیض بهر سرسند است

صد و هفتاد و دویم آورد: است در کتاب نفریح الحاضر ناقل از شیخ موسی آهتوی بهر مردی در کتاب مکاشفات جنیدیه نوشته است که تجلی کرد خدا تعالی بر سید طائفه جنید بغدادی رحمة الله

علیه در خلوت ایشان روز جمعه بالای بمنبر بودند و در اثنا خطبه خواندن مستغرق بجا رکعتا شنفه
 بشهود بودند و فرمودند که قدم ایشان بر رقبه من باشد از غیر انکار و سر خود را پست کردند و
 فرود آمدند از پایه منبر و بعد از آن با فاقه شدند ایشان و تمام کردن خطبه و نماز را سوال
 کردند حاضرین از ایشان از کیفیت خطبه چیزی که دیده بودند از ایشان پس فرمودند ایشان
 که کشف شد بر من از عالم غیب بدرستی که ظاهر میشود در قرن خامس مردی از اولاد سر از پیغمبر
 صلی الله علیه و سلم و میباشند قطب در عالم و لقب کرده شده است بحی الدین و نامیده شده
 است بر سید عبد القادر و ایشان غوث اعظم اند و پیدا میشوند در گیلان و ما مور میباشند برین
 که بگوید قدمی بنده علی رقبه کل ولی الله و اولیاء خداست یعنی از اولین و آخرین سوامی صحابه کرام
 و امام ها از اولاد خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم و در خاطر من خطره پیدا شد اگر باشم من
 در عصر ایشان بجه طریق نم گردن خود را در فرمودن ایشان پس ازین آمد خطاب از باربعالی
 بقتاب کدام چیز است که سخت است بر تو ازین امور پس بدرستی که وی محبوب من است و از
 ذریت حبیب من است و نشان ایشان در میان اقطاب مجتبین است مثل نشان رسول من محمد
 صلی الله علیه و سلم در میان انبیاء و حاضر شدند جمیع اولیاء باروح بامی خود و کعبه های خود در
 وقتی که گفت قدمی بنده علی رقبه کل ولی الله و گردن می نهند و انقیاد میکنند پس بهمین سبب گفتند
 قدم ایشان بر گردن من و مرتبه ایشان فوق مراتب اولیاء است رحمهم الله علیهم جمعین صد و هفتاد
 و سی و دو گفته است فاضل ادیب شیخ مصطفی بابی جللی در دیوان خود قصیده در مدح حضرت
 سیدنا و مولانا شیخ الاسلام و المسلمین غوث الثقلین سید محی الدین عبد القادر جیلانی حسینی
 و حسینی رضی الله عنہ صد و هفتاد و چهارم گفته است در ملفوظ غیبانی صد و هفتاد و پنجم
 گفته است در بدایة الاحوال صد و هفتاد و ششم گفته است در منازل الاولیاء صد و
 هفتاد و هفتم گفته است در التباس صد و هفتاد و هشتم گفته است در مرآت الضمیر صد و هفتاد و نهم
 گفته است در انوار محمدی صد و هشتاد و نهم در مجموعه فضائل صد و هشتاد و یکم گفته است

عالم علامه مولوی غلام دستگیر نقشبندی لاهیوری در تحفه در سبکبندی انتہی حد و دویم در تنزیہ السیرہ آوردہ است تا بح تولد وقت
 و مدت عمر و نقش نگین خاتم ایشان و عقد ایشان و اولاد ایشان از جناب امیر المومنین سیدنا
 امام حسن رضی اللہ عنہ گرفته الی جناب غوث الثقلین قطب الفقیہین حضرت شیخ ابو محمد سید
 بعد القادر حبیبانی رضی اللہ عنہ ذکر امام ثانی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 بن امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کینتیش ابو محمد و بقشش لقی و طیب سید و ولادتش
 روز سہ شنبہ نصف ماہ رمضان المبارک سنہ انہین او ثمانت من الهجرة در مدینہ منورہ بعد از
 شہادت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ مردم عراق بشرط جنگ بغات بشام بیت کردند چون
 امام حسن رضی اللہ عنہ عزم شام کردہ بدان رسید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نیز از مردم بیت
 گرفته رواج آوردہ امام بی وفای مردم کوفہ را معلوم کردہ ب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صلح
 کردہ خلافت لومی گذاشتہ مدینہ منورہ توطن فرمود در مدینہ منورہ بیرہ زنی اختراع
 کردہ امام را زہر داد روز پنجشنبہ سنہ خمسین انتقال فرمود عمرش چہل و ہفت سال بود اولاد
 ذکر یک زید و دویم حسن منثنی سیوم عمر چہارم قاسم پنجم عبد اللہ ششم عبد الرحمن ہفتم حسین
 ہشتم انہم نهم طلحہ دہم اسحاق و اناث کشتش تن بودند جبریل علیہ السلام اسم شریف حضرت
 حسن بن علی رضی اللہ عنہما بہد یہ پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوردہ بر قطعہ از حریر ہشت
 نوشتہ و وی شبیہ ترین مردمان بودند بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ تا بفرق سر
 روزی امیر المومنین سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ امیر حسن رضی اللہ عنہ را بردوش
 گرفته بود و سوگند میخورد کہ این شبیہ ترین نبی علیہ السلام است نہ شبیہ علی رضی اللہ عنہ و
 علی رضی اللہ عنہ ایستادہ بود تبسم می نمود و از وی می آرنند بیست و پنج حج گذاردہ بود اتقی
 از عقب امام حسن رضی اللہ عنہ تاریخ ولادت و خلافت و رحلت حضرت امام المسلمین
 حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما از مخیر الواصلین کہ بتظلم کردہ است

کنیت او ابو محمد دان

حسن آن بادشاہ کون و مکان

<p>۲ ۳ ۵۰</p>	<p>میشک و شبیه سید الطرفین بیخ ماه و سه روز ایشان ماه که جهان است عاقبت بقنا یافت حروف نخست بسم الله سفرش در مه صفر فرمود آن و حروف است سال حدیث رحمت حق نثار او آمد</p>	<p>ذات والای آن شده کونین بعد صیدر خلافت آن شاه شده عزت نشین بیاد خدا عقل سال لاوت آن شاه بود تاریخ هفتم ای مسعود انتهای تمام بسم الله در لقیه مزار او آمد</p>	<p>تقی و سبط سید است حسن منبع بخشش و کرامت بود امروزی خلافتش بگذاشت بجهان فتنها و آفت شد سرجان است سال زادن او زنجیان سوی حضرت معجز حبیب آفاق ماند بی اسلام</p>	<p>آن امام مویز است حسن صاحب دولت و شهادت بود دل ز دنیا می بوی فابرداشت نختم بر ذات او خلافت شد لیک از روی اختلاف بگو صحیح بود نمینس نقل نمود با لقم گفت سال نقل امام</p>
<p>ذکر لثاب و نسب امام حسن مثنی رضی الله عنه که نام وی حسن است و لقب او محمد ولی محمد</p>				
<p>المثنی و کنیت او ابو عبد البنی و پدرش امیر المومنین امام حسن رضی الله عنه و نام مادرش که بانوبنت شیدرین بیزد در بن شهر یار و ولادت وی در شلوزان روز دوشنبه در تاریخ بیست و نهم ماه رمضان المبارک سنه چهل و هفت و نه ماه هجری در زمان حضرت معاویه رضی الله عنه بن سفیان تولد شد و چون یازده ساله شد خیر عم خود را که نام او فاطمه بنت امیر المومنین امام حسین رضی الله عنه را بنحو است در دمشق ابوالصحر میگوید که شیدرین بیزد در تاریخ یازدهم صفر سال پناه صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بود و قبلاً بادشاه در شلوزان بود که مثل ایشان در زمان کسی نبوده و قافله را جمع کرد مع اهل و بالاشکره بجانب کعبه معظمه به نیت حج کردن روان شد روز دوشنبه هفتم از ماه و بیج الاول سنه ست و العین من الهجرة و هم قافله را خیر داری از غذایان آب را هم خیر گرفته در مکه معظمه داخل شدند و حج کرده و بعد بجانب مدینه منوره آمد و زیارت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم کرد یعنی بجای آورد از پدر خود بیزد در بن شهر یار از هر مال که از ولایت شغری آورده بود برده و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم تصدق کرده مجاوران را و او بود وقت صلوة ظهر با امیر المومنین امام حسن رضی الله عنه ملاقات کرد بعد از امام حسن رضی الله عنه ملاقات با امیر المومنین امام حسین رضی الله عنه کرد و انواع تحفهها پیش امین نهاد</p>				

وگفت ای امیر من بجز خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ وسیله ندارم و ما را بسیار محبت غالب شده است که در اینجا زیر قدمین با شتم لکن از ترس پدر خود نمی با شتم مباد که بگوید چرا ماندی و باد شامی از من بگیرد چون یکماه و پنجاه روز در مدینه منوره ساکن شد و دختر سی بودش که نام وی که بانو بود بسیار حسن و صورت پاکیزه و لطیف مانند شمس در تاریکی روشن تر بودی در خانه وی یکروز امیر المومنین امام حسن رضی الله عنه آمده برای تعظیم مهمانزاد آب طلبیدند کسی از خدمتکاران حاضر نبود و شبدر گفت آب از برای امام بیارید بی بی که بانو آب خوره از آب پر کرده بجمع آداب آورد و امام صورت دختر دید و آب ننوشید و هر دو دست زیر آب خورده بسته شد اتفاقاً و قاب امام محبت بی بی که بانو پدید آمد نشید معلوم کرد روز ششم همین دختر خود را نشید با امیر المومنین امام حسن رضی الله عنه بزنی داد بعد از سیوم روز کلاخ بجانب شغوب روان شد یوم الخمیس شانزدهم از ماه صفر سنه سبعه و اربعین من الهجرة از امام حسن رضی الله عنه بی بی که بانو را چهار فرزند تولد شد سه فرزند در صغیری نقل کردند احمد و طاهر و مطهر و امام حسن المثنی را چون بیست و هفت سال عمر رسید در خانه وی عبد الله المحض پیدا شد و وفات حسن مثنی در نسیان روز پنجم بیجم از ماه شوال سنه سبعه و تسعین بود من الهجرة در زمان ابوالبراهیم بن ولید و قاتل ایشان هارون بن رشید بود و قبر شریف امام در نسیان ست بعد از وفات حسن المثنی فاطمه بنت امام حسین رضی الله عنه بر قبرش یکسال خیمه زده در آنجا نشسته بود بعد در خانه وی بود عمر وی پنجاه سال بود و در نقش نگین او الله بصیر با لعباد احمد بن عبد الله خادم او بود سپرد و دختر یک عبد الله المحض و محسن و یک دختر نجر النساء و از آنها خلافت عبد الله المحض را رسید و محسن و نجر النساء و صغیر در نسیان وفات یافته اند اهتبی و جناب مولانا لوز الحق ترک نجاری ابن عمده الحمدین شیخ عبد الحق دهلوی رحمهما الله تعالی در کتاب خود تیسره المقاری شرح صحیح نجاری در باب جنائز آورده است باب های کثیر من اتخاذ المساجد علی القبوس در میان چیزی که مکروه است از گرفتن مسجد بر قبر و کمات الحسن بن الحسن بن العلی و هرگاه فوت شد حسن بن حسن بن علی بن بن ابیطالب

کتاب
تفسیر

رضی اللہ عنہ ضربت امراتہ البتہ علی قرہ سنۃ زدن او کینت عم او حسین بن علی بود فاطمہ نام
داشت خیمہ بر قبر او یکسال تم رفعت فسمعت صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیست بر داشت خیمہ پس شنید او از کتفہ
را از جن مسلمان یا بالفک کہ میگوید بدیگری الابل وجدوا ما فقدوا دانا و آگاہ باش آیا یافتند
چیزیرا کہ کم کردند فاجاہ آنرا بل بسوا فانقلبوا پس جواب داد او را دیگری بلکہ نو میدشدند و کشتند
در تطبیق اینجیست بترجمہ گفته اند ہر گاہ خیمہ بر سر قبر زد البتہ در آن نمازی میکردہ باشد پس مسجد
گفت انتہی و عالم علامہ فاضل یگانہ جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول قدوۃ المتقین
زبدۃ المدققین مولانا مولوی محمد غوث الخاطب بشرت الملک مرحوم مغفور در کتاب خود انہار الفناخر
آورده است کہ در فصول ہمہ فی معرفۃ الائمہ آورده است کہ حسن منشی خواستگاری نمود پیش
عم خود امام حسین رضی اللہ عنہ برای یکی از دو دختر وی رضی اللہ عنہ فاطمہ دسکینہ رضی اللہ عنہا
امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرمود ای پسر ہر گاہ محبوب داری بخواہ پس شرمگین شدہ جواب نداد
پس امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرمود اختیار کردم بر اسے تو فاطمہ را کہ مشابہ نراست با در من
فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس فاطمہ صغری را با حسن منشی تزویج نمود و حسن منشی با عم
خود در کربلا حاضر بود بعد از شہادت وی رضی اللہ عنہ با دیگر اہل بیت نبوی علی جد ہم علیہم
الصلوۃ والسلام در بند بیدیان آمد پس آسمان خارجه آمدہ از انہا باز گرفت و گفت واللہ انجو اہد
رسید او را زبونی ہمیشہ انتہی در نصاب و نسب سید عبد اللہ المحض بالجمل و کینت
او ابو محمد و پدرش امام سید حسن منشی بن امام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ و نام مادرش فاطمہ بنت
امیر المؤمنین امام حسین رضی اللہ عنہ ولادت وی در نیسان بود روز جمیس یا نزدیم از ماہ شعبان
سنۃ ۳۰۰ در روایہ الارب و سبعین ہوا الصحیح من الحجۃ در زمان سلیمان بن ابراہیم نطنجی آمد
چون مسبت و نہ سال عمر رسید در خانہ وی سید موسی الجون پیدا شد و وفات وی روز شنبہ فی
سنۃ ۳۰۳ ثلاث و الاربعین و ماتہ در زمان ولید بن ابراہیم در موصل حادث شد و قاتل ایشان ابن مسلم
بن عقبہ مدت عمر وی شصت و نہ سال و پنج ماہ بود در نقش نگین او عالم الغیب الشہادۃ

دوم از ماہ محرم

وهو المرحوم الرحیم بود و جعفر بن احمد متوکل خادم او بود سیه پسر و سه دختر داشت و در بعضی
 روایات پنج نیز گفته اند یکی ابو القاسم محمد کنیت او ست موسی الجون و ابراهیم و عبد الله نیز گویند و یکی در
 سلیمان و ادیس یکی قاسم ابی محمد و دویم عبد الله سیوم موسی الجون یک دختر زبده النساء دویم سکینه
 سیوم زینب و ازین بان خلات موسی الجون را رسید و قاسم و زبده النساء و سکینه هر سه نقل کردند
 در موصل در نصاب سید موسی الجون که اسم ایشان موسی است و کنیت ابوشهاب الدین
 و لقب ایشان موسی الجون پدرش سید عبد الله المحض بن السید حسن المثنی و نام مادرش لبابه
 بنت شیخ فیض الله که کبار مشایخ موصل وی بود و ولادت وی روز دوشنبه فی التایخ نهم از ماه
 رجب ۳۲۴ است و اربعین و آتین من الهجرة در زمان مامون بن هارون در بدعی بظهور آمد و
 چون بیست و پنج سال عمر وی رسید در خانه وی سید عبد الله ازرق تولد شد و وفات وی در
 بلاد طوس روز جمعه پنجم از ماه صفر در زمان مقتد بالله ابن منقظم بالله سنه ۴۰۳ و عتق و
 و آتین من الهجرة و قبله شریفی هم در طوس است و قاتل ایشان هادی بن مامون بن ولید بن
 عبد الملک بن مروان و مدت عمر ایشان پنجاه و نه سال و چهار ماه بود در قتلش نیکین اولاد الله الا
 هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم محمد بن احمد متوکل خادم او بود پنج پسر و دو دختر
 داشت یکی صالح دویم شرف الدین سیوم یکی چهارم قاسم پنجم عبد الله و نام دختران یکی سلیمه دویم
 فاطمه و ازینما خلافت سید عبد الله ازرق را رسید صالح و قاسم و یکی سلیمه این هر چهار در صغیری
 نقل کردند در طوس در نصاب سید عبد الله و لقب ایشان تاج الدین محمد و پدرش
 سید موسی الجون بن سید عبد الله المحض و نام مادرش آمنه بنت مامون بن هارون و ولادت
 وی در طوس روز چهارشنبه در ماه رمضان المبارک در زمان مقتد بالله بن مقتد بالله
 سنه ۳۲۳ و آتین من الهجرة بظهور آمد و چون عمر وی به هفده رسید در خانه وی موسی زکریا
 تولد شد و وفات در شتافت روز شنبه در تارخ هفتم از ماه جمادی الآخر در زمان منعم بالله بن
 منقظم بالله سنه ۳۸۱ و آتین و در جنگ مروانیان از زخم نیزه در کوه آزد دست مسلم بن ابراهیم

که اولاد برادر مروان است و فوات یافت و قبرش نقش در نعمان است نزدیک جیلان مدت
 عمر وی هفتاد سال و نه ماه بود و در نقش نگین او حسبی الله نعم الوکیل نعم المولی و نعم الصدیق
 باشم بن احمد متوکل خادم او بود یک پسر و دو دختر داشت یکی موسی زکریا و نام دختران عجزه
 و رحمة خاتون ازینها خلافت موسی زکریا را رسید و عجزه در حمة در صغیرگی نقل کردند در تالیفات
 در نصاب و نسب سید موسی زکریا که نام وی موسی است و کنیت او ابی زکریا لقب
 او شرف الدین و پدرش سید عبد الله ازرق بن سید موسی الجون و مادرش حنفیة بنت شیخ
 ابو سعید ابن قائل ابن ابی عبد الله صوفی و ولادت وی روز یکشنبه در تاریخ بیست و یکم از ماه
 ذی الحجة الحرام در زمان سبعا نقلی خان ابن سلطان نقلی خان سنه تسعة و سبعین و مائتین من
 الهجرة النبویة در نعمان بظهور آمد و چون بیست سال عمر وی رسید در خانه وی ابا بکر داؤد طائی
 تولد شد و فوات یافت وی روز جمعه در تاریخ ششم از ماه ربیع الاول در زمان سلیمان تغلجیان
 بن سبعا نقلیان سنه اربعین و ثمانمئة در بلاد نعمان بود و فوات یافت بمرض سرسام و قوی
 در جیلان است و مدت عمر وی شصت سال و ده ماه بود و در نقش نگین او ان رحمت الله
 قریب من المحسنین بود عمر بن خالد خادم او بود سنه پسر داشت یکی عبد الوهاب و دوم عبد القادر
 سیوم ابا بکر داؤد طائی و ازینها خلافت داؤد را رسید و عبد القادر در صغیری در نعمان نقل کرد
 در نصاب سید ابا بکر داؤد طائی که نام وی داؤد است و لقب وی سراج الدین و کنیت
 وی ابا بکر و پدرش سید موسی زکریا بن سید عبد الله ازرق بن سید موسی الجون و نام مادرش
 فاطمة بنت شیخ عثمان تستری بن شیخ محمد که کبار از مشایخ عراق بود و ولادت وی روز و شنبه
 در تاریخ نهم از ماه جمادی الثانی در زمان شاه غرت ابن شاه مصطفی سنه سبع و تسعین و مائتین
 من الهجرة در بلاد کیمانی که نزدیک جیلان است بظهور آمد و چون بیست و هفت سال عمر وی رسید
 در خانه وی سید محمد عابد پیدا شد و فوات وی روز جمعیان فی تاریخ بیست و هفتم از ماه شعبان
 در زمان شاه احمد بن شاه لواز در سنه تسعین و ثمانمئة در بلاد بلخ مشترک که نزدیک سمرقند است

از مرض فلج وفات یافت و قبرش نفیش در سمرقند است که برای تحصیل علم رفته بودند در آنجا حاد
 شد و مدت عمر وی نود و سه سال بود و در نقش نگین او ان الله علی کل شیء قدیر بود و قاسم بن
 عمر خادم چهار پسر و سه عاجزه داشت یکی محمد قاسم دویم عبد الله الحمد سیوم محمد عابدین چهارم شهاب الدین
 و اسما عاجزه یکی زینب دویم جنت سیوم عزت خاتون ازینها خلافت شیخ محمد عابدین را رسید ابو محمد
 و محمد قاسم و جنت خاتون و عزت خاتون این چهار در صغیری نقل کردند نزدیک باین در انصاف
 سید محمد عابدین که نام وی محمد است و لقب عابدین و کنیت وی ابی احمد تاج الدین و
 پدرش امام ابابکر سید داود طائی بن سید موسی زکریا است و نام مادرش حلیمه بنت شیخ نجیب ابن
 قاسم تشنگی ولادت وی شب چهارشنبه در تاریخ از ماه ربیع الآخر در زمان شاه سلیمان بن شاه احمد
 سنه الیچ و ثمانیه و ثلثمائة در بلاد قلمینا در سوادگیلان است تولد شد و چون عمر وی بیست و
 یک سال در خانه وی سید سحی زاهد بظهور آمد و وفات وی در جمیع در تاریخ دهم از ماه رجب در
 زمان شاه سلیمان بن شاه احمد در سنه خمس و ثلاثین و اربعمائة در قلمینا از مرض شیخ وفات یافت
 و قبرش نفیش در گیلان است و مدت عمر وی پنجاه و یک سال بود و در نقش نگین او ان الله
 بالغ امره بود و محفوظ این زکریا خادم او بود شش پسر و سه دختر داشت یکی عبد الواحد دویم
 عبد الوهاب سیوم عبد الرزاق چهارم سحی زاهد پنجم عبد القادر ششم احمد و اسما عاجزه یکی امینه دویم
 زینب سیوم عایشه ازینها خلافت سحی زاهد را رسید و عبد الرزاق و عبد القادر و احمد و زینب و
 عایشه این فرزندان و دختران در قلمینا در صغیری نقل کردند در انصاف سید سحی زاهد که
 نام وی سحی است و لقب زاهد و لقبی و کنیت وی ابو علی و پدرش سید محمد بن سید ابابکر
 داود و نام مادرش فاطمه بنت شیخ محمد بن شیخ احمد باقلانی که از کبار مشایخ باقلان بود و از رؤسا
 زهاد ایشان است و مر او را احوال عالی و کرامات ظاهر بود و ذکر کسان باقلان که در عراق اند
 ولادت وی روز شنبه در تاریخ از ماه شوال در زمان شاه فیروز بن شاه عزت سنه خمس
 و اربعمائة هجری در دهه قلمینا که نزدیک گیلان است تولد شد و چون به نوزده سال عمر وی

رسید در خانه وی سید عبد الله صالح پیدا شد در جیلان در گذر توران وفات وی روز جمعه
در تاریخ بیست و نهم از ماه رمضان شریف در زمان شاه علاء الدین بن شاه فیروز سنه
ثالث و خمسین اربعمائه من الهجرة در جیلان حدوث آمد از مرض کابوس و قبرش لقیس هم در جیلان
است و مدت عمر وی چهل و هشت سال بود و در نقش نگین او هو الحی الهیوم بود و نور الحی و
این فضل خادم او بود و دو پسر و یک دختر داشت یکی موسی دویم عبد الله صالح و نام عاجزه سلیمه
و ازینها خلافت سید عبد الله صالح را رسید و موسی و سلیمه در جیلان در غنیزی نقل کردند ذکر
لضاب سید عبد الله صالح نام وی عبد الله است و لقب صالح و زرنگی و کینت
ابن محمد صادق و پدرش امام سید کی زاہد ابن امام سید محمد و نام مادرش حمید است بنت شیخ عقیل
این شیخ موسی جیلانی ولادت وی روز چهارشنبه در تاریخ یازدهم از ماه محرم در زمان شاه
علاء الدین بن شاه فیروز سنه ۶۲۳ من الهجرة در جیلان بظهور آمد و چون بیست سال عمر وی رسید در
خانه وی سید ابو صلح پیدا شد در جیلان و وفات وی روز یکشنبه بیستم از ماه صفر در زمان شاه
ضیاء الدین بن شاه علاء الدین سنه هجری در جیلان وفات یافت از مرض حمی الدق سواد وی
و قبرش لقیس در کوه کونر است که نزدیک دیبه بدر قیما است و مدت عمر وی چهل و نه سال بود در
نقش نگین او و ما امر الالیعبد الله محمد هاشم خادم او بود و فرزند داشت یکی عبد الوهاب
دویم ابو صلح و اولاد او در جیلان بسیار است در سحر الانساب جامع مسطور است که ابو صلح سید
عبد الله را بیخ اولاد نشده بود مگر در وقت پیری دو فرزند شده بودند که ذیل مذکور خواهیم نوشت
و خلافت هم عبد الوهاب را بود و از پدرش سید عبد الله صالح را و بعد از وفات عبد الوهاب خلافت
سید ابو صلح را و بعضی گویند که سید ابو صلح درستی حق سبحانه و تعالی بسیار غرق بوده که پوشش نداشت
و همیشه در جیلان مع این اسم مشغول بود و آن اسم نیست انت الهامی انت الحی لیس العالی الاله و گاه
گاه در آبادانی جیلان آمده و ابلین خود را خیر گرفته و خواطر جمع داشته باز در جیلان مع این اسم
دوام مست میگردید امتی الهم ذکر لضاب سید ابو صلح موسی جنگی دوست و نام وی موسی

ولقب وی جنگی دوست و کینت وی ابو صالح و پدرش سید عبد الله بن سید یحیی زاهد و نام مادرش
 عایشه بنت شیخ ابوالنصر بن شیخ عبد الله که از کبار مشایخ جیلان بود و ولادت وی روز چهارشنبه
 پانزدهم از ماه شعبان در زمان شاه محمود بن شاه علاء الدین سنه من الهجرة در جیلان بظهور
 آمده چون شصت و نه سال عمر وی رسید در خانه وی سید عبد القادر رضی الله عنه متولد شد
 و وفات وی روز جمعه دو ازدوم از ماه ربیع الاول در زمان شاه عباس بن شاه محمود در سنه
 من الهجرة احدی و تسعین و اربعمات و وفات یافت از مرض سکه در جیلان و عمر وی هشتاد و سه سال
 بود و قبرش لقیش هم در جیلان است و در نقش نگین او هو الحی القیوم و عابد بن صالح خادم
 او بود و فرزند داشت یکی سید عبد القادر رضی الله عنه دویم سید ابی احمد عبد الله درصین
 عنقوان جوانی ازین دار فانی بسرامی جاودانی نقل فرمود و چون بجز عرفان حضرت سید ابو
 صالح موسی جیلانی رضی الله عنه از جهان رحلت فرموده همین دو در تقییم گذاشته بود
 خلافت ازینجا حضرت سید عبد القادر را رسید رضی الله عنه انتی الم ذکر نصاب حضرت
 غوث الاعظم قطب الاکرم سلطان الاولیاء برهان الاصفیاء قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث
 انقلین کهف الحاقیقین حضرت سید ابو محمد محی الدین سید عبد القادر الحسینی الحسینی الجیلانی رضی الله عنه
 و ارضاه عن از سادات حسنی از جانب پدر و حسینی اند از جانب مادر مولود شریفش در گیلان که
 در عییم است و نسبش از جانب والد بزرگوار بدین نوع است که حضرت سید محی الدین
 ابو محمد عبد القادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسی جنگی دوست ابن سید عبد الله صالح ابن سید یحیی
 زاهد ابن سید محمد و سید محمود بن سید داود ابن سید موسی ثانی ابن سید عبد الله ثانی
 بن سید موسی الجون بن سید عبد الله المحض بن سید حسن المثنی بن امیر المؤمنین سیدنا ام حسن
 رضی الله عنه بن امیر المؤمنین و امام الاشیعین سیدنا علی کرم الله وجهه الیضا فی شرح نسب حضرت
 سید عبد القادر رضی الله عنه و پدرش سید ابو صالح رضی الله عنه زبارة و انحضرت رضی الله عنه
 از پشت حسنی اند و از شکم حسینی اند و نام مادر انحضرت رضی الله عنه بی بی فاطمه و کینت او ام الخیر

ولقبوا وائمة الجبار دخر سيد عبد الله الصومعي الزاهد بن سيد ابو جمال الدين محمد بن سيد محمود ابن سيد
 ابي العطاء عبد الله ابن سيد كمال الدين عيسى ابن سيد ابي علاء الدين محمد الجواد ابن سيد امام علي
 رضا ابن سيد امام موسى الكاظم ابن امام سيد جعفر الصادق ابن الامام سيد محمد الباقر ابن امام
 سيد زين العابدين ابن امام شهيد كربلا سيدنا حسين ابن امام امير المؤمنين سيدنا علي رضي الله
 تعالى عنهم جميعين انتهى كذا في تنوير السيرة يوم در تاريخ بلخ مومن خاني آورده است و والده حضرت
 غوث الاعظم امة الجبار فاطمة بيگم سلطان نام دارند که دختر حضرت شيخ سيد ابو عبد الله الصومعي رحمه الله
 بوده و ایشان بن سيد ابو جمال الدين محمد بن سيد محمود بن سيد ابي عطاء عبد الله بن سيد كمال الدين
 عيسى بن سيد علاء الدين محمد الجواد ابن امام علي موسى رضا ابن حضرت امام موسى الكاظم ابن امام بن
 حضرت امام جعفر صادق ابن حضرت امام محمد باقر ابن حضرت امام زين العابدين ابن حضرت امام
 حسين ابن حضرت علي المرتضى رضي الله عنهم جميعين سيدهم در تفریح الخاطر آورده است و اما
 نسبة من طرف والدته هي ام الخير امة الجبار فاطمة بنت السيد عبد الله الصومعي الزاهد ابن ابي جمال الدين
 السيد محمد ابن سيد محمود طاهر ابن الامام ابي العطاء السيد عبد الله ابن الامام السيد كمال الدين
 عيسى ابن الامام ابي علاء الدين محمد الجواد ابن الامام علي رضا ابن الامام موسى الكاظم ابن الامام
 جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام ابي عبد الله الحسين
 ابن الامام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم جميعين چهارم در تحفة الابرار
 لواع الاوزار آورده است از جانب مادر يعني من جانب الام و امه رضي الله عنها امة الجبار
 فاطمة بنت سيد ابي عبد الله الصومعي الزاهد بن السيد ابي جمال الدين محمد بن السيد محمود بن السيد
 ابي العطاء عبد الله بن السيد كمال الدين عيسى بن السيد ابي علاء الدين محمد الجواد بن السيد الامام
 علي الرضا بن السيد الامام موسى الكاظم بن السيد الامام جعفر الصادق بن السيد الامام بن السيد
 الامام محمد الباقر بن السيد الامام زين العابدين علي بن السيد الامام حسين بن امير المؤمنين
 علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضي الله تعالى عنهم انتهى بهج در ترجمه الخاطر الفاتر مولانا

له
 صفحه ٤
 مطبوعه
 سکنده

٥٤
 ورق ٢
 قلمی

٥٥
 صفحه مطبوعه
 اسلام بول

علی الفارسی آورده است اما نسبه الشریف لامة مفصلا فهو متصلا بالامام الهام سید الشهداء ابی
 عبد الله الحسین ابن سیدنا علی بن ابیطالب رضی الله عنهما كما ذكره غیر واحد من العذول و
 الشفاة علی هذا الوجه والمنوال و هو ان السید الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن السیدة ام الخیر
 امة الجبار فاطمة بنت السید عبد الصومی الزاهد ابن السید ابی جمال الدین محمد ابن السید محمود
 ابن السید ابی العطاء عبد الله ابن السید کمال الدین عیسیٰ ابن الامام السید علی الرضابن الامام
 موسیٰ کاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن
 الامام الهام سید الشهداء ابی عبد الله الحسین ابن الامام الهام امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابیطالب
 رضی الله عنه و عنهم اجمعین ششم در فتوح الغیب آورده است اعلم ان حضرة قطب العارفين
 الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس الله تعالی سره و والدته الکریمیه رضی الله عنها اسمها ام الخیر امة الجبار
 فاطمة بنت السید عبد الله الصومی الزاهد ابن الامام ابی جمال الدین السید محمد بن الامام السید محمود
 بن الامام السید ابی العطاء عبد الله بن الامام السید کمال الدین عیسیٰ بن الامام السید ابی علاء الدین
 محمد الجواد رضی الله عنه بن الامام الهام علی الرضار رضی الله عنه ابن الامام الهام موسیٰ کاظم رضی الله
 ابن الامام الهام جعفر الصادق رضی الله عنه ابن الامام الهام محمد الباقر رضی الله عنه ابن الامام الهام
 زین العابدین رضی الله عنه ابن الامام الهام سید شباب اهل الجنة و قره عین اهل السنة سید الشهداء
 ابی عبد الله الحسین رضی الله عنه و عنابه آئین همضم شبلنجی در نور الابصار آورده است فصل فی
 ذکر مناقب محمد الجواد بن علی الرضابن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین
 بن الحسین بن علی بن ابیطالب رضی الله عنهم: امه ام ولد يقال لها سکینة المرسیة و کنیته ابو جعفر
 لکنیته جده محمد الباقر و القاب کثیرة الجواد و القانع و المرئی و اشهر بالجواد صفة ابيض معتدل شاعر
 سجاد و ایه عمر بن الفرات نقش خاتمه نعم القادر الله معاصره المامون و المعتصم ولد ابو جعفر محمد الجواد
 بالمدينة تاسع عشر شهر رمضان المعظم سنة خمس و تسعين و مائة من الهجرة قال صاحب کتاب مطالب
 السوال فی مناقب آل الرسول صلی الله علیه و سلم هذا محمد ابو جعفر الثاني فانه قد تقدم فی ابائه ابو جعفر

له صفحه ١٤٧
 مطبوعه مصر
 مع البجیه الاسرار

له صفحه ١٥٣
 مطبوعه مصر
 و صفحه ١٥٨

محمد الباقربین علی بن ابی طالب با اسم و کنیت و اسم ابیه فرقت با بنی جعفر الثانی و ان کان صغیر السن فهو کبیر
 القدر رفیع الذکر و مناقبه رضی اللہ عنہ کثیرة انتهى در سفینة الاولیاء آورده است حضرت امیر
 المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کفایت ایشان ابو الحسن ابو تراب است و لقب مرتضیٰ
 و اسد اللہ و نام شریف ایشان علی است و هو ابن ابیطالب ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف
 و نام مادر ایشان فاطمة بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف است و ولادت ایشان در مکہ معظمہ بودہ
 است در درون خانہ مبارک روز جمعہ سیزدہم رجب بعد از واقعه فیل بہ سی سال و بعضی گفته
 اند کہ ولادت ایشان در خانہ کعبہ بودہ در سال کعبت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یازدہ
 سالہ بودہ اند بعضی سیزدہ سالہ گفته اند و اول کسی کہ از صبیان ایمان آورده ایشان بودند و
 در سال سی و پنجم یاسی و ششم از حیرت بر مسند خلافت نشستند و مدت خلافت ایشان پنج سال و
 سہ ماہ بودہ و لقبولی چہار سال و نہ ماہ بودہ و شہادت ایشان شب دوشنبہ بست و یکم ماہ
 رمضان سال چہلم یحییٰ و بقولی روز جمعہ ہفتم ماہ مذکور روی نموده و بعضی بست و بیوم گفته اند
 و مدت عمر شریف ایشان شصت و سہ سال یا شصت و پنج سال بودہ و نقوش نگین حضرت امیر
 الملک اللہ بودہ گویند کہ حق سبحانہ تعالیٰ برای حضرت امیر کرم اللہ وجہہ دوبار رؤس کرد و آفتاب
 را از مغرب بازگردانید یکی در عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یکبار بعد از وفات آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم و قبر ایشان در نجف است چنانچہ در شواہد النبوت مسطور است کہ امیر المومنین
 علی امام حسن و حسین را رضی اللہ عنہما وصیت کردہ بودند کہ چون بمیرم مرا بر سر میری بہنید و
 بیرون برید و بجزین کہ الحال در نجف شہرت دارد برسانید و اینجا سنگی سفید خواهید یافت کہ از ان
 نور در خشتان است آنرا بکنید در اینجا گذاگی خواهید یافت مرا در اینجا دفن کنید ملاعبد القور
 لاری رحمہ اللہ آورده اند کہ قبر حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ در بلخ است موضعی
 کہ باستانہ امیر مشہور است و درین باب جہتاً آورده اند واللہ اعلم قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم انت منی بمنزلہ ہارون من موسی الا انہ لابی لجدی تحقق علیہ شکوۃ گفت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم علی را کہ نسبت تو بمن همچو نسبت ہارون است بموسی غیر انیکہ نیست بعد از
من پیغمبری و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه
و عاد من عاداه صواعق یعنی گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز غدیر خم ہر کس را ہستم من
مولا می او پس علی مولا می اوست ہند یادوست دار کسی را کہ دوست دارد علی را و دشمن دار کسی
کہ دشمن دارد او را حضرت امیر امام اول انداز ائمہ اثنا عشر رضی اللہ عنہم و سلسلہ ہای جمیع اولیا
بایشان منہی شود و ترتیب فضیلت چہار یار حضرت سید ابراہیم ترتیب خلافت است چنانچہ
در کلام اللہ در آخر سورہ فتح اشارہ بان شد و محمد رسول اللہ ولذین معہ اشدا ۶
علی الکفار مرجاؤ بینہم تراہم رکعاً سجداً یتعون فضلاً من اللہ و رضواناً بآبائہم
و ہر چہ چہ یار را بہترین جمیع خلق خدا بعد از انبیا باید شناخت کہ علماء اسلام برین متفق اند و
این حقیر در خواب بسعادت ملازمت خلفائی راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف گشتہ چنانچہ
بشی در خواب فی بیند کہ چہار کس بلباس سفید بزرگانہ متعاقب یکدیگر میروند فقیر از شخصی
پرسید کہ اینہا چہ کسانیہ گفت چہار یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقیر از عقب ایشان روان گشت
ایشان از دریا گذشت بر کوی کہ بسیار بلند بود بر آمدند و برابر ہم ایستادند فقیر پیشتر رفته اول
بخدمت صدیق اکبر رسیدہ گفت السلام علیکم یا صدیق اکبر در جواب فرمودند و علیک السلام
گفتم التماس فاتحہ دارم فاتحہ خوانند و بعد از ان ہمین روش بخدمت حضرت فاروق اعظم
رفتم و سلام گفتم فاتحہ التماس نمود ایشان نیز خوانند و باز بہین طور بخدمت عثمان و الفنون
و حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہم سلام گفتم و جواب شنیدہ التماس فاتحہ کردم ایشان نیز
دربارہ این فقیر جدا جدا فاتحہ خوانند و فرمودند کجبت یادگاری ما مرشدہ ایم و فقیر را
باغبانیت خاصی رخصت فرمودند و این خواب را از بیداری بخت و سعادت مندی گوین خود
میدانند کہ چنین عطیہ عظمی مشرف گشتہ الحمد للہ علی ذلک و در تاریخ مومن خانی کہ آنرا تذکرہ بلخ
گویند اکنون شروع بہ بیان احوال و اطوار علمای مجتہدین بلخ کنیم کہ اہل بلخ را چہ افتخار و

مباحث با ایشان بوده است خصوصاً از انجمله هفتاد و نفر ستوده سیر بوده اند که بیخ کس را
 در قضاہت و ولایت و دیانت ایشان قیل و قال نبوده است ایشان را بیان کنیم و بابت انبیا
 و اول شروع در ذکر مزار فالصل لالاوار حضرت شاه ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجہہ
 کردہ شود و بعد از آن شروع بان اکابر نموده خواهد شد انشاء اللہ تعالیٰ بدانکہ چون امیر المومنین
 حضرت علی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن العباس الخارجمی علیہ ما علیہ ستمتی چون بدرجہ شہادت
 رسانیدہ امیر شتر می بار کردند کہ تا مہذبہ منورہ آورده نہ نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم دفن نمایند در اثنای راه شتر غائب شدند استند کہ بکدام طرف رفت و ہیچ کس بران
 شتر قدر نیافت بنا بر اینست کہ اہل عراق میگویند حضرت امیر رضی اللہ عنہ در سحاب اندو
 بعضی میگویند کہ ان شتر بہ بلاد طبری رفت و در ان بلاد ویرا رضی اللہ عنہ مدفون ساختند و بعضی
 گفته اند در شام رفت و بعضی گویند در عدن و یابین الجبلین رفت و بعضی گویند در بحرین
 و یا بلاد خراسان مشہد طوس یا مرو یا کوه نور یا بلخ یا سواد آمل و یا کرخ بغداد رفت و اللہ اعلم
 بالصواب گویند کہ انجناب رضی اللہ عنہ در سنہ شصت سہ سالگی بودند کہ شربت شہادت
 چشیدند و بعضی گفته اند کہ در ان وقت شصت چہار سالہ بودند و بعضی گفته اند کہ شصت و بیخ
 سالہ بوده اند و بعضی بیجاہ و ہفت نیز گفته اند گویند کہ قرآن جناب را از ان جهت ظاہر نگردہ
 اند کہ مبادا خوارج بیدین جسد مبارک ایشان را از قبر بیرون آرند و ضرر رسانند و از
 حضرت شریک حمہ اللہ علیہ منقولست کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پدر بزرگوار خود را در
 مدینہ منورہ فرستادہ پنهانی در نزد مادری عقیقہ نمود رضی اللہ عنہا دفن فرمودند علمائی مدینہ
 ہمین قول را پسندیدہ اند واضح اقوال این است کہ در کتاب صواعق محرکہ آورده اند کہ چون
 جناب حضرت شاه ولایت را کرم اللہ وجہہ بکار زدند آن شب جمعہ بود همان شب جمعہ و
 روز جمعہ و شنبہ زندہ بودند و در شب یکشنبہ و یار و زان از عالم رحلت فرمودند و حضرت
 عالی درجات امام حسن و امام حسین و محمد اللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ با غسل قیام نمودند و

و امام محمد حنفیه آب میرنجیتند و در ثوبه که بان قمیص نبوده کفن کردند و امام حسن رضی اللہ عنہ
 بر جنازه پدر بزرگوار خود امام شدند و هفت تکبیر گفتند و شب در دار الاماره کوفه و یا
 در قبریکه الحال مردم در نجف اشرف و یا در مابین منزل دمی و مسجد جامع اعظم کوفه علی احوالات
 الاقوال مدفون ساختند قول اکثر علمای تاریخ اینست که در نجف است قبر ایشان اما در سالها
 تواریخ بلخ آورده اند که قبر ایشان در هر جای که بود بنا بر فتنه گره ناشکوه بنی امیه بام حضرت
 امام محمد باقر رضی اللہ عنہ امیر با مسلم مروزی رحمة اللہ علیہ عیاران خود را فرموده در بلخ آورده
 در دهه خیران جسد مبارک ایشان را پنهان دفن ساخته اند و همچنان پنهان بود تا زمانیکه سلطان
 سنجر ماضی در مرو پادشاه شده و بلخ را با حمد بن قماح داد و در سنه بالصدسی از هجرت چهار
 صد نفر از علما و سادات و اکابر بلخ بیکبارگی در خواب دیدند که حضرت شاه ولایت رضی اللہ عنہ
 در جای قبر خود که الحال در مزار فیض آثار میباشند ایستاده اند و باین اکابر میفرمایند که من
 سالهاست که اینجا آسوده ام کسی اینجا بودن مرا نمیداند میباید که بوالیان مملکت شما یان اظهار
 کرده قبر مرا ظاهر گردانید تا خلایق عالم زیارت کنند و بهر ورگردند چون این بزرگواران
 از خواب بیدار شده و صبح همه ایشان بدر بار امیر احمد بن قماح حاکم بلخ رفتند و آن خواب
 باصواب خود را با امیر تقریر کردند در آن مجلس از علمای نامدار و فقهای عالی تبار امام عبد اللہ
 نام عزیز می در مجلس امیر حاضر بود گفت که خواب را چندان اعتباری نمی باشد البته حضرت شاه
 ولایت در اینجا میباشند که باقوال صحیحی یاد مدینه سکینه است یا در عراق عرب یاد کوفه یاد
 سواد آمل یاد کرخ بغداد یا نجف یا شهر عدن خواهد بود چه ضرور بود که جسد مبارک ایشان را
 باین راه دور گرفته بیارند البته چنان خواهد بود و چون این سخن را آن بزرگوار در میان مجلس
 علمای نامدار تقریر کرد هر کس هر جا پریشان شده رفت و چون شب شد آن فقیه بلخ در خواب
 دید که جمعی از سادات کرام او را گرفته محکم بر سبته دوان دوان و زنان زنان در نزد
 شریف خود حضرت شاه ولایت بموضع قمر منظر بردند حضرت امیر المؤمنین بان ملای فقرتین شد

فرمودند که ای بنی خرد جاہل کاری که حق تعالی اظهار آن خواسته است تو میخواهی که بجز
 نقول و زبان آنرا پوشیده داری چنین زدند و لت کردند که سیاه روی و ضرب خورده گران
 و نالان و ترس آلود از جا برخواستند در آن نیم شب بدر بار حاکم بلخ رفت و آنچه بروی گذشت
 بود با میر تقی میر کرد و آنگاه همه صغیر و کبیر ملده بلخ بجانب دیبه خیرانکه جانب شرقی بلخ بمقدار دو
 فرسخ شرعی واقعت رفتند و آن موضع را کنند صد و نونی برآمد و در آن صندوق کشاده دیدند
 عزیز می در آن خفته و هرگز اثر کهنگی و خرابی در آن جسد مطهر عارض نشده و شخصی میان بالا می
 سیاه رنگ مایل بکندم گون قوی جسم کشاده ابرو و چشمها کلان فراخ و سیاه و مژگانها دراز
 و شیر اندام و عظیم البطن و مین سینه و فریب بدن و درشت موی و نمکین رنگ و شیرین لب
 و خوش ترکیب که اثر خون در بدن ایشان ظاهرست و از زخمهای این بلغم هنوز خون جالیست
 و در لوحی نوشته که بذ اقرامیر المؤمنین علی ولی اللہ الخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر
 مصحفی با دیگر نشانها ظاهر شد و چون خاص عام این کرامت و عظمت در آن مقام نجسته فرجام
 مشاهده کردند کوس شادی و شاد کامی را فلک رسانیده شب و روز فوج فوج کرده گروه
 بانذور و هدایای نامعدود از تقود و اجناس و اسپ گاو و اشتر و گوسفند و بز و غیره با در آن
 مقام شریف آمده طواف زیارت میکردند و کاهها در بنگا زیارت زیادت از دو صد هزار آدمی
 در فضای آن صحرا می وسیع المجال رفیع الاقبال اللہ گوینان جولان مینمودند و متر صد آثار
 کرامت و ملاحظه هزاران هزار خوارق عادت میکردند تا که در مدت القضا دو ماه مکالمه پیش
 قریب یک هزار پانصد گس از زمره کور و گنگ و لنگ و ثل و برص و مرض غیره شفا یافته اند
 و خلایق عالم این امور عجیبه غریبه را بچشم سرعیا می دیدند و چون این خبر خیر اثر انتشار یافت
 یافت حضرت بادشاه اعظم سلطان سنجماضی انار اللہ بر بانه برای زیارت از مر و شاه جهان
 در نیجا آمدند و مر اسم زیارت را بجا آوردند و میخواستند که عمارت عالی بنا کنند اجل ایشان رسید
 و در روز شنبه بیست و پنجم ماه ربیع الاول در سال پانصد پنجاه و دو از هجرت وفات کرده در مر و

مذقون گردیدند و سلاطین را فرات روی نمود و بانگ مدت چنگیز خان خروج کرده عالم را خراب کرد و آن مقبره مطهره که بنای آن از خشت خام بود بانگ وقت از جهت شدت و کثرت برف باران خراب شد و مردم آنرا از جهت بیوقوفی مثل علی میگفتند و هر کس در آن عهد که قلبی خرد داشتند از ترس کفار و اوجه خیر آن میگفتند و ازین چون سه صد پنجاه سال دیگر گذشت و عمارت تمام انهدام و اندر اس یافت در عهد حضرت خاقان منصور یعنی پادشاه دین پناه سلطان حسین بالقرامی گزانی ولد منصور میرزا ابن بالقرامیرزا ابن امیر تیمور کرکان انار آمد بر بانه بسال هشتصد و هشتاد و شش از جوت تاریخی یافتند که حضرت شاه ولایت در دهنه خیر آن آسوده اند امیرزاده بالقرامی بود که آن تل را کاوند چون کشادند آن مجموع نشانها که در بالا ذکر یافت ظاهر شدند و منکران هر یک بزبان حال و بسان مقال میگفتند بیت

کنون درام من در خوابانده	ولی در آنس اندر تابانده	علی بیخ ابگه بادشاه است	که سید را علم پادشاه است
مرا لای نماید آنکون خجرت است	غبار کجی از میان خجرت است	هر آن جا بل قبول آن نکرده	که او تصدیق بر قرآن نکرده

بعد از آنکه علامت و آثار کلی ظاهر شدند این خبر را مردم بلخ بهرات بسطان حسین میرزا رسانیدند سلطان این سخنان را باور نکرده امیر علی شیر را فرستاد تا تحقیق کرده بیاید امیر علی شیر از بعد ورود این مکان رفیع البیان از حقیقت حال واقف شده همه را آن امیر صاحب حال بروجه

کمال مشاهده نمود و عرض و نعت کرده بسطان فرستاد غزل

بزم می در کام در آ شام بلخ آمدید	این همه آغاز از انجم بلخ آمدید
همی کس عنقهای مغرب را شکار خو و نکرد	شاد باش ایدل که اندر دم بلخ آمدید
گوهری غائب شد اندر قعر دریای نجف	دین زمان از قبه الاسلام بلخ آمدید
شما میانرا بعد ازین قدر علی پیدا شود	کین فروزان شمع اندر شام بلخ آمدید
نمانی خلد برین یعنی مزارشاه دین	در مقام لازم الا کرام بلخ آمدید
عین آب زندگی از کوفه می جسد خلق	ای سگند را که اندر جام بلخ آمدید

تالیف مسکین محمد مدعی الدین الحنفی القادری عمی عنه

رونوای بزم عرفان از مرز شاه جو	سکه ششاهنشاهی بر نام بلخ آمدید
<p>و بالجمله چون صحبت با صلابت این اخبار در عرصه روزگار مانند ایام بهار انتشار و اشتها یافت آنگاه مردم حکایت آگاه از کمال اخلاص از عوام و خواص از حسن عقیده و اخلاق جمیده که داشتند فوج فوج و گروه گروه بانقود و اجناس از متاع و لباس و پیلاس نامتناهی روی قبله علیه پادشاهی نهاده آمدند و دست بدعا کشاده گاه بودیکه در هنگام زیارت زیادت از دو صد هزار آدمی در فضای آن صحرائی وسیع المحال رفیع الاقبال اندگویان جولان می نمودند و مترصد مشاهده آثار کرامات و مترقب الوار خوارق می بودند که آن کرامات الاولیاء حق با کتب و الاخبار و الآثار تا که در مدت گذشتن دو ماه کمابیش از مردم در ویش و خدینگاران شاه و سپاه و رعایا و بریایمی خیرخواه قریب بیکهزار پانصد نفر از مره اصم داعمی و طائفه اعرج و گنگ و نابینا گویا و شنوا و بینادران دار الشفا از روی التفات بی غایات آن کامل الصفات شدند چنانکه زیاده از پانصد هزار کس صحت و عافیت در مدت اندک یافتند و هر یک از زائران آن درگاه و سالران آن بارگاه صحت عاجل و شفای کامل آن طائفه بیمار و آن گروه زار و نزار را امید یبند و بیدیده اعتبار و چشم انکسار ملاحظه و مشاهده در هر زمان و آن می نمودند بیت</p>	
<p>ای مرقد شریف تر احرمت حرم از بهر روشنائی تو مهر و ماه شمع از بهر آن مزار مقدس همی سرزد از روی صدق خویش در آن منزل بیعت چندین هزار کور بنا شد بدر گهت هر کس که گفت نیست علی م قضی بلخ در خوان روح پرور تو مندرج شفا گیتی بر آستانه تو میبرد پناه</p>	<p>کوی تو قبله عرب و کعبه عجم وز بهر سده بوسی تو لیسیت چرخ خم گر دو چراغ سبز و فیثله سفید دم از علت صمم بر بد ز مره اصم فیض کرامت تو نشد هیچ وقت کم ماند از کمال جهل در ادبار از نعم در فرش عرش گستر تو منبرم الم گر دون بنجاک در که تو میخوردنم</p>

<p>خاک زمین بلخ به از گلشن ارم بردامن دلش نشیند غبار غم فرما که منشی ات زندش ز اولیا رقم</p>	<p>گشت از ظهور روضه رضوان ماب تو لطف و عنایت تو بهر جا که جا گرفت صالح بر آستانه تو میبرد پناه</p>
<p>آنگاه سلطان حسین میرزا مکتوب با السلوب امیر کبیر علی بشیر را مطالعه نموده با جماعه از شاهزاده گان و هزار اوس از چیتتا و نه هزار لشکر جوار طرار با آنکه موسم سرطان و جلله کلان بود که از عنایت گرمی هوا مایهی دریا در غدا ببلای حسابت روانه قبه الاسلام دار السلام بلخ گردید چون قوافل همان در واصل دولت و نجات روز افزون قریب بجوالی آن قبله اقبال و کعبه آمال رسیدند سلطان فرمود که مرا از تخت روان پیاده کنند از بسکه فلج شده بود محرمان دست بدست گرفته میرفتند و هر یک بزبان ترجمان بایکدیگر میگفتند قطعه</p>	
<p>مردم هر دو عالم می بخوابی بعد از آن سلطان بدان سر منزل عالی نشان</p>	<p>بدرگاه علی مرتضی رو رضای حضرت باریعالی رسید در حین طواف اطراف آن حرم محترم احرام فروتنی بسته بادل نشکسته میگفت که غزل</p>
<p>قبله للناس حصن الخلق امن للانام سجده گاه اولیا سبحانک اللهم چه نام فیہ آیات آیتی در نشان این عالی مقام مثل زیتون مبارک یا که مهر خاص عام رحم کن بر حال آن مسکین در گاه عظام</p>	<p>السلام ای بارگاه شاه مردان السلام بارگاه کبریا الله اکبر این چه جا است حکم و لیلو قوا طوبی در این بارگاه چون غسل فیہ شفا گفت للناس ان حکیم بر درت آمد گرای مینو سلطان حسین</p>
<p>بعد از مراسم زیارت سلطان با جمعی از علما و اکابر و مشایخ و فقرا و اصاغر صلحت در بردن صندوق حضرت شاه ولایت از بلخ بهرات کرده و گفت که در بلده بهرات در مدرسه علیا شاه رنجبته که متصل مسجد جامع بهراتست روضه بنا کرده شود و جسد مطهر آنحضرت را کرم الله وجهه الکریم اینجا نقل کرده شود از بسکه فرمان جل و علی در آن بنود سلطان را ازین کار نا بهره برار کردند</p>	

آنکه سلطان فرمود تا او ستادان پرکار را حاضر کردند و عمارتی بنیامت متانت که الحال موجود است بنا کردند و در مدت چهارده سال این عمارت بسر رسید و هنوز در صد و زینت و درستی آن بودند که سلطان حسین میرزا در پیروزد و شنبه یازدهم ماه قربان در سال نهصد و یازده از نجرت در هرات وفات کرده آنجا مدفون گردید گویند در آن آوان سلطان چهارباغی بنا کرده بود و چهار حد روضه که روضه در میان بوده و پدر و ازه خانه چهار باغ که جانب جنوبی آن قریح نقاره خانه عالی بنا کردند چنانکه در عهد سلطان سنجر هم بنامی نقاره خانه در آنجا بوده و مشهور است که حضرت خواجہ بہا الدین نقشبند قدس سرہ در آن سر منزل کہ مسجدی مشہور است و الحال کہ آنقدر مگاہ موجود است و مکان مسجد شدہ است متکلف سہ چلہ شستہ بودند باشد کہ رخصت زیارت یا بند بعد از اتمام سہ چلہ تا بدروازہ درون اذن یافتہ زیارت کردہ از انجام اجعت نمودند و مشہور است کہ سگ قبل از ایشان بزیارت ما دون شدہ در روضہ رفتہ بدن خود را مالیدہ است و ایشان از کمال آداب از آن مقام تجا و بیکرہ زدند تا آنکہ کہ اذن یافتہ اند و کچراغ خانہ ہالی خود را مالیدہ از انجام درون تر داخل نشدہ اند چنانچہ امیر علی شیر کہ تخلص اولو امی است این را رباعی فارسی کردہ است رباعی در زیر نقارہ خانہ حضرت شاہ شہان جہان مدہ کم از دہاہ سہ چلہ شست نقشبند از سر صدق ہ سگ رخصت یافت او در اشتنگاہ

و حضرت مولانا سی جامی قدس سرہ فرمودہ اند - رباعی

گویند کہ مر قضا بشاہ بچغ است	در بلخ چو خورشید بذات الشرف است
جامی نہ عدن گوئی نہ بین الجبلین	خورشید یکی است نور در ہر طرف است

و صد زوج آب از دریای بلخ جدا کردہ موسوم بہر شاہی کردند و انرا وقت صحیح مویذ ساختند و صد نفر سادات و صد نفر غلام را آزاد کردہ برای خدمت در آن گذاشتند و امور تولیت و وقف صحابیت سید تاج الدین اندخوی علیہ الرحمہ کہ از اولاد سید امیر برکہ اندخوی قدس سرہ بودند و ارگ رفت و بعد از ایشان تولیت خواجہ میرزا ابو الحسن انصاری کہ از اولاد

حضرت خواجه عبداللہ انصاری قدس سرہ ولدا رشند حضرت شیخ شمس الدین مسکین رحمۃ اللہ علیہ
بودند قرار گرفت واللہ اعلم عزوجل گنجی زخاک بلج سپہر آشکار کردہ آنرا وسیلہ شرف روزگار کرده

<p>آن گنج مرقد اسد اللہ غالب است آن شاہ دین پناہ مہر عدل او چون سینہ شتر شدہ پیشانی سپہر دائم پیدانی وصف علی مرتضیٰ کند</p>	<p>ز انرو جہا بہ بند گیشس افتخار کرد قصر بدیمی چو طارم چرخ استوار کرد از مسجد ہاکہ بر حرم این مزار کرد از عشق بازاری کہ بدل صد ہزار کرد</p>
---	---

در تاریخ آورده اند کہ حضرت علی مرتضیٰ را از نجف کوفہ بنا بر فتنہ گروہ بنی امیہ بام حضرت امام
یا قرضی اللہ عنہ عبارات ابو مسلم وزی علیہ الرحمۃ پنهانی در بلخ آورده در دینہ نیران کہ الحال
موسوم مدینہ مزارست مدفون سائننتی الحال کہ سنہ از ہجرت ہزار و سہ است آن آستانہ عالی و عقبہ
استعالی قبائہ مقبلان و کعبہ صاحبان سالکان طریق طلب راہ نوردان بادیہ مطلب از اطراف و
چو انب از بلاد ہای قریبہ و بعیدہ متوجہ طواف آن مکان عالی شان عرش مطاف اندہ پادشاہان عالیجاہ
و سلاطین عالم پناہ تراز بنجاب عمدتہ علیہ عزت مرتبہ عالی حضرت دلالت پناہی رلیب لب بوسہ مینزند و چون
حفتہ ہائی رومی ارادت بی تعب و شغب برد طلب نہادہ ملازم و عازم آن آستانہ استانند خواص عوام
بلکہ بہ ہر نام از رومی تعظیم و اکرام از کمال اعتقاد و اہتمام تام دران دارالسلام آمدہ بطالب مقاصد
صوری و معنوی و برادات دنیوی و اخروی واصل میکردند و طوالبین بیماران و سنالیف نزاران
اقبال کوہ و کر و گلگ شل و اکہ و ابرص و جزام و سرسام و خفقان و غیر آن بقدر احوال و بقدر رضای
از شفا خانہ آن حکیم کریم باذن حضرت رب الرحیم جل سلطانہ العظیم بدر و خود باد و ادریخ خود ہاشفا
می یابند کما لایحیی علی من لہ ادنی در آیہ و ادنی عن آیہ بیت

<p>ذوق تراب سینہ اصفانہ اند مستغرق محیط کرم مرتضیٰ علی رہ داری در آستین کرامت زہر خود</p>	<p>شوق تراب قلب مجلانہ اند قدر تراب عالم بالا نہادہ اند خاصیتی کہ درید بیضا نہادہ اند</p>
---	---

<p>بنگام طوف خاکد رت سایه افکنان که عاجزت مدعی از فهم آن عجیب ذات تزداد عای یزدانی بود قسین</p>	<p>سجاده بر رواق معلما نهاده اند کی روشنی بدیده اعملی نهاده اند در وی هزار مصلحت ما نهاده اند</p>
<p>و مولانا می جام نیز تاریخی بنظم درین باب کرده اند تینا و تبر گادریں رساله نیکو مقاله ایراد نموده میشود و آن این است که بر ناظران و سامعان راه مبین است ابیات</p>	
<p>چو شد قندیل ز کردان بر اوج قلعه مینا سپاه زنگیان شد بمنزله از خط ماچین فرو شد ذوق سین درین سیلاب گون جمله بگوش بپوش من آمدند از عالم غیبی بر ایوان ولایت کوی اقبال شد رطالع طلوع مطمح ویم بیا بگوش جان بشنو ز فرزند سلطان باینزیدان عارف بسطام ز فرزند شمس الدین کی بوده محمد نام که در هندوستان در خانه شیخ مسلمانی باین مضمون که بعد از بالفصد سی سال از حیرت که در بلج دست صندوق امیر المومنین حیدر ز سادات ابالی بلج کامل چهار صد کس بود چو دیگر روز شد آن چهار صد کس عملی رفتند چو سادات ابالی موالی جمع گردیدند فقیه بود امام پیشوای بلج در مجلس که در پای منار مسجد آدینه کوفه</p>	<p>شعاع شمع کافوری مه گردید ناپیدا لوامی فتح شاه چین چو عکس اندخت دریا روان شد کشتی زرین بروی نیلگون دریا که میگفتند با هم ساکنان عالم بالا ز گردون سعادت آفتاب صبح شد پیدای بنی گفتا نه من گفته بقول روشن و اصفا یکی آمد ببلج و داشت تاریخی نکو انشا بنی خوی علی جو حسن خلق حسین آرا بدست افتاد او را اینچنین تاریخ روح افزا بعصر سینه ماضی که کشاهی بود با تقوا همان در قرنیه خیران بگفتی این نشانها بخواب خویش دیدند برون حیدر درین ماوا به پیش حاکم احمد قراج آن نام بود او را عیان کردند خواب خویش را آن چهار صد دان بگردا کار و گفتا نیست قطعاً ماضی اینجا شهادت یافت شاه هست قبرش اندران دا</p>

بقولی بعضی دیگر هست در شهر عدن قبرش
 بقولی در سواد آمل و کرخ و نجف باشد
 بهر تقدیر در اینجا نباشد مگر آن شاه
 چون در انکار این معنی فقیه بلخ در مجلس
 چون شب شد دید آن ز اولاد نبی جمعی
 علی گفتش چرا انکار قول مصطفی کردی
 چو او بیدار شد از خواب نالان پیش حاکم رفت
 با گفت آن اعتقاد پیش باطل بود بر گفتند
 چو خواب خود بجا کم گفت حالتش اینچنان دیدند
 چو بکشادند امر قد و وجود شاه سالم بود
 چو قبر شاه ظاهر شد عمارت یافت پس اینجا
 چون آنک فرمستی بگذشت شد جنگیز خان ظاهر
 کسی کم ماند تا گوید که هست آن قد حیدر
 ز ترس مشرکان هر کسکه زین امر از قاف بود
 ازین پس بصد و پنجاه و شش سال دیگر بگذشت
 بوصف ساقی کو ترو صی سید لولاک
 بلخ آورد آن تاریخ را چون شیخ بطامی
 چو سادات اهالی ستر آن تاریخ را دیدند
 بشهر بلخ آمدند بود حاکم باقر اسلطان
 بسوی خواجه خیران روان گشتند نیز آن بود
 چو بکشادند آن صندوق را مجموع شد ظاهر

که اینجا مشهد عالی بنا کردند بس علیا
 و یا اندر عراق و شام یاد دارد مدینه نما
 ز رومی افرا و کذب میگویی نیست اینجا
 همه مردم بهر جانب روان گشتند بی پروا
 گرفتند و روان بردند پیش مرتضی او را
 لنتش کردن درویش را سیه بیدار شد از جا
 سیه کردیده رویش بود ز خمین جمله سرتاپا
 بهین جا هست قبر مرتضی و محبتی احق
 همه رفتند بسوی مرقده از صغرا و از کبریا
 نگردیده سر سوی ز اعضا می علی نجیبا
 روان شد لنگ بینا گشت کور گنگ شد گویا
 بقل آمد تمام مردم بلخ اندران غوغا
 ز ظلم ظالمان ویران شده چنبدین عمارتها
 مزار خواجه خیران نام نهادند بر عمدا
 بامر قادری چون قدیم فرمود بی همتا
 طلوع مطلع ثانی نمودم چون دید برضیا
 بونقی آن یک تلخ دیگر نیز شد سید
 به پیش والیان ملک کردند این سخن افشا
 بامر اوسبی از سید و درویش مولانا
 که ظاهر شد مزار حیدر صفدر دران ما و
 نشانها که میبختند از هر پیر و هر دانا

<p>برون آمدند که خشت سرخی شدت هم خطی که نه باقر اسد الله و صی احمد ولی الله بسال بهشت صد مشتاد و شمش در بلخ نشینید بجهت دولت سلطان حسین باقر از نو هوای او عبیر امیر گشت باد مشک افشان بطوف رو ضنه پاک علی ابن ابی طالب درون خلوت او دوش بودم متکاف حاجی برو برهان مجو دیگر گو اهی فی ازین بهتر دیار قبه الاسلام بلخ امروز در منی</p>	<p>نوشته بود انشا های نیکو روشن اخوانا قسیم النار و الحبت امیر الدین و الدنیا مزار حیدر صفدر امام دینی و عقب مزار صفدر شاه ولایت تازه شد احیا شده آبش کلاب و خاک او از عبیر سارا ز صدق دل کسی آید کشاید جمله مشکما بگوش جان من آمدند از عالم بالا هزاران گنگ کور و کر که صحت یافتند اینجا چو فردوس برین گشته فرخا گشت روح انرا</p>
<p>با تعلق از غیب الهام نمود گوئی تاریخش مقوم ضم بود شد و تاریخ با ظهور نامه</p>	<p>کرد تکریر از برای نشان با تمام این نقش حسنه شد خادم خود میر که امی سلطان ز گفت زبیرت جلالش تاریخ</p>
<p>ساز تاریخ عمر و شهادت امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه از مجرب الو اصلین</p>	
<p>آنکه زوج بتول حق بوده شش ماه و چهار سال کردان بود ماه صیام نوزدهم این سنن بسین بود بصاحب عم شد رقم سال نقل آن اعظم سال نقاش در کتب بیخون</p>	<p>شاه تخت ولایت است علی روز جمعه بوقت صبح نمود که تو سال شهادت من جونی باز سال شهادت من که علی است عمر آن شاه و ائق الاحوال سال نقاش انهم منادی شد</p>
<p>در نجف مرتد منور اوست</p>	<p>آسمان و زمین معطر زوست</p>
<p>صد و هشتاد و سی و دو گفته است سید اسماعیل بغدادی در کتاب خود فیوضات الربانی فی مناقب الشیخ</p>	

۴۰۰

سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ صد و ہشتاد و چہارم گفتمہ است عالم نجوم ظاہر در مناخر شیخ
 سید عبد القادر رضی اللہ عنہ صد و ہشتاد و پنجم گفتمہ است عالم علامہ داؤد ابودی در ملفوظات
 سید عبد الرزاق ابن غوث جیلانی رضی اللہ عنہ صد و ہشتاد و ششم گفتمہ است عالم فاضل
 محمد علی خان در کتاب خود احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار بیان نسب شریف ایشان قدم
 ایشان بر گردن جمیع اولیاء اللہ الکرام رحمہم اللہ علیہم جمعین صد و ہشتاد و ہفتم گفتمہ است
 سردار اولیاء کرام و عرفاء عظام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ در کتاب خود اسرار الطالبین -
 صد و ہشتاد و ہشتم گفتمہ است سردار اولیاء غوث اعظم قطب اکرم حضرت محبوب سبحانی شیخ
 سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ در رسالہ عزیزیزہ خود صد و ہشتاد و نہم گفتمہ است بلوہست
 قطب الدین احمد قادری القریشی در کتاب خود اعجاز غوثیہ بیان نسب شریف حضرت غوث
 ثقلین ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ابن سید ابی صالح موسیٰ ابن سید عبد اللہ
 ابن سید یحییٰ الزاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ابن سید عبد اللہ ابن سید موسیٰ
 الجوشن ابن سید عبد اللہ المحض ابن سید حسن المثنیٰ ابن الامام سیدنا الحسن المجتبیٰ ابن الامام
 امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اشعار در ملح غوث الابرار رضی اللہ عنہ منظوم

<p>ای شمع شبستان ابی صالح موسیٰ ہر صومعہ از پرتو نور تو روشن نبیان حسن چون بصفا سندانقاطر در مہد بدان ماہ کہ نشد ہادی عالم او برحق صفت از کتف دایہ بخویشید ہر کہہ موسیٰ مکتب شدہ آن سر و خوامان در عہد جوانی رخ تو ہر کہہ بدیدہ</p>	<p>شد لمعہ رخسار تو بر طو ربجلی ما شمعشہ زد شمع زخمت در شب یلدا از بحر حسین آمدہ آن گوہر کیمت خود مہدی عہد است زبان گشت چو گویا رو کرد فلک دایہ گیری داشت تمنا نشد پیش و پیش مجسمی از ملاء اعلیٰ از جان و دل خویش شدہ والہ نشیدا</p>
---	--

صد و نودم گفتمہ است عالم علامہ مولانا مفتی محمد سعید در رسالہ خود قول الجلی فی بیان قدمی

”بالیف مسکین محمد مرید محی الدین القادری الحنفی عفی عنہ“

بہار

بده علی رقبته کل ولی صد و نود و دو ^{۱۹۱} و کلم گفته است عالم علامه بحر و بر ابن حجر و رقن اوی حدیثیه و بیان
 قدیمی بده علی رقبته کل الله صد و نود و دو ^{تقدیر} و کلم گفته است عالم علامه شیخ احمد بن محمد و تری موصی رفاعی
 شافعی در کتاب خود روضه الناظرین صد و نود و دو ^{تقدیر} و کلم گفته است در کتاب بهفده مجاز
 و بیان نسب شریف صد و نود و دو و چهارم گفته است در کلمه خلاصه المفاخر ذکر نسب ضعی الله
 عنه و صفت امانت او پس او شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر بن سید ابو صالح موسی اصبغی است
 بن سید ابی عبدالله بن سیدی زاهد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبدالله بن
 موسی الجون بن سید عبدالله المحض و نعت ایضا بالجل بضم میم و تشدید لام من الاجلال بن سید
 حسن الشنی بن امام حسن بن ابی طالب رضوان الله علیهم اجمعین انتهی صد و نود و دو ^{تقدیر} و کلم گفته است
 در حقیقه الحقایق صد و نود و دو ^{تقدیر} و ششم گفته است در حیوه الحیاه صد و نود و دو ^{تقدیر} و کلم گفته
 است در گلشن کرامات صد و نود و دو ^{تقدیر} و ششم گفته است در مخارج القادریه صد و نود و دو
 و نهم گفته است در مرآت الیققان دو صد و دو ^{تقدیر} و کلم گفته است در شجره النساب اهل بغداد
 و ان از قدوة انسا لکین زبده العارفرین سند الکاملین سید التکلمین عمدة الفاضلین المتمسکین بحبل الله
 المتین شیخنا و مرشدنا و سیدنا و مولانا سید محمد صالح الحسنی الحسینی الجیلانی البغدادی العراقی الحنبلی
 رحمة الله علیه و ایشان از بغداد شریف در ربیع تشریف آورده بودند و از ربیع روانه ملک شدند
 حیدرآباد شدند و در شهر رانی پور بقضار اهی بمرض تب شدید جان شیرین بجهان آفرین تسلیم
 نمودند ان الله و انا الیه راجعون تاریخ بیت و چهارم شهر ربیع الاول پوم یکشنبه
 ۱۳۱۰ هجری و سیصد و ده و در انجام فون شدند این است تاریخ وفات ایشان من منظوم

آن مطلع نور ماه عرفان	آن برق تجلی عنایات
آن عارف حق محمد صالح	مفتاح در رموز آیات
آگاه نکات دفته عشق	استاد علوم فقیر بالذات
یکتابی زمان بخلق و رحمت	خوش فکر خوشا لقا خوش اوقات

چون رفت ازین جهان بجنبت بد میت و چهار ماه مولود خونش دل زمره مریدان اخلاص ز روی دروگفته	آن مرشد و کاشف کرامات پرگشت دلم ز ریخ و آفات گلبانگ زنان همه که بهیات شاهنشہ جمع کمالات ^{۱۳۱}
--	---

و این است شجره طیبہ انساب ایشان رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله فاتح اقفال القلوب بذكره وكاشف استار الغيوب ببره ورافع اعلام الزیارات
للقائم بشكره احمده على ان جعلنا من اهل توحیده و اشكره طالباً لفضله و مزیده و اصله و اسلم
على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه افضل انبيائه و عبیده و على آله و اصحابه الكاثيرين
بطويل الفضل و مزیده اما بعد فيقول العبد الفقير المقترب بالعبادة و التقصير الراجي عفوره الوالي
السيد محمد صالح القادري ابن السيد حميس ابن السيد سلمان ابن السيد مصطفي ابن السيد زين الدين
ابن السيد نور الدين ابن السيد محمد درويش ابن السيد حسام الدين ابن السيد نور الدين ابن
السيد ولي الدين ابن السيد زين الدين ابن السيد شرف الدين ابن السيد تمس الدين ابن السيد
محمد المصطفى ابن السيد عبد العزيز ابن السيد السادات قطب الوجود الدرّة البيضاء رمالك ازمنة
المتصرفين راس المحبوبين امام الجواهر المفرد سلا الاحوال قطب الاقطاب الغوث الاعظم الجاهم
بين العشوين السيد الشيخ عبد القادر الجليلاني قدس الله سره الغوث ابن ابي صالح موسى جتكي دوست
ابن السيد عبد الله الجليلي ابن السيد يحيى الزاهد ابن السيد محمد ابن السيد داؤد ابن السيد
موسى ابن السيد عبد الله ابن السيد موسى الجون ابن السيد عبد الله المحض ابن السيد حسن المشقي
ابن السيد امام الحسن رضي الله تعالى عن ابن السيل امام علي رضي الله عنه ابن ابي طالب ابن عبد الله
عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن مقصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوى ابن ابر

غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار
 ابن معد بن عدنان ابن ادا بن ادا بن الہمیسع ابن سلمان ابن جہل ابن نبت ابن قیدار ابن
 اسمعیل علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام ابن آرزو قال ابن تاریخ ابن ناخور ابن شاروخ ابن
 ارغوث ابن فالغ ابن عابر ابن شامخ ابن ارغنداب ابن سام ابن نوح علیہ السلام ابن ملک ابن
 اخنوخ ابن الیارد ابن ادیس ابن مہلائیل ابن قینان ابن النوش ابن شیش ابن آدم علیہ السلام
 ابی البشر و علی بنیا افضل الصلوات و السلام و آدم من التراب و التراب من الارض و الارض من
 الزبد و الزبد من الموج و الموج من المار و المار من الدرۃ و الدرۃ من القدرت و القدرت من الارادۃ
 و الارادۃ من علم اللہ تعالی انتہی و دو صد و یکم گفته است عالم فاضل قاضی طلا محمد پشادری مرحوم
 در کتاب خود عروہ الوثقی در بیان سلسلہ قدوۃ السالکین عمدۃ العارفین مجد الدین مخزن اسرار و
 حصو حضرت شیخ مولانا عبد الغفور رحمۃ الشکور المعروف بابو البرکات مستجمع الحسنات حضرت
 آخوند صاحب صوات علیہ الرحمۃ و التیمسات و تاریخ وفات ایشان منظوم
 من طبع زاد اسوۃ اکرام نقبا سید محمد عظیم شاہ ناظم اعظم اکبر پورہ اضلاع پشادری است

نی دیدہ بود دیدہ و فی گوش کش شنید
 ماحی شرک و پردہ مہر بستد درید
 در معرفت ندید و ندیش بدیدہ دید
 نامش چو نور مہر بارض سہار سید
 بشنید و گوش کرد و بسع رضا شنید
 در روضہ بہشت و براحت میبار
 صد نوک خار غم بل اہل دل خلید
 نیلی لباس در برد پشت فلک حمید
 صد گوئی تیرگی بجان صفار سید

آن مرشد زمان کہ در آفاق مثل او
 حامی شرع و ملت و داعی اہل حق
 و ادبہاد و ادبوان مردی بی
 در شرق و غرب مثل عدیش نبودہ
 چون نفس مطمئنہ اش آواز رحیم
 طوعاً ازین سراچہ غفلت بہوش رفت
 افشوس کہ خزان چنین نو بہار زہد
 زین غم سحر درید گریبان اشک نکت
 افشوس کہ غروب چنین آفتاب علم

ورد او حسرتا و درینجا که بعد ازین
چون طائران قدس ازین آستان تنگ
عبد الغفور شیخ زمان منیرید عصر
تا ریج سال وصل غموی غریب یافت

در صد قرون عصر نیاید چنین پدید
ز دبا لهامی شوق و باوج بقا پرید
در عهد خود مجد و شبلی و بایزید
با تاج هوش رفت و بعشرت سهرجمید

تا ریج من طبع از سر در باوقار محبت نشان سر دار محمد اکبر خان حفظه الله المنان

شنیدم من امروز اه و فغان
بشاهی دولت بنودش نظر
شوخ خردیو نیم ترس جوین
چو میعاد رفتن بسر رسید
بماندم که محنت شد از وی تمام
که خالی بکن ایجهان خراب
نذار او از جانب حق شنید
هشتم ز ماه محرم بدان
ز ایام دی وقت اشراق بود
بشادی بشد سوی حور و قصور
ماعداد تا ریج دین و دود
اگر کینه خواهی بگوید ز کین
ز عاشوره هم بود باقی دور روز
ندانسته و نارسا بوده است
با دل ز آیات حق بی لقیسین
دگر آن ذخائر که او داشته

که رحلت نمود اندر سروران
نه زبدر و زویا قوت و مرجان و زور
بهمت بکردی همه کار دین
ز آنرا رحمت نشان ما بدید
ز رضوان بسویش در آمد پیام
با وای آبا می خود کن شتاب
از اینجا به لبست رخت آنجا کشید
که بدر روز شنبه رفت از جهان
که از غم دو تا گشت چرخ کبود
که آواز ارج شنید از غفور
بگرد از جهان سوی جنت صعود
که چون روز جمعه شد شیخ دین
چرا شد خمش شمع کیتی من روز
که در راه کج رفت از راست جنت
به ویم بر دسوی اصحاب بین
و آن مخم بی که او کاشته

تقدیر

<p>تبقه یرحق بود ظاهر نخست نه این رکن دین شد که باشد مرو بصد با ز کفار در جمع مرد اگر ماده شئی نباشد بکس صحیح و درست است همچنان</p>	<p>چو کافی بس دید دیگر نخست نه در روزهای دگر شد قصور زایمان بخود ذره هم نبرد چه پرها و چه پر گس نه پسندیده گفתי تو ای کامران</p>
<p>تاسیخ دویم ایضا من طبعنا و در صاحب موصوف سپه وزیر صاحب نظام الدوله</p>	
<p>بش از جهان آن شه نامور ضیا بخش دلهای تاریک بود بعصرش مثالش ندیده کسی بسار تبه و جاه دادش آله همه عمر در صوم بود و صلوات نه جیش و نه ملک و نه سامان جز بسا بادشاهان بان و جاه زد دنیا بکوی قناعت نمود همه روز شب خلق جاری بدند بهر کس چنان مهر بان بود بصد با بدندی در اینجا مقیم که بجا و ما و ای شاه و گد همه عالمان و همه فاضلان بزد و بسجا مثل و ثانی نداشت ز یک دشمن دین که پر خوف بود</p>	<p>بیرت ملک بود صورت بشر بشبهای یلدا چون نور مت نه در کوه و دشت و نه در کوه و بر گر و نکر دادش غل و گریه بشاهی دولت بنو دیش مگر صولتش بود چون شیر ز بینه اختد پیش تیغش سپه نیخواست انبوهی شور و شرب گرش راه پر خوف بود و خط که از خدمتش کس نکردی زجر بیاید بهر روز صد ها و گریه بد آن رشک حاتم بدان خوش گم به مثل میمان شد ندبی پدر بزدش چه خاک و چه خردار زر به برودند او را بدار السقر</p>

پس آنکه بفارغ دلی رو نهاد
 چو شد نام نایشش عبدالغفور
 محرم بدو هشتم شنبه نیر
 زستان و اشراق بود از زمان
 ز اطراف پشاورش صوت دران
 بهمانجا شد مرقد پاک او
 همه شکر نیردان بجا آورید
 خداوند عالم برومند ساز
 برای میدان صاحب یقین
 بکفتم دوست چار فرد درست
 پرسیم از سالک راه دین
 بکفت فدای میبده باو
 بر آید هزار و دو لیست و نود
 اسد واقعی وصف آن پر کرد

بدینرو استمان جنید البشر
 بغض پناهی بر آورد سر
 که راهی شد و سوی رب البشر
 صحیح و درست است هم معتبر
 که هم بود هم هست او را معتبر
 که کردی وضو شام گاه و سحر
 که هر جا نشینشست چون گل پسر
 که از اصل پاکست نیکو سحر
 بدو این سخن را تو شیرین تر
 که هم راست هستند و هم مختصر
 که از سال نقاشش چه در خی بر
 تو اعدا و پیغمبر ما سنه ۱۲۹۵
 علاوه دگر پنج اس پرهنر
 که شیخ اجل بدو روشن نیر

و این است سلسله منظوم من طبع از عالم فاضل سید قاضی حاجی طلا محمد عارف الله الصمد

بسم الله الرحمن الرحيم

یا رب بجلال و جمال خود بر بنده زار خیرین مدد
 دل در شغف دنیا طلبی الله از زمین بی ادبی
 روزانه ز تفرقه آفسرده در خواب بشبها چون مرد
 در کند تو وهم و خرد گره سبحان الله سبحان الله

وز بحر عطا و نوال خود بر تنه ما زمین مدد
 وین نفس غومی در بو العجبی یا الک یوم الدین مدد
 این بنده بهرزه بس برده یا بار خدا لعین مددی
 عالم ز گنه گردید تبه یارب تو برین غلبن مددی

ای مفرح کل می شاه رُسل ظاهر ز تو شد این جمله بل
 ایواسطه فیض ازلی در جمله جهان خود بی مشلی
 لولا که طرازی بر تاجت بر تر ز فلک شد معراجت
 ای صدف درین ویشاه علی آتار که امات تو جلی
 براج خلافت تو شاهی در ملک سعادت خود نشانی
 ای آنکه وحید اندر عصری در علم و معارف الاحصری
 ای صد شین مقام کرم وی محرّم مفضل فیض اتم
 ای آئینه انوار بنی از جمله جهان خوشش منتخبی
 ای قدوه دوده غرور کم کنون ضمیرت بحر کرم
 ای آنکه بری از هر غلطی در علم و عمل زیبا منطی
 ای شیخ جبیند فیض کرم سالار جهان و امام امم
 بو بکر همین سامی رتباد را بل صفا شملی لقب
 ای بر شرف عالم شاه کس نیست تو بهرگز جاحد
 ای یوسف مصر جمال بهای وی واقف ذروه غرور علا
 اکبر شرف خاک قدرت عالم بگی غرق نعمت
 خورشید بهی مقبول خدای جالس صنفه صدق و صفا
 ای از نوکر آنها صاهور در جمله جهان شملت نادر
 ایدل هرگز تو بهر زده پیوسلطان جهان شهید اول
 برین بنود کچو بهتری از صدق صفا هرگز اثری
 مانگی زلم ز میسان عالم تا کی ز خطر شبها نالم
 از فرط جیا کاین ادبی وز غرور شرف عالی نسبی

از نور تو شد پیدایش کل ای هبوط روح الامین مددی
 و حضرت اقدس لم یزلی طابا لقب یا سین مددی
 توحید الهی منها جت از لطف برین مسکین مددی
 مولانا و طاع کل ولی ایضا حسب تاج و کلین مددی
 ای یحیی یقین اسد الهی در معرکه شیر عزمین مددی
 شیخ کامل حسن بصیری ایقدوه اهل یقین مددی
 سلطان جهان و حبیب عجم ای جالس علیین مددی
 داؤد همین طای نسبی ای مفرح اهل زمین مددی
 معروف ز کرخ و ملاذ املم ای ناصر دین متین مددی
 سلطان جهان سری سقطی بر زمره معتقدین مددی
 بغداد از تو شد رشک ارم ای سور عرش نشین مددی
 عالی نسا و الاحسان خورشید سپهر یقین مددی
 مخدوم جهان عبدالواحدی سرور صدر گزین مددی
 طرطوس ز تو شد نور افزای سرور ابل بین مددی
 ای ابوالحسن از لطف و کرمست بر جانب متمسکین مددی
 مخدوم جهان مخدومی مای ماسک جمل متین مددی
 اعنی سید عبدالقادر یا شیخ محی الدین مددی
 آنکه بضر اعتماد میگو کای ساکن خلد برین مددی
 ای شاه منور کن نظری وی مونس کرومین مددی
 ای مفرح جهان شاه عالم جرسته زار عین مددی
 در ابل صفا احمد لقبی بر عرش امین و کلین مددی

ای شیخ جنبه حجتہ تعادرم زجنا بت چشم شما
 ای شیخ صدیق جهان سرور و صدق و صفا مشهور و ستم
 ای شیخ محمد او قائم آشفته شده از عسب ما تم
 ای شیخ شعیب ولی اجل ای آئینه اسرار زل
 ای عبد غفور نجسته نشان فایض بتوشد اینجمله جهان

یکره ز کمال نوال و عطا بر جانب مہوفین مددی
 ہستیم کنون در خوف و خطرای سرور صدیقین مددی
 شیخ تیرہ خطیای تم ای حافظ نور بسین مددی
 در خاطر سن صدر بخ و ظل ای شد شیخ و مہین مددی
 صات از قدم تو نظیر جنان بر حال طلای خزین مددی

قسم دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بجز عشق ز نورق رانده ام از ہمت والا
 بفضل اللہ دین زورق بام از خطر ایمن
 خداوند بقبولان در گاہ جلال خود
 بجاہ احمد امجد رسول ابیض و اسود
 بتوصیف جالش و الضحی خوش آیتی روشن
 و فی ادنی مقام اوزا و حینا پیام او
 بقدر حیدر صفدر مجبشہ ساقی کو اثر
 قہن سندا شا ہی سہ دست ید اللہی
 بزہد عارف بصری حسن آن مخمہ درون
 بسوز عارف سامی حبیب ان مرشد جانی
 بروح شیخ داؤد انگہ اندر عالم از وی شد
 براز شیخ دین معروف کرخی عارف کامل

بیای شہ طہ لیم اللہ مجبہ بہا و مرسیہا
 چه پاک از موج چون شند فوج کشتیان این دیا
 کہ لا خوف علیہم کردہ در حق شان انہا
 جلس قاب قوسین افتخار صدر ما اوحی
 بتعرف سواد موسی او و لیل اذ بغشی
 تدلی احتشام او دلیل قدرش ارسلنا
 بقوت قانع خیر ملک دین شہ والا
 بذات مصطفی از مہر چون ہارون من موسی
 کہ دارد از علی مرتضی خوش حصہ او فی
 عجم از نام او نامی عرب بر یاد او شیدا
 اساس علم و دین حکم بنامی شہ پارچا
 کہ در یاد حق از ہر دو جہانش بود استغنا

۱۵

بسترتری سقلی امام کثور ایقان
 بزهد شیخ بغدادی جنبیدان افضل دوران
 بین شیخ ابوبکر آنکه شبلی شد لقب اورا
 بحق شیخ عبدالواحد آن خورشید نور افشان
 بشوق بو احمسن آن آفتاب اوج لاهوتی
 طفیل شیخ عبدالقادر حبیلی که در عالم
 پیر نادی که نام نامی او در بیان آید
 بفر شیخ سید احمد مستان که در وصفش
 بجد شیخ سید احمد آن شاه سیر دین
 بشوق قدوه اهل یقین و افضل دوران
 بحکم آن بهاء الدین که عالم روشن از وی شد
 بروح کش شیخ یاسین آنکه از سطر نام او
 بعشق سیدستان بصدق شیخ زین العیز
 بذکر آن غیاث الدین بفر شیخ خیر الله
 بر از شیخ دین معصوم که فرقدوم او
 بزهد آن جنید ذوالعلا که همت عالی
 بصدق شیخ صدیق آنکه باشد معدن یقان
 بان پیر طریقت شیخ و الا منقبت اعنی
 طفیل شیخ ما عبد الغفور آن که ز علوشان
 آبی از طفیل خاصه گان حضرت عزت
 با سید کرم اینک بدر گاه آمد م یارب

و جید عصر خویش از فرط علم و دانش و تقوا
 امام مشرق و مغرب امیر دینی و عقبی
 هایت طرز نوازش بحکم جاهد و فی سنا
 بصدق یوسف طرطوسی آن بهر فلک پنهان
 بذوق بو سعید آن مقتدا و اکرم و اتقا
 کراماتش بود خارج ز کثرت از حد اخصا
 زبان و عقل و دل گوید تقدس سره الاعلی
 قلم عاجز شود اندر بنان صاحب املا
 بجد شیخ عبداللہ آن ناه جهان آرا
 مہ برج شرف سید جلال الدین والد دنیا
 بشیخ متقی سید جلال آن مرشد و آلا
 مداد خامه فایق میشود بر عنبر سارا
 بحق عبد رزاق آن طلیس نادی اعلی
 مہر حاجی سید امام و مرشد و مولا
 پشاور شد منور چون بہار جنبت الما و
 فشانده دست رویک برین نیا و ما فیما
 بنجد و مہ جهان حافظ محمد زاهد کیت
 شعیب ذوالکرم که فیض دریا یست گوہر
 کراماتش ز کثرت عقل نتوان کرد استقصا
 کہ از لطف و عنایت مطلقا راجعتی
 بحکم ربنا فاغفر لنا یارب و ارحمنا

قسم

بسم الله الرحمن الرحيم

سیوم

وگر نه که اکابر دین سخن رسا غم بر اوج و آلا
سواد این نطق سیم با شالوش نو ده کلک نهی مرتب
میهنما قاراکر یا بجای حنیف البشیر محمد
تقین و سیم بادشاهی طلیس او رنگ دین پناهی
شفیع است بنی حجت که بی رضایش ملک عالم
اگر طبیعت نه مایه گیر ذرفیض انعام و بخشند
میقبض خیر و عطا کرد و اگر وجود کرم نشانش
سختی حیدر امیرش که جلوس کوثر بر و مجتهد
سخا بجایای سیرت او کرم شمار سیرت او
سخت سلطان ملک و کشور حسن که عالم از دست او
بغزت آن حسیب کامل ولی مشهور در فضائل
بصدق آن عارف خدائی ستوده داود شیخ علی
حضرت پیر کرخ و عارف که او دست معروف در عارف
بجست بود الحسن که سری شده است نام مبارک او
بجست آن عبید سامی سمر ب عالم بخش کلامی
بحسن اخلاق شیخ نشلی صاحب بوده محیط یقین
بغزت بو الفجر که گیتی ز نور ز بهش بود نور
بجست بو سعید امجدین اسرار بزم احمد
بنور با شمس ظاهر سپهر فضال عبد قادی

و شایعون من کریم بسمه المجرت تعالی
او شایع فقد تلت مثل شیندم ز پروردانا
که شد طفیل وجود دانش ظهور آدم بر وزوا
که داده بر فضل او گو اهی طراز یاسین نقش طاب
چنان زیندیش و رخ نغفی فلک زیندیش
مژ ز قصبان گل انگلستان ز راز معادن گهر زوریا
نما کرد و طیر باران زمین نرود و گلا و خضراء
بزم سرور بر زم صفدر امام بزم امین تقی
که کرم الله وجهه شد بحق او از پیمبر انشا
بفرق صدق رسد او در فضل و علم و کمال کتب
عجم تو صیفا دست سائل عرب تبعلیف او
سمر دوران بر بنامی حلیس و اعلی بقدر سنی
بری ز دنیا راز و زخارف فدا شده در رضای مولانا
بسرو اطوار شیخ عارف بچکر اسرار عشق و دانا
بجان گرامی بنام نامی بعلوم نور شید عالم آرا
بصدق اخلاص عبد واحد سپهر عرفان میان دنیا
بقدرت بو الحسن که دانش بود ز تو صیفا عظم بالا
که اصل عز و سعادت آمد بذات فیاض او تو لا
بزم با هر باصل طاهر این اسرار حق تعالی

بحسن یوسف بدست موسی بسم خضر و بکلم عیسی
 بجزرت پورشیح الکر که بعد رزاق نام او شد
 بعزت آن شرف که آمد دلیل غر و شرف کماش
 بشوق سید عقیل فزیشان بذوق آن شمس چرخ عرفان
 بنور آن شمس ذوالمعارف بسیر سید کمال عارف
 بعزت و مجد شه سکندر که او ملک صفاست سرور
 باه گردون کامرانی بسر و در کشور معانی
 بجزرت شیخ سید آدم امام ابدال فخر عالم
 بشیخ نومین ولی کامل شیخ صدیق ذوالفضایل
 بان شعبی که کشور دین بنور زهدش منور آمد
 بصاحب صامت ذوالکرام سحاب راغبت فیض رحمت
 طلای محزون زربنج سید بود زمین غنوم سعید
 من و کله انی بارگاهت فانت حبسی و انت ربی
 درین سپنجی سرای دورن امید بچشم زشتت یارب

بنی نگوییم ولی است اما صفات هر دو در دست پیدا
 سپهر رفعت سحاب رحمت محیط علم و فیض عطا
 بجزرت آن بهای نامی که دوست روشن جهان معنی
 بعشق سید گدای رحمان به بواحسن جرش دل آرا
 بجزرت آن فضل کما دلیل سید کمال والا
 مویذ علم و دین اهد مر قوج زهد و شیخ و تقوی
 مجد و دین بالف ثانی انیس بزم زمینیق اسلی
 بعزت آن حبیب الکریم شیخ شه بازر رحمت انسا
 بان محمد که گشت حاصل در او ولایت بنظ او فی
 ولی کامل آیین فاضل میر منور شر معلما
 که قدس الله سره شد ز کاک قدرت بناش املا
 بزرگ باری خدای امجد بحال زارم کرم توفیر
 بغیوات کرم سمات مرانه بلجا مرانه ما و
 فان رجونا فنک نرجوا وان حشینا فنک نخشی

فستم

بسم الله الرحمن الرحيم

به چهارم

شخصتین میکنیم آغاز از تجمید سجانی
 خدائی که تقدس در خیال کثبات او
 شه همنشاهی که پیرامون در گاه جلال او
 از کهنش و هم بستر مانده در مطوره بخلت
 بعالی حضرت او کس ملک هم ره نمی یابد

ز بسم الله الرحمن الرحيم این نظم نورانی
 نه بند و طرف عقل نکته دان جز بهر زه گردانی
 سلاطین را ز خاک سجده باشد فزایشانی
 جو صفش عقل بالین کرده از زانوی نادانی
 بود امر محال آنجا مجال عقل انسانی

زورگاهش خرد میاوس و مخزون از برون در
 و لا مانند طفلان چسبده گاهی خاک و گاهی گل
 دل از تقسیم دستا و نزل مهور کن تا کی
 فرشته وار از نیت تعلق شو بری تا کی
 فیوض عالم بالا همیسا بهر ایشارت
 خرد را خادوم دنیا کن زیر که خوش نبود
 بغیر از کمب رهوار این وادی گرد دلی نه
 بجان خویشتن بی مهر و از سوز زیان فارغ
 اگر قربان کنی جان را بر ای تیرت مولا
 بد امان بزرگان دست زن گرد سترن لاری
 درین قوط الرجال اکیه بکاران بشو این
 بسیرت مظل و زهر و زخم و خنجر بران
 هذب کرد ظواهر از عصا و شمله و فرشته
 ضراعت را ز خود گسل سعادت گرهی خوی
 اگر عرفان زنجوایی بشیخ ماتوسل جو
 تعلم گر کنی یک لمح در بزم کمال او
 صفا سنهاج رای او دو عالم و در تناسلی او
 سپهر معرفت عبدالغفور آن کز علوشان
 بکنون صنیر او نهان سر خداوندی
 نگردی فضل در تادی ارباب علم و دین
 نسیم مودنه رضوان بصدقت شاهی باشد

بچ قهقری آمد دل افکار از پیشانی
 سر باز بچیه تا کی اندرین لعبت مگه فانی
 دل آسایت مویز و نقل چون طفل دستمانی
 چون بختی در زمام قهر ازستی و جیوانی
 تو در بیت اخلا الوده اقدار نفسانی
 پر طاکو حسرت ساختن صرف گس رانی
 که این ره سنگ لاخت و نیاید کار پالانی
 سر لپارد و در اعضا چرا غافل زورمانی
 ترا بهر مبارک باد آید عید قربانی
 که آمد فاقه بنوعیه الوسیله حکم ته آنی
 که این پیران لایعنی شوی آند تو نیرانی
 بصورت سجد و سجاده و محراب پیشانی
 نهان زیر مرتع کارگاه مکر شیطان
 مشوا این ز کید نفس اگر جو یای ایانی
 که فیض یک نظر بخش ترا ملک سلیمانی
 رموز معرفت یکسر بود همه بر خوانی
 بود آن خاک پائی او به از کحل صفایانی
 بدار الملک جان او را سنده صدر جهانانی
 ز سیاهی بین او درخشان سیرزدانی
 صفا و مودم و دران اگر درگاه او دانی
 حریم مجلس او را اگر باغ ارم خوانی

برای زینت فردوس رضوان دستبر بند
 ز نور صیقلیتش و رکبہ جان شمع تابان نہ
 کنون سازم رقم اسمای شیخانش مگر نبرد
 بچہ اللہ کزین نظم چہارم کریمی بہت
 خداوند با سلطان رسل خیر الہ شد احمد
 جلیقن مجلس اعلیٰ انیس بزم ما اوحی
 بحق شاہ مردان حیدر صفدر کہ از غرت
 بحق آن حسن کہ حسن اخلاقیش معطر شد
 بذوق و شوق سلطان عجم آن سرور عالم
 بحق شیخ دین داؤد طائی افضل دوڑان
 بحق شیخ دین معروف کرخی عابد زاہد
 بحق آن حمید ذوالکرم کہ شد ز علم و دین
 بحق شیخ شبلی شمس فلک گوید جزا کہ اللہ
 بزہد یوسف طرطوسی آن خورشید نور افشا
 بعلوم و احسن آن قدوہ اعصار در عرفان
 بحق سید السادات غوث عصر قطب بین
 معنی آن کہ از فوط کرامت کشتی غرقہ
 بحق عبد الرزاق آن نہال دو حرافت
 بان سید بہا الدین مہ تابان علی بین
 بان سید عقیل ذوالعلا آن مخیر عالم
 بسید شمس دین آن مشرق النوار لاہوتی

بھار حسن تقریرش نماید چون گل نشانی
 بجائی گزیمخواہی ز خاطر ہای ظلمانی
 طفیل شان سعادت مر مر اندامید ارزانی
 بچار ارکان مرتب گشت چون اوزنگ قاتی
 شفیع روز مشہ بہ آیات نہرمانی
 رئیس شہرب و بطجار رسول انہی و جانی
 بجیل اولیا اورا رسد دعوائی سلطانی
 بسان روضہ رضوان فضا می بزم روحانی
 حبیب اہل معنی واقف اسرار پنهانی
 ظہیر دین و سالار طریقت قطب ربانی
 بحق عارف سری لقب فخر مسلمان
 رموز عشق را کاشف بنا می زہد را بانی
 بحق عبد واحد کوشش ملک ساز و بناخوانی
 بصورت یوسف ثانی بمعنی پسر کنعانی
 بکلمہ یسعید آن مخزن اسرار بانی
 سعید بلکیان اعنی محی الدین جمیلانی
 پس از عمری رسا مذکور کنار ز کعبہ طوفانی
 بشیخ دین شرف وجود و احسان ابر نیسانی
 کہ باشد خدمت خاک درش بہتر بر سلطانی
 کہ دار و عقل بہتر کمالش آن سرین خوانی
 بان سید گد آن مظهر الطاف رحمانی

بخواجده بو حسن سلطان تسلیم و دل و دلتش
 بشمس الدین و بهم خواجده فضیل شہ کمال الدین
 بحق آن مجدد کو نموده از سه ہمت
 بحق آدم عالی نسب کز جمع صدیقان
 بان والا حسیب اعنی بہادر مرشد کمال
 بصدق شیخ مامون آنکہ اندر نسبت پیش
 بزہد نفس دوران نعیم ذوالعطا کز وی
 باخلاص محمد شاہ کز فیض نوال او بند
 بصدق صادق و مصروف اعنی شاہ صدیق
 باخلاق محمد آنکہ اندر راہ عشق آمد
 بشیخ دین شعیب ذوالکرم دریا رگو ہر زا
 بقطب عصر و غوث دہر کا نذر طاعت و لا
 امام اسلمین عبد الغفور آن آفتاب دین
 بیزم او اگر مقری شود حاضر بلا کلفت
 برسوم غالبہ جو رجان گشت ہی جوید
 خداوند ہا تمام طلا بخش از فضل خود
 بحق اکل احمد بخش بر حال جوان مردی

بنور شمس عارف فانی اندر عشق حقانی
 بحق شہ سکندر و در معارف شیخ لاثمانی
 بدورالف ثانی دین احمد را نگہبانی
 چو او در تہ معنی کس نکرده گرم جولانی
 کہ شکلاہا ز نام نامی او کسیدہ آسانی
 مرا مامون نمایار ب ز تسویلات نفسانی
 مروج گشت رسم زہد و آئین خدا دانی
 دل طالب تفاقہ میکند بر گنج شایانی
 کہ کردہ نام و بر نامہ رشا دعوانی
 ہدایت بخش از رہ رفیگان تیسہ حیرانی
 کہ دار علمش از فرط تجر و صفت عمانی
 بود باقی بذات ایزدی و ز خویشتر فانی
 رئیس کشور عرفان و خاص الخاص یزدانی
 عیان بیند ز سیاحتی چہینش نور ایانی
 چو خلق اکرم او عام سازد عطش حسانی
 کہ رضائی و دیانی و حسانی و منانی
 کہ کردہ خاص من بہر او این گوہر نشانی

پس میگویم من بدانکہ این جملہ علماء و فضلاء و صد و یک نفر اندر جمعہ اللہ علیہم جمعین اکثر ایشان اکابر قطار
 و عمدہ اصصار و در میان ایشان اولیا و عظام و علماء رفخام محدثین موزین و تقویین کہ ام متفق الکلام اند
 و مطابق و موافق اند بر شرافت و نسب شریف جمیل رضی اللہ عنہ و نیست در میان ایشان خلاف و
 احوال ضعیف و بعضی از ایشان قبول کرده اند از دفاتر عتیق و در نسب ایشان و بعضی از ایشان استفادہ کرده اند

بتواتر که نسب شریف سیادت ایشان ثابت و تحقق است و خلاف و کذب نیست در آن و
 بعضی از ایشان بکشف اخذ کرده اند که ظاهر و باهر است نسب شریف غوث رضی اللہ عنہ و
 مولانا علی القاری رحمہ اللہ الباری در نزہۃ الخاطر آورده است کہ اجماع شدہ است
 برین کہ حضرت سردار ما شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سید است شریف بہت
 از طرفین از ابوبین و امامین شریفین امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما از ابتدا الی انتہا
 و بتواتر و تصحیح ظاہر است مانند کتاب نصف النہار و کسی شک ندارد و نہ نزاع و نہ تاویل و نہ
 دفاع چنانچہ واقع شدہ است اجماع و این غم است از برای بتدعین و انقض اہل زینب و نفاق
 اللہ تعالی نگہ دارد بحجرتہ النبوی علیہ السلام از مکر حاسدان مکرانان و گمراہ کنندہ گان کہ حسد دارند
 و مایان امید و اراز رحمت پروردگاید بایشیم کہ ارحم الراحمین است پس نسبت حاجت بہ برهان دلیل
 کہ قائم کنیم بر نسب شریف واضح است و روشن است و مشہور بہت در ہر اوطان نیز باید دانست
 کہ آداب و حقوق اہل بیت سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیز بسیار اند صاحب تہنئۃ الضالین میفرماید
 خاتم المجتہدین ابن حجر مکی در کتاب حسن التوسل نوشتہ است کہ بحب احترام الشریف والرعاۃ لولو
 صف القرابۃ الذمی لا یسلب عنہ بما یری بہ من الابدلع والرخص بل بحب معہ ان یتحاشا عن
 سبہ ونحوہ لأن الولد العاق لا ینتہ العقوق من الارث والانساب والنظن الجہیل فی نحو
 الصدیق والفاروق یعقو عن وقع فیہ عن اقارب احبا بہ فعلیک بحسن الطریق الشفاء اللہ مجتہد
 اصالة لذوی الجنایات من اہل البیت اذ ہم المذہوب عنہم الرحیم المطہرون تطہیر اہل البیت
 القرآنی حتی فہم بعض الاکابر من الآیۃ ان احدہم لا ینخرج من دار اللہ نیا حتی یطہر من اللہس
 المعنوی بمرض ونحوہ و یوقیل موتہ و از یدک ان بعض الاکابر قال اذا وجب علی احدہم حد
 شرعی اقمناہ علیہ علی سبیل ان العبد یطہر رجل سیدہ من قذر حل بہا و شیخ فرید الدین عطار در تذکرۃ
 الاولیا میفرماید کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یکبار در میان درس دہ بار برخاست و پیشست
 گفتند چہ حال است گفت علوی زادہ برد بازی میکند گوی و چوگان میبازد و ہر بار کہ در

برابرین آید حرمت او بر ابرای خیزم که روان بود و فرزند رسول علیه السلام بیاید و من بر نخیزم انتهی و اما شمرانی
 در بحر المورود می طرز اولاد یعنی لنا ان نزوح شریفه الا ان کنا نعد انفسنا من خد اعمالان الشریفه
 بضعة من رسول الله صلی الله علیه و سلم انتهی و شیخ الهند در اخبار الاخیار از شیخ امان یانی پی
 نقل میکند که علامت کمال محبت آن است که از محبوب مبتعلقان او تجاوز کنند پس علامت کمال
 محبت حق آن باشد که محبت او متابعت پیغمبر کند و علامت محبت پیغمبر آنکه محبت اهل بیت او
 سرایت کند نقل است که اگر در وقت درس آواز طفلان سادات بازمی کنان پیشینیه در آن کوچه
 می رسیدند او کتاب در دست بگیرتی و بایستادی و ما و ام که ایشان استاد بودند می اورا مجال شستن
 نبود می انتهی و نیز شیخ الهند در وی بقرم می آرد که قاضی شهاب الدین رساله دارد مسمی بمناب
 السادات در آنجا دو عقیدت و محبت بر اهل بیت نبوت سلام الله علیهم جمعین داده است
 سعادت و موجب نجات وی در آخرت آن خواهد بود انشاء الله تعالی باعث تصنیف آن
 رساله را چنان گویند که در زمان اوسیدی بود که اورا سید اجل گفتند از اکابر وقت بود ولیکن
 جمال نسبش از جلایه علم و فضل عاقل بود غالباً قاضی اباوی بعضی محافل ملوک در تقدیم و تاخیر
 مجلس نزاعی شده بود در اول قایل شد با فضیلت عالم و تقدیم او بر علوی عامی بعد از آن
 بتسویه عالم غیر علوی با علوی غیر عالم درین باب رساله نوشت گفت که عالمیت ما مشخص و متیقن است
 و علویت شما مشکوک پس ما را تقدیم و ترجیح بر شما ثابت شد استاد قاضی شهاب الدین ابن
 معنی از وی ناخوش آمد و مزاج حالش از وی منحرف گشت قاضی ازین معنی برگشت و در
 مناقب سادات و فضیلت ایشان رساله نوشت و از آنچه گذشته بود اعتذار نمود و بعضی
 گویند که حضرت سرور کائنات را علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات بخواب دید که اورا ازین
 معنی تنبیه میفرماید بر استر ضا سید اجل مذکور تحریص بنماید قاضی پیش سپید رفت و توبه کرد و
 رساله نوشت انتهی این حال نفس سیادت و عوام سادات است پس حال کمال سادات چه
 خواهد بود مقتدایان جهان اند و جمهور سلسل راجع بایشان متولانا در دهلوی در بهجات بیان

نسبت اولیہ می نگارو بر سر انہی کہ درین عالم ظاہر و باطنی و صورتی خاص ہست ازین عالم کہ جو سے
مغیوث میگردد و در بیان اعتبار توجہ عالم غیب و ہیکل این برزہ مثالیہ حضرت پینیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و از است آن
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول کسی کہ ناسخ باب جذب شدہ ہست و در انجا قدم بناوہ ہست حضرت امیر المؤمنین
علی انکرم اللہ وجہہ و ہذا سلسلہ طرق بدان جناب راجع میشود و در حقیقت سلسلہ اولیا بسوی ایشان ثابت انتہی
و مولانا عبدالرحمن جامی در سلسلہ الذہب آورہدہ معنی انما یوحی اللہ

<p>معنی انما یوحی اللہ کہ جذرا از لوث رجس فساد نیست پوشیدہ بر ذوی الالہنام چون بود رجس ذلت و عصیان پس ہمہ اہل بیت مغفورا ند از گنہ چون بری ست ذمہ شان از معاصی مدار شان معصوم</p>	<p>این بود نزو عارف آگاہ ہست تطہیر اہل بیت مراد کہ بود رجس بدترین اٹام نیست تطہیر آن بجز غفران وز عقوبات آخرت دوراند نتوان بہر آن مذمت شان وز ذنایم ساز شان مذموم</p>
---	---

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث قدس سرہ کی تفسیر میں بھی مفصل مرقوم ہو دیکھ لیو اور ابن حجر کی صواعق
میں یہ حدیث شریف لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يعرف حق عترتی فالحدی
ثلث اسانفاق و اما ولد ذینہ و اما حلتہ اما من غیرہ یعنی فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص
کہ میری آل کا حق نہ پہچانے اور ان میں وجہوں سے ایک وجہ ہو گا یا وہ منافق ہو یا ولد الزنا ہے یا او سکی
مان کو حیض کے وقت حمل رہا ہو انتہی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث شریف روایت کئے ہیں کہ من
ابغض اہل البیت فهو منافق یعنی جو شخص کہ بغض رکھا اہل بیت سے پس وہ منافق ہو اور ویلی یہ
حدیث شریف روایت کئے ہیں کہ اشتد غضب اللہ علی من اذانی فی عترتی یعنی سنت ہو غضب اللہ
کا اس شخص پر جو ایذا پہنچے بسبب عترت میری انتہی کذا فی فضل الخطاب تصنیف سید محمد امین شاہ دیوبند
باب پہلا اور بیان نسب شریف و سیاوت حضرت غوث الثقلین قطب الخاقین

صفحہ ۲۰۹
پر

صحیح النسبین کرم الطرفین محبوب جانی غوث صمدانی قطب بانی عارف حقانی قندیل
نورانی غوث اعظم و قطب کرم شیخ شیخ عالم سید السوات غوث الارض و السموات شیخ الاسلام
والمسلمین حضرت اشیح ابو محمد محی الدین سید عبد القادر حسنی السعیدی جیلانی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا

نسب سیادت شریف صحیح اور متحقق ہو اور ثابت ہو روایات ثقات معتبرت علمای مجتہدین کاملین محدثین مؤرخین
و اولیاء عارفین سے اور صاحبان تصانیف ان سب بزرگواران صاحبان کتب عربی فارسی ہندی دوسو
ایک کتاب سے تحریر کیا ہوں مع عبارات اصل کتابوں کے تحقیق عمیق و تدقیق سے ثابت ہو نسب سیادت
شریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کسی علمای اہل سنت و جماعت نے خلاف اور انکار نہیں
کیا ہو اور نہ کیا کر لفظی یا بدعتی یا جاہل یا معاندینے دشمن یا سنیہ بے عقل و نادان یا اہل نریغ جسکے ولین
عناد اور کدورت ہو اور اعتبار نہ کرنا چاہئے کہنا اہل نریغ و روافض و بدعت و معاند و سنیہ کا کہ گمراہ ہیں اور گمراہ
کرنیوالے ہیں اور نسب شریف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مانند آفتاب نصف انہارے بلا شک و شبہ سادات
اصل طیب طاہرے ہیں شک اور شبہ نہیں ہو اور اجماع ہوئی ہے اسپر کہ سادات ہیں اور حد تو ان کو چھپا ہوا نسب
شریف کہ نسل اور صلب سادات سے ہیں جانب پدر اولاد امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتہبی رضی اللہ عنہ
کے ہیں اور جانب مادر اولاد و شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں اور روایات و عبارات کتب کا ترجمہ
بحسب مسطور الذیل کے لفظ انصاف سے ملاحظہ فرمانا اور تحقیق عمیق سے دیکھنا کہ ثواب پاوین اور حصول نعت
عظمیٰ کرین اور نظر فاسد کو ترک کرنا اور منصب ہونا اور تفصیل کتابین عربی و فارسی و ہندی کی یہ جو اول کہا
عالم علامہ جہانگیر شیخ الاسلام زین الدین ابو الفتح عبد الرحمن بن شہاب الدین احمد بن رجب علی بغدادی دمشقی
رحمہ اللہ نے اپنے طبقات میں کہ وہ صحبت و ارادہ امام احمد حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کا ہو نزدیک ترجمہ سرور اولیا اور امام
اصفیا ابو محمد محی الدین سید عبد القادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ عنہ بیٹے سید ابی صالح موسیٰ حنبلی و دوست
کے وہ بیٹے سید عبد اللہ علی بغدادی زادہ شیخ عصر و قدرة العارفین اور سلطان مشایخ کا اور سرور اہل
طریقہ کا اپنے زمانہ میں محی الدین ابو محمد صاحب مقامات و کرامات اور معارف و احوال انکا مشہور ہو اور متصل

بے نسب شریف غوث رضی اللہ عنہ کا تاجناب امیر المؤمنین سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے اور
پہنچے زیادہ ہر سید عبد اللہ بیٹے سید سیدی زابد بیٹے سید محمد بیٹے سید داؤد بیٹے سید موسیٰ بیٹے سید عبد اللہ
بیٹے سید موسیٰ ابن چون بیٹے سید عبد اللہ محض بیٹے سید حسن ثقی بیٹے امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ
بیٹے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابرہاب رضی اللہ عنہم کے اور تولد ہوئے سنہ چہار سو ستر میں یا سنہ چہار
سواکھتر گیلان میں دو م کہانقیہ البندیہ علامہ امام اکمل ابو عبد اللہ حسین بن عبد الرحمن اہل حبشہ یعنی
شافعی نے اپنی تاریخ مختصر میں جو تالیف کیا ہے ۱۲۰۰ آٹھ سو چھبیس میں نزدیک ذکر حواوش (۱۳۶۰)
وہ بیان ہو کہ حسین وفات پائی قطب اولیاء حمی الدین سید عبدالقادر ابن سید ابی صالح موسیٰ ابن سید عبد اللہ
ابن سید سیدی زابد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ بن سید عبد اللہ بن محمد بن سید عبد اللہ
المحض بن سید حسن المثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی بن ابرہاب قدس اللہ روحہ و ارواحہم اور نسبت
گیلگی ہوساتھ جیل کے وہ شہرین میں متفرق سوائے ظہرستان کے وہاں تولد ہوئے اور کہتے ہیں اوس
شہر کو جیلان و گیلان اور وہ نواسہ ہوسید ابی عبد اللہ صوملی زابد حبشہ کا اور اجل بیٹے بڑا شاخ جیلان
کا ہوا و احوال ولایت اوکھا ظاہر ماہ ہے سید یوم تیسرا کہا امام قدوہ زابد پارا عارف پہنچا والا اللہ کا عقیقہ
ابو محمد بن اسعد بن سلیمان باغی نے اپنی تاریخ خوات الجنان میں قطب اولیاء الکرام شیخ الاسلام رکن الشریعہ
و علم الحقیقہ و واضح اسرار الحقیقہ حامل لایہ علماء المعارف و الفاضل شیخ الشیوخ و قدوہ الاولیاء العارفین
الا کا بر استاد الوجود ابو محمد سیدی الدین عبدالقادر بن سید ابی صالح موسیٰ جلی دوست جلی سنی شریف
قدس سرہ و نور ضریح انتہی چہار تم کہا خاتم حفاظ ختم کر نہ الا یاد رکھنے والا محدثین صاحبان حدیث و ارث
میراث لینے والا جمیع علوم سلف صاحبین کا سنی سلف کا یہ ہے کہ صاحبان قرون ثلثہ میں لینے صحابہ تابعین
و تبع تابعین معنی اصحاب کا یہ ہو صحبت لینے مجلس شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے والا مشرف
ہوا ہوساتھ ایمان کے اور وفات پائی ہوساتھ ایمان و اعتقاد کے اور تابعین دیکھنے والا اصحاب کا اور تبع
تابعین دیکھنے والا او سکوتہ ہیں کہ دیکھا دیکھنے والا اصحاب ابو بکا امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے
طبقات کبریٰ میں کہ سنی ہے بالکواکب الدریری تراجم سادۃ الصوفیہ وہ لفظ ہے لینے نسب شریف

بے
نسب

سید عبدالقادر بن سیبوسی بن سید عبدالشہر بن سیدی زہد جیلانی ضلی جو ذریت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ
ہو وہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہوا ہے ذکر حضرت غوث رضی اللہ عنہ کا آفاق میں لینے تمام روئے
زمین میں اور اجماع کی ہر اہل خلاف و وفاق نے اسکی امامت پر تہنیت کہا شیخ محقق ہدایت ابو عبدالقادر محمد بن
احمد السنائی الدلانی البکری الصدیقی الفاسی المغربی قدس سرہ نے اپنی کتاب نتیجۃ التحقيق فی بعض اہل الشرف
الوثیق میں ذکر کیا بعض حفاظ ثقات نے بدرستی کہ ہمارا سید شیخ المسلمین والاسلام شیخ مسلمین اور
سلمانوں کا ابی صالح محی الدین سید عبدالقادر جیلانی احسنی اسمی الصدیقی البغدادی رضی اللہ عنہ انتہی
ششم کہا با حفظ ابو سعید بن عبدالکریم بن محمد بن منصور السعفی نے اپنی تاریخ میں ابو محمد سید عبدالقادر
من اہل جیلان کہ جناب ابو محمد سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کہ رہنے والے جیلان کے ہیں امام احمدیہ و جہم
امام شیخ بن اہل مذہب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور فقیہ میں اپنے زمانہ کے نیک بخت ہیں دین میں اور
نیکیوں کا رہن دین میں خیر انکے لینے کثیر ہو ذکر سے اور دائم الفکر ہیں سر بیع الدم مع جلد رونے والے اور
آنسو جاری ہیں اللہ کے خوف سے لکھے ہیں اوصاف انکے اور ہفتہم کہا عبد الدین محمد بن البخاری نے اپنی تاریخ میں
سید عبدالقادر بن سید ابی صالح جنگا دوست الاہد من اہل جیلان کہ جناب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ جو رہنے
والے جیلان کے ہیں اور امام سلیمین عاملین ساتھ اپنے علم کے صاحب کرامات ظاہر ہو ذکر کیا بدرستی کہ جو داخل
بغداد میں ہوئے ششم چہار سو اٹھاسی میں تھی عمر شریف اٹھارہ برس کی سپس پڑھا علم فقہ و احکام اصول
و فروع کو ساتھ خلاف کے اور سنی حدیث اور شغل کیا و عظیمین تاکہ بھرانے چھے لازم کیا انقطاع کو اور ریاست
اور سیاحت اور مشاہدہ و دیکھنا سخت کو اور اٹھایا بارگراں شافعیہ کو داخل ہوا اور سخت خوفناک میں ملازمت
اپنے نفس سے اور لازم کیا اپنے پر شہداری کو اور بھوک کو اور مقام کیا جگہ خراب اور وشت میں اور صحبت
کیا ساتھ شیخ حادو و باس زاہد کے اور اخذ کیا اونٹنے علم طریقہ چھے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ظاہر کرنے
مخلوقات میں اور قبول کیا سب خلائق خاص و عام نے انتہی ہشتم آٹھواں کہا عالم علامہ صلاح الدین محمد
بن شاکر بن احمد الکنتی نے جو وفات پائی ۶۴۴ھ بضر و دوسری و اپنی تاریخ فوات الوفيات میں ذیل تاریخ ابن
خلکان و وفات ہو کہ سید عبدالقادر جیلانی بن سید ابی صالح موسیٰ جلی دوست کا نسب شریف پہنچتا ہو

جامع سیری بر

امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما تک اور شیخ ابو محمد جلی جلی مشہور اہل صاحب مقامات و کرامات کے اور شیخ صنلیون کے رحمہ اللہ تعالیٰ انتہی ہم نوان کہا ساؤ امام علامہ زین الدین بن عمر الوری جزال الشافی اپنی تاریخ میں نزدیک ذکر حادث (۵۶۱) اور اس میں ماہ ربیع الآخر میں وفات پائی شیخ سید عبدالقادر بن ابی صالح موسی الجلی بغداد میں پیدا ہوئے سنہ ۴۰۰ چار سو ستتر میں اور جلی مذہب ہیں کہانینہ کہ یہ شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر بن ابی صالح موسی جلی دوست بن ابی عبداللہ بن محی الزاہد بن محمد بن واؤد بن موسی بن عبداللہ بن موسی الجون بن عبداللہ المحض الجلی بن الحسن الثقفی بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سبط سید ابی عبداللہ الصوسی الزاہد منیب الی جلی انتہی وہم و سوان کہا عالم علامہ جبرہ نامہ حافظ زین الدین بن رجب فی طبقاتہ حافظ زین الدین بیٹے رجب نے اپنے طبقات میں سید عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی جلی بن ابی عبداللہ جلی ثم بغدادی زاہد شیخ مختصر اور علامت صاحبین و قد وہ عارفین و سلطان شایخ کا اور سوار اہل طریقہ کا محی الدین ابو محمد الی قال فی انشاء ترجمہ کہا یہاں تک و در میان ترجمہ کے ظہور للناس ظاہر ہوئی خلق خدا کی واسطے اور حاصل ہوا اور قبول تام مانا سنے اور مرد و دیار ہوسے کر نیوالے سنت شریف کو ساتھ ظاہر ہوئے وجود شریف کے اور مخزول یعنی نخل ہوئے اہل بدعت اور اہل ہوائیے خواہش نفس والے اور مشہور ہوا احوال واقوال و کرامات و مکاشفات حضرت عوث رضی اللہ عنہ کا اور سب خلافت حاضر خدمت شریف ہوئے اطرافوں کے واسطے فتوے لینے کے اور یہ کیا خلفا اور وزرا اور ملوک نے اور سوال کے انتہی باز وہم کیا رہوان کہا قطب ربانی ہیکل صمدانی عارف بافتہ عبدالوہاب شعرانی اپنے طبقات جو سہمی جو بلواقہ الانوار فی طبقات الاخیار میں و منہم ابو صالح سیدی عبدالقادر جلی رضی اللہ عنہ وہو ابن موسی بن عبداللہ بن محی الزاہد بن محمد بن واؤد بن موسی بن عبداللہ بن موسی الجون بن عبداللہ المحض بن الحسن الثقفی بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہ سال سنہ ۴۰۰ چار سو ستتر میں اور وفات ہوئی سنہ ۶۰۰ ہجری پانچ سو ساٹھ میں اور مدفون ہوئے بغداد میں رضی اللہ عنہ انتہی واؤد وہم بارہوان کہا عالم علامہ امام عقیف الدین عبدالصمد بن اسعد الیافعی البیہقی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الیراعین فی

حکایات الصالحین میں حکایت کرتا ہو بدستیکہ شیخ امام داستاؤ اکابرین جامع و سیران علم باطن و ظاہر کے ہیں اور حسب اور نسب شریف میں فاخرین سردار اور بزرگ سید عبد القادر جیلانی قدس لیس روح و نور ضریح انتہی سیر و دم تیر ہوں کہ عالم علامہ عزالدین احمد الفاسی اپنی کتاب فقہ المسکینہ الرافیہ بالاضفہ وہ چیز ثابت ہو ذکر کیا نسب شریف سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور طعن کیا بعضوں نے نسب شریف میں کہ ہلو علم نہیں ہو پس مشہور ہوا کہ عجم میں جو صحیح ہونا نسب شریف کا کہا بدستیکہ یہ اصل صحیح یہ بدستیکہ حضرت شیخ مروفاطی بلا شک و شبہ ہو اور شبہ نہیں ہونا نسب میں کہ پہنچنا اور حد اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع اہلیانے اوب کیا وین میں انکو چھوڑنا و دم چود ہوں کہا شیخ تقی الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیچۃ الرافعیۃ الکبریٰ میں بدستیکہ غوثیت اور ریاست اولیا میں نہیں ہوتا اپنے عصر میں گروا حد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام و قطبیت سے معلوم ہوا کہ سادات حسنی حسینی میں انتہی پائز و دم بند ہوں کہا ابن ربیعۃ الاشرافی نے اپنے روز میں انتہی شانزوم سو ہوں کہا ابن عماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شذرات الدربین کہ کرامات ان غوث قدس سرہ کے منقول ہیں متواتر بخلاف کرامات دوسرے اولیاء کے کہ وہ منقول ہیں بطریق احاد کے اور اسقدر کافی ہو واسطے تہنئہ یعنی آگاہی کی اور بہ جلال اور عظمت قدر جناب قدس سرہ کی کہ دلیل لائیکہ حاجت نہیں واسطے اسکے اصلا۔

شعر

ولیس یصح فی الاعیان شیخ اذا احتاج النہار الی دلیل

نہیں ہے صحیح اعیان میں کہ محتاج ہو دن طرف دلیل کے باوجود کہ حقیقت الامر غنی اور بے پروا ہو تنبیہ اور آگاہ کرے ہی جیسے معنی نہیں ہے پھر مرفوع کیا جو آپ کے نسب شریف کو لینے پہنچتا ہو امام حسن رضی اللہ عنہ نگا سو جسے کہ کہا حضرت شیخ سید عبد القادر ابن موسیٰ ابی صالح ابن عبد اللہ بن یحییٰ الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ ثانی بن عبد اللہ صالح بن موسیٰ الجون بن عبد اللہ محض بن حسن انتہی بن حسن السبط بن سیدۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا و خضر جناب سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین انتہی ہر مقدم ستر ہوں کہا علامہ اموسیٰ سابق آگیا ہے ذکر انکا علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب طراز المذہب شرح

قصیدۃ البار الاشبہ رضی اللہ عنہ میں جو تالیف بلخ اور فصیح و عجیب عبد الباقی افندی عمری کی ہے
نزدیک اس قول اونکے کے کہ

کہ خوان من حضرة البار لاحت
حین دانی ولا فوادم اجدل

بعد بیان کرنے اوسکے کہ جلازم اور ضرورتی شرح خوانی اور حضرت اور بانی مراد ساتھ باز کے حضرت
مولانا غوث الصمدانی اور سیکل ربانی شیخ سید عبدالقادر گیلانی قدس سرہ وغیر بارہ اور وہ رضی اللہ
عنہ اوسکے کے جو کتاب شذرات الذہب میں ہزارین ابی صالح ہنگی دوست ابن ابی عبداللہ بن سیدی بن محمد
بن داؤد بن موسی بن عبداللہ محض بن حسن ثنی بن حسن سبط بن علی کرم اللہ وجہہ بن اور غوث رضی اللہ
عنہ نواسہ بن سید عبداللہ صومسی کے جو بزرگان مشایخ جیلان سے تھے ہر دو تم اتھاروان کہا عارف بزرگ
اور علم طویل اور اولیاء اللہ مشہور صاحب مقام قدس یعنی پاک و طاہر شیخ عبدالغنی نابلسی دمشقی تلمبند
قادری قدس اللہ سرہ العزیز اور مدح کتاب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا امام اکلیل غوث اعظم
النبیل بار اللہ الاشبہ والسیف الاشبہ سلطان الاولیاء صاحبین مولانا وقدوتنا و مفرعنا اباصالح
سید محمد الدین عبدالقادر رحمہ اللہ ابن ابی ایوبی اجملی رضی اللہ عنہ ہذہ القصیدۃ الغیر

ظہرت شمس طوالح العرفانی
بالشیخ عبدالقادر الکیلانی

نزدیک انیسواں کہا عالم علامہ امام غفر لہ ہمامہ سید جعفر ابن سید حسن ابن سید عبدالکریم بزرگ
مدنی مفتی شافعیہ مدینہ منورہ صاحب مولود بنوی منظوم مشہور جو سب جہان میں اپنی کتاب جنی الدانی
مناقب قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ میں ابن سید ابی صالح موسی ابن سید
عبداللہ ابن سید سیدی ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسی ابن سید عبداللہ ابن سید موسی
جون ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن ثنی ابن امام سید حسن ابن امیر المؤمنین علی بن ابیطالب
رضی اللہ عنہ وابن فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرفہ و کرمہ و
مجد و عظم از انتہی شہتہ میں ان کہا عالم علامہ قاضی القضاات مجیر الدین شیخ محمد بن سیدی التاوی
رحمۃ اللہ فی اپنی کتاب تلامذہ ابوہریری مناقب شیخ سید عبدالقادر میں کہ پس کہتا ہوں میں کہ وہ سیدنا

شیخ الاسلام پیشوا ای او بیار عظام علم الہدی وہ کہ جو منسوب ہو اطراف اونکے وہ ہوا سعداسی قطب بانی
 اور فرد جامع صدیقی صاحب اصل طاہر محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر بن سید ابو صالح جنگلی دوست
 اور کہا گیا ہے کہ جنگجو دوست موسی بن سید عبداللہ بن سید سیدی زاہد بن محمد سید بن سید داؤد بن سید
 موسی بن سید عبداللہ بن موسی جون بن سید عبداللہ محض بن سید حسن شہمی بن امیر المؤمنین ابو محمد
 حسن بن امیر المؤمنین علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بن عبدالطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن
 قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس
 بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قرشی ہاشمی علوی حسینی حبلی حبلی سبط سیدنا شیخ ابو عبداللہ صنوی
 زائد کے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہے آپ جنتک جیلان میں تھے انتہی - بیست و یکم کیسوان کہا
 عالم نیکبنت فاضل بزرگ شیخ سیدی محمد امین بن احمد تونسلی مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض البیانین
 فی اخبار سیدی عبدالقادر حبلی محی الدین میں انتہی - بیست و دوم ہائیسوان کہا عالم علامہ شیخ
 نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہجۃ الاسرار و معدن
 الانوار میں خبر دی ہمارے کو فقیر عالم ابو المعالی احمد بن شیخ محقق ابی الحسن علی بن احمد بن عبدالرزاق
 بن عیسی ہمالی بغدادی نے کہا خبر دی ہمارے کو قاضی القضاات سید ابو نصر نے کہا کہ خبر دی ہمکو
 ہمارے والد نے سید عبدالرزاق نے کیا کہ سوال کیا میں نے اپنے والد سید محی الدین رضی اللہ عنہ اپنے
 شب شریف سے قال کہا سید عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی جنگلی دوست بن سید عبداللہ بن
 سید سیدی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبداللہ بن سید موسی جون بن سید عبداللہ
 محض اور لقب ہو ساتھ محل کے بن سید حسن شہمی بن امیر المؤمنین حسین بن امیر المؤمنین سیدنا
 علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اور نواسہ بن سید ابی عبداللہ صنوی کے اور جانتے تھے جو وقت تھے
 جیلان میں پس سوال کیا پیدا ہوئے حضرت غوث رضی اللہ عنہ سے پس کہا ہمکو خبر نہیں ہو لکن
 جب سابق تھے بغداد میں اور سال وفات پائی تھی عمری نے اس وقت ہی اٹھارہ برس کے پس
 کہا ہے کون ہے تمہی فرمایا ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب بن عبدالغفر بن حرث بن اسد

اور
 سال وفات پائی

وفات ہو گئی چار سو اٹھاسی میں پس جو سید ہونا حضرت کا رضی اللہ عنہ (۲۳) کہا عالم علامہ عال نقل
 کاخ عمدة الحدیث مولانا شیخ عبدالحی و طوبی بخاری ترمذی نے اپنی کتاب زبدة الاسرار میں ذکر کیا نسب شریف
 اور صفت حضرت غوث اعظم شیخ شیوخ عالم سید السادات شیخ الاسلام و المسلمین شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر
 بن سید ابی صالح موسی بن سید عبداللہ بن سید یحیی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبداللہ بن سید
 موسی جون بن سید عبداللہ محض اور صفت کیا گیا جو ساتھ محل کے بن سید حسن ثنی بن سید ناصر بن علی مرتضیٰ
 رضی اللہ عنہم جمعین اور ان سے میں سید عبداللہ موسی زاہد کے اس سے جانتے تھے جیلان میں نسبت کیا گیا ہے
 طرفہ جبل کے کسرہ جیم اور سکون یا کا اور وہ بلاد میں متفرق سواطیرستان کے اور وہاں پیدا ہوئے
 اور وہ قصبہ ہوا کہتے ہیں اور سکون جیلان و گیلان و گیل وہ قصبہ ہونگاہ دربار و جلہ میں اور وہ رستہ ملا ہو گیا کہ
 کا بندہ اوستے اور واسطہ کے درمیان اور او سکوی کہتے ہیں جبل عم (۲۴) کہا ادیب فاضل شیخ عبدالباقی
 عمری موصی عراقی رحمہ اللہ نے اپنے درباران جو نام ہوتے تھے فاروقی میں ایک قصبہ اور صفت کیا سلطان الاولیاء
 والعارفین القنبل النورانی والقطب الصمدانی مولانا سیدنا سید محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ
 عنہ اور شرح کیا عالم علامہ عراقی معنی بغداد و مرحوم شیخ محمد اوسى بغدادی نے (۲۵) کہا عالم ربانی فقیر زریب
 پاکیزہ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے آخر اپنے شرح صلوة کبریٰ جو سی ساتھ کوکب العالی اور کوکب المعالی شرح
 صلوة شیخ عبدالقادر گیلانی ہو کہ یہ آخر اس کا جو میر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے کتاب سے بطور اختصار
 کے بطریق شرح و بیان کے موافق آسان کرنے تقدیرات کے اور پر اور وصلوة ہمارے شیخ ساتھ مجدد و پیشانی
 کے اور تذکرہ اور وعظ ساتھ فرمایا ہے کے صاحب سبط و اتفاق کے اور ہمارے استادا ساتھ ادا و ربانی اور
 استعدا و انسانی کے مقام روحانی میں قطب دائرہ وجود کے اور کوکب سموات معانیہ اور شہود کے فرد کامل اور عالم
 علامہ عال سید شیخ عبدالقادر بن سید ابی صالح موسی جلی دوست بن سید ابی عبداللہ بن سید یحیی زاہد بن سید
 محمد بن سید داؤد بن سید موسی بن سید عبداللہ بن سید موسی جون بن سید عبداللہ محض بن سید حسن ثنی بن سید
 امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم جمعین جیلانی یہ نسبت ہوا جیلان کے اور یہ نام جو بلاد متفرقہ
 جو اوس طرف طبرستان کے ہو وہاں پیدا ہوا ہے اور او سکوی کہتے ہیں جیلان اور گیلان ہی اور کہا موسی نے

پیدا ہوئے تھے جیلان میں سال چار سو سترہین اور رضی اللہ عنہ لوزائے سید عبدالعزیز صومسی کے بین جو بزرگان
 جیلان سے تھے انتہی (۲۶۹) کہا عالم عامل اور جدائی کرنیوالا درمیان حق اور باطل کے شیخ سید علی ابن شیخ سید
 سمعی ابن شیخ سید احمد ابن شیخ سید علی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الابراہیم لوامع الانوار میں ذکر کیا ہے و سب ظاہر
 و مخفیہ ظاہر اور پیدائش اور شہرہ اور جرت اور ظاہر ہوئے رضی اللہ عنہ قطب نورانی محی ابو محمد سید عبدالقادر
 جیلانی ابن سید ابیصالح موسیٰ جلی دوست ابن سید عبداللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن
 سید موسیٰ ابن عبداللہ ابن سید موسیٰ جون ابن سید عبداللہ محض اور لقب ہے ساتھ محل کے ابن سید حسن ثنی
 ابن الامام سید حسن ابن امام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ابن عبدالطلب ابن ہاشم بن
 عبدالمناف معدن الجود والنعاف ابن قصی ابن کلاب ابن مرثد ابن کعب ابن لوی بن غالب بن فہر بن مالک
 بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

سید
 ابو داؤد
 ابن سید ابی

نسب کان علیہ من شمس الضحیٰ	نور او من فلق الصباح عمودا
----------------------------	----------------------------

ہاشمی علوی حسنی حسینی جلی لوزائے سید ابی عبدالعزیز صومسی کے بین (۲۷۰) کہا مشہور امام درمیان امام
 عالم دیار رومیہ صاحب بصارت و نافذ کل قضیہ محمود بن سلیمان مشہور کوفی اپنی کتاب سیمی اعلام الاخبار
 فی الکتابیۃ العاشرین سید العارفین قبلہ الواصلین سرور عارفوں کا اور قبلہ اللہ سے ملائکہ المون کا شیخ بانی
 عارف صمدانی قطب الاولیاء، غوث الاصفیاء ابو محمد سید عبدالقادر بن سید ابیصالح بن سید عبداللہ جلی کیلانی
 احسنی حسینی قدس سرہ اور تہی والدہ شریفہ کبکی ام الخیر ابو الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومسی پیدا ہوئے
 سال چار سو ایک ہتر میں انتہی (۲۸۰) کہا تاج الوراق سید عبدالزق فی اللہ عنہ نے بیروالد کی کتاب فتح الیب میں
 کہ کہا ہمارے والد رضی اللہ عنہ نے جو درویشے والا ہے اما ان دین کو اور سرور طائفہ طریفہ کا ابو محمد محی الدین سید
 عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی صمدی ابن ابیصالح موسیٰ جلی دوست ابن امام عبداللہ ابن امام یحییٰ زاہد ابن
 امام محمد ابن امام داؤد ابن امام موسیٰ ابن امام عبداللہ ابن امام موسیٰ جون ابن امام عبداللہ محض ابن امام حسن
 ثنی ابن امام امیر المؤمنین حسن ابن امام ہمام اسد اللہ الغائب قرظی غالب سیدنا علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ
 و رضی اللہ عنہ وغیرہم جمعین (۲۸۱) کہا عالم علامہ ہمارے فقہای بزرگان حنفیہ اور مدقق اسکے اور قبلہ اور نقشا

کرنے والے نشان اونکے علوم محکمہ رضیہ ملت محمدیہ اور ناصر اونکے مولانا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب
 تزہتہ النظار العاترین ترجمہ حضرت سلطان الادب والعارفین الاکابر شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ میں کہا ہے کہ ہوتا
 جو اسید وارہ برکات صحابین کا اپنے پروردگار باری سے علی بن سلطان قاری کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض جہاں تاون
 مقامات مولانا اسید ناماچ المغاخر کہ جنگ واسطے بہت ہوئیں ہیں گروہنہای الکابرنہ قطب ربانی غوث محمدانی
 سلطان الاولیاء والعارفین البار الاشبہہ والسیف الاشبہہ والطراز المذہب شیخ الاسلام محی الدین عبدالقادر
 الحسنی آجینی اجمالی قدس اللہ تعالیٰ روحہ وقع علینا فتوحہ نے کہا ہے کہ یہ شیخ اپنے نسب میں سید نبین ہیں اور
 اونکے بعد پیچھے کوئی اولاد نہیں تھی کہ جسے نسب منسوب ہوتا مگر بعض فقہان کو تاہ کسب نے فتویٰ دیا ہے اور سکا
 موافق کلام عوام کے جو توفیق یاب نہیں تھے ساتھ تحقیق خاص کے اوصیٰ اور سزاوار اور انکو یہ تھا کہ وہ کہتے
 کہ ہکو نہیں معلوم کیونکہ لاوری اور علم نصف علم ہو جسے کہ آیا ہے حدیث مروی میں اور جرات اور ولیری کرنا
 نسب کے معاملہ میں ساتھ فنی اور اثبات کے بغیر نقل کے اہل اثبات اور عدل سے لائق شان ارباب علوم اور
 دیانات کے نہیں ہو کو مگر او میں خوف ہو مقام ہوا کہ داخل وہ مضمون او میں جو دروہا ہے کہ ہر جرات
 والاتم میں کانتوی اور حکم پر زیادہ تر جرات والا ہو اگ جنہم پر ہندائیں چاہا کہ ذکر کرن بعض وہ کہ جو متعلق ساتھ
 نسب شریف اور حسب لطیف آپ کے کیونکر جسے جمع کیا ہو دونوں امر و دونوں رنگ میں سے وہ عزیز الوجود
 غریب الشہود ہو و دونوں جہانین پھر نسب آپ کا محلا اسطرح پر ہو کہ ذکر کیا ہو مولانا نوالدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ
 نے اپنی کتاب فتوح الانس فی حضرات القدس میں کہ یہ شیخ سید میں ثابت نسب اور جامع میں نسب اور حسب
 کے کیونکہ علوی حسنی میں جانب پدر سے اور طرف ماوری سے نواسہ میں سید بنی عبداللہ صومسی کے جو کیا شایخ
 عظام اور اولیاء کرام سے تھے اور انکے اہل بیہ اور کرامات جلیہ تھے اور لیکن مفصلاً اسطرح پر تو کہہ اہام شیخ
 عبداللہ بن اسعد یافعی رحمہ اللہ نے تتمہ روض الرابین حکایات الصحابین میں کہ ہر سیکہ سردار ہا اسید
 محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید ابراہیم موسیٰ جلی دوست ابن سید عبداللہ بن سید سحری زاہد بن سید
 محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون یعنی ساتھ ضم جمیم یعنی ایضاً
 اور لقب ہو الخابن سید عبداللہ محض اور یہ لقب ہو اور معنی اسکے خالص میں بن سید حسن ثقیفی ابن الامام سید

سیدنا حسن سبط ابن الامام سیدنا علی بن ابرہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نو اس میں سید ابی عبداللہ حسینی زاہد
 کے اور اسی نام سے معروف اور مشہور تھے آپ جیلان میں علیہ الرحمۃ والرضوان اور کہا کہ والدہ شریف آپ کی ام بخیر
 فاطمہ دختر سید ابی عبداللہ صومسی زاہد کی تھی اور حصہ پورا تہاخیر و صلاح سے اور عمتہ بیٹے پھوپھی آپ کی عورت
 صاحبہ ام محمد بیٹے مان محمد کی عایشہ بنت بیٹے دختر سید عبداللہ کی صاحبہ کرامات ظاہرہ اور مقامات باہرہ
 کی تہین اور کہا کہ لقب تہا سید عبداللہ محض آپ کے واوا کا محض اس واسطے کہ والدہ کے تھے حسن ثقی بن حسن السبط
 ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور والدہ انکی فاطمہ نام دختر امام حسین ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی اور نسبت
 سالم بیٹے سلامت اور صاف ہر موالی سے اور خالص ہو شرافت عالی میں انتہی (۳۰) کہا عالم اور فاضل
 شیخ عبدالقادر بن محی الدین اربلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفریح الناطقین مناقب الشیخ سید عبدالقادر گیلانی
 رضی اللہ عنہ منقبت پانچھ میں نسب شریف طرفین سے لکن جانب پدر سے یہ سردار سید عبدالقادر ابن
 سیدنا ایصاح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید سیدی زاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی
 بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید حسن ثقی بن سیدنا حسن بن سیدنا
 علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین انتہی (۳۱) کہا عالم علامہ شیخ صلاح الدین محمد بن شاکر
 کتبی دارانی دمشقی نے اپنی کتاب نوات الوفيات میں کہ سید عبدالقادر جیلانی بن ایصاح جنگی دوست کا
 نسب پہنچتا ہوا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما تک اور شیخ محمد جلی جلی مشہور زاہد صاحب مقامات اور کرامات
 کے اور شیخ جنلیہون کے رحمہم اللہ تعالیٰ تشریف لائے بغداد میں اور فقہ پڑھی قاضی ابی سعید سے اور
 حدیث کی سماعت کی اور تہا کھانا اور قوت آپ کا عمل اپنے ہاتھ سے اور کلام کیا و عظیم اور بلند ہوا و از
 بیٹے شہرہ اور تہا آپ صاحب وقار اور پہلے کے اور کہا شیخ شمس الدین نے کہ پیدائش آپ کی جیلان میں
 سال چار سو ایک ہتر ہوئے تھے اور وفات سال پانسو ایک سٹھ میں انتہی (۳۲) کہا درمیان ماوہ بشتیری
 میں قاموس سے اور شرح کیا سید رضی نے اپنی کتاب تلح العروس فی شرح القاموس ابشتیری الملہ
 بشتیری اہل بن جاسکے و ہوا الضم و سکون الثمین و کسر الثنات الفوقیہ و سکون الخیرہ بکذا فی نسخنا ہو
 شیخ الاسلام و المنہ لکبری علی اللہ الامام القطب محی الدین سید عبدالقادر ابن ابی صالح موسیٰ جنگی دوست

ابن علی حسنی پیدا ہوئے سال چار سو سترہ اور وفات ہوئی آپ کی سال پانسو ایک سٹھ میں ایسا ہی تحریر کیا
ہو نسب شریف حضرت رضی اللہ عنہ کا امام محمد قاضی ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہی (۳۳) ذکر کیا ایسا ہو کتاب
خلاصہ میں ہے سیکر چار اقطاب رضی اللہ عنہم کلم ساوات اہل بیت سے ہیں اور پہنچتا ہو نسب شریف انکا امام
حسین بن علی تک رضی اللہ عنہما سوا شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نسب شریف انکا پہنچتا ہو امام حسن بن
علی رضی اللہ عنہما تک انتہی (۳۴) کہا سید موسوی نے اپنے جبرائیل اثبات نسب سید کل در کل قطب
اقطاب سید عبد القادر جیلانی ابن سید ابی صالح موسی جنگی دوست ابن سید عبد اللہ ابن سید سیدی زاہد ابن
ابن سید محمد ابن سید واوہ ابن سید موسی بن سید عبد اللہ ابن سید موسی جون بن سید عبد اللہ محض
بن حسن ثنی بن امام حسن بن امام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین انتہی (۳۵) جو در بیان
کتاب منتخب میں جو انساب سے ثابت کرنا نسب غوث اعظم شیخ سید عبد القادر کے اور فروغ کرنا واسکا طوف امام
حسن رضی اللہ عنہ اس طرح پر کیا ہو کہ شیخ سید عبد القادر بن موسی جنگی دوست بن عبد اللہ بن سیدی زاہد بن محمد بن
واوہ بن موسی ثانی بن عبد اللہ بن موسی جون بن عبد اللہ محض بن حسن ثنی بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اجمعین سے (۳۶) کہا سیرۃ النبی امین شیخ الامام العالم زاہد العارف قدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء
کبج الاصفیامی السنۃ ومیت البدیۃ معقل العلم السید الشریف الحسب النسیب الحافظ الاحادیث جبر
سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ عمی الدین ابو محمد سید عبد القادر ابن سید صالح جلی جلی شیخ
بعدا رضی اللہ عنہ (۳۷) کہا تاریخ اسلام میں شیخ ابو محمد عمی الدین سید عبد القادر بن ابی صالح موسی
ابن عبد اللہ جنگا دوست جلی زاہد صاحب مقامات و شیخ الفقہار و الفقہار اور تھے امام اپنے زمانہ کے اور
قطب اپنے عصر کے شیخ شیخ اپنے وقت کا نبیر نزل کے اور سردار علم و عمل میں پس کرامات اور نیکو تبار
میں اور کسی سے ایسی کرامتیں سرزد نہیں ہوئی ہیں بعد ازاں انتہی (۳۸) کہا عالم علامہ خاتمۃ المفسرین ابو النشا
شہاب الدین سید محمود افندی اوسی مفتی بعد اور رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شجرۃ الانوار میں سلطان الاولیاء
سید عبد القادر پیدائش ہوئی عشق سال چار سو سترہ میں وزنگانی پانی کمال میں سال ایک پر دو تین
اور وفات ہوئی عشق الہی سال پانسو ایک سٹھ میں انتہی (۳۹) کہا تاریخ یاضی میں جو کہ لیکن کرامات

آپ کے پیس وہ خارج ہیں حصہ اور حد سے اور خبر وی ہو ہلکوا انھوں نے کیا یا تھا آپ کو اعلام ایہ میں سے
اوسکے کہ کرامات غوث رضی اللہ عنہ متواتر ہیں یا قریب متواتر سے ہیں اور بالافتقار معلوم ہو کہ ظاہر منہ سے
ہیں کرامتیں مانتہ ظہور آپ کی کرامات کے واسطے غیر آپ کے کہ شیوخ آفاق میں سے بسبب اکرام آپ کے کے
علی الاطلاق اور غرقہ پہننا تھا اپنے ہاتھ شیخ ابو سعید مبارک بن علی مخزومی سے جو نسبت ہو طرف عملہ زید بن
مخزوم کے بعد او میں سنا میں کتاب اجازت ابو بکر کفعمی میں جو اعطاکا تھی شیخ ابو الوفائی شیخ محمد بن
سید قاسم بن بحیر بن حسین بن علی بن محمد بن احمد بن صالح بن نصر بن عبد الرزاق بن قطب غوث اکبر
محمی الدین ابی محمد عبدالقادر جیلانی بن ابیصالح موسیٰ جنگی دوست بن عبدالقادر بن حمیدی زاہد بن محمد بن
داؤد بن موسیٰ بن عبدالقادر بن موسیٰ بن عبد اللہ بن محض بن حسن ثنی بن علی بن ابیطالب رضی اللہ
تعالیٰ عنہما کو اس طرح پر ثابت کیا ہوا ہوسمین اور کہا ہوا ہوسمین کہ منہی ہوتا ہو نسب کریم آپ کا جانب والد آپ کے
سے طرف سیدنا ابی محمد حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے اور جانب والدہ آپ کے سے طرف شہید ابی عبدالقادر حسین
رضی اللہ عنہ کے ہستی (۴۰) کہا عالم علامہ سید محمد سیف الدین اپنی کتاب درر السنیہ فی السواغظ الکیلائیہ
میں کہ غوث اعظم قطب ربانی فرد صمدانی سید سلطان سید شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ
ابن الامام ابیصالح موسیٰ جنگی دوست ابن الامام سید عبدالقادر ابن الامام بحیری زاہد ابن الامام محمد ابن الامام
داؤد ابن الامام موسیٰ ثانی ابن الامام عبدالقادر ابن الامام موسیٰ بن ابن الامام عبدالقادر محض ابن الامام
حسن ثنی ابن الامام حسن السبط ابن الامام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ (۴۱) کہا عالم علامہ مدقق فناہ
محمد غوث بن ناصر الدین محمد المصطفیٰ بشرف الملک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انہار المغاخر فی مناقب غوث الاعظم
شیخ سید عبدالقادر جد ول ثانی شعبہ اولیٰ امین روایت کی شیخ سید عبدالرزاق نے اپنے بیٹے قاضی القضاة
ابیصالح نصر رحمہ اللہ سے شیخ سید عبدالقادر بن سید ابیصالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبدالقادر
بن بحیری زاہد ابن رضی اللہ عنہم جمعین (۴۲) کہا عالم فاضل کامل علامہ نجم آل بیت الرسول وائیس الشریف
علی المعقول والمنقول قانع البتہ عین وواضع البطلین ابی الظفر سید ظہیر الدین القادری الحنفی سنی
احنفی حنفہ اللہ بلفظہ الحنفی واصلی نے اپنی کتاب فتح البین فیما یصلح تبریاق البین جو تحریر کیا ہو صحیح بیان

سیادت و جمیع محاسن و کرامات و خوارقِ عادات و کمالات حضرت غوث رضی اللہ عنہ کا کیا ہو اور ترجمہ
اس کتاب کا اردو زبان میں کیا ہو نام اس کا اظہار الیقین ہو اور یہ کتاب عام ہو دیار میں انتہی (۴۳)
کہا عالم علامہ جبر فیماہ عالم فاضل شیخ رزوق نے اپنی کتاب قواعد تضمنہ لموائد فوائدہ میں جس وقت کلام
ہوے نسب شریف مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدستیکہ معتبر اصل نسب دینی ہو اور نسب فرج مجرد ہو
پس اصناف کے گئے طرف طینی کے تھا اسکے لئے سوکد ایس طعی نہیں رہے صاحب کا اپنے حال میں ہمیشہ
ساتھ اسکے جواب دیا ہو قول حضرت شیخ ابی محمد سید عبدالقادر سے کہ کہا قدسی ہذا علی فبیتہ کل اللہ
یعنی قدم میرا اوپر گردن سب اولیاء اللہ زمانہ کے ہر تحقیق مجتمع ہو اعلویت نسب اور شرافت حسب عبادت سے
اور علم سے اور دوسرے کو یہ تہہ نہیں تھا اپنے زمانہ میں انتہی (۴۴) کہا امام احمد بن محمد بن جزوی الاذنی
الفرناطی جو مشہور ہو اپنی کتاب مختصر البیان فی آل عدنان میں تصحیح کیا ہو ساتھ اسم نسب شریف جلی خلی
عہ کا تا امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۴۵) کہا صاحب مرۃ العقول فی ذکر آل الرسول میں وہ علامہ
شیخ عبدالرحمن ابن عبدالقادر الفاسی نے اپنی کتاب میں اور ذکر نہیں کیا ہو مگر اشرف یعنی سادات کا جو
اجماع ہوئی ہو اور شرافت جلی کے اسطرح جاتے ہیں اور یہ کتاب تالیف ہوئی ہو واسطے اسکے ساتھ اذن
باپ کے جو شیخ الجماعہ ہو انتہی (۴۶) کہا حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب غبظہ الناظرین میں انتہی
(۴۷) کہا علامہ ابن عرضون نے ساتھ نقل علامہ شیخ مغربی سیدی محمد قزوینی کے (۴۸) کہا ابن
جزوی نے اپنی کتاب مرآت الزمان میں انتہی (۴۹) کہا علامہ النساء شیخ محمد عربی فاسی نے اپنی کتاب
مرآت الحاسن میں کیا ہو ثبوت یعنی اصل شرف فارفاس کیہ واسطے جو قادی میں اولاد قطب سیدی الین
عبدالقادر جلیانی رضی اللہ عنہ نسبت الکی طرف غوث رضی اللہ عنہ کی ثابت ہو یہاں تک کہ کہا رضی اللہ عنہ
سید عبدالقادر نے اور ذکر کیا نسب شریف کا تا امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۵۰) نسبتا بقراط
میں ہو ذکر کیا ہو نسب شریف کا تا امام حسن رضی اللہ عنہ تک انتہی (۵۱) کہا امام مسناہ ابن زحون نے
اپنی کتاب المسمی الاعتبار و تواریخ الاخبار و التعریف بالنسب الی النبی المتارین (۵۲) کہا علامہ رناب
ابن طیب نے اپنی نظم میں جو سہمی ہو ساتھ اشرف کے اوپر نسبت چہا قطاب اشرف کے اور ذکر کیا گیا ہو

اس قول میں بعد استفتاح العظیم ہذا النظام لعمود نسب چو چار قطاب میں اہل الرب صاحب رتبہ

۱۲	والشیخ عبدالقادر الجیلانی	وابن مشیش مغزو الایمان
	والشاذلی الکامل الوصول	وابن سلیمان ہمد الجزولی

(۵۳) کہا شیخ محمد بن عبدالرحمن فاسی نے اپنی کتاب منج البادیہ والاعشی براعتی فی تحریر الانساب وقدرہ فی علم الانساب میں اور بن اسمین اجازات علم واسطہ اہل کے انتہی (۵۴) کہا شیخ مروان بن ہادی نے اپنے مشہور میں انتہی (۵۵) کہا شیخ محمد بن قاسم قصار نے کہا سنا ہادی نے اور طول کیا نسب شریف کو صحت سے انتہی (۵۶) کہا عالم شیخ محمد بن عیاد اندلسی نے اپنے مشہور میں انتہی (۵۷) کہا شیخ علی بن عبد اللہ شامی نے اپنے مشہور میں انتہی (۵۸) کہا شیخ عبدالواجد الوائسری سی نے اپنے مشہور میں انتہی (۵۹) کہا عالم علامہ امام اہل ربیع صاحب تقویٰ اپنے زمانہ کا شیخ رضوان بن عبداللہ نے اپنے مشہور میں انتہی (۶۰) کہا شیخ عبدالواجد بن احمد حمیدی نے اپنے مشہور میں انتہی (۶۱) کہا رقیم شیخ علی صقلی حسنی نے اور دریافت کیا محقق مسناوی نے نقل کیا شیخی الغلیل سے انتہی (۶۲) کہا صاحب انساب ماریف شیخ ابوتوفیق طبعی مصری نے اپنی کتاب سرور القلب میں انتہی (۶۳) کتاب درسی جو فاس میں اہل نسب حسنی میں اوسین انتہی (۶۴) کہا عالم علامہ جبرئیل شیخ مشلبینی جو منسوب ہو ساتھ سید موسیٰ کے اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبوی اہل بیت میں من الاقطاب الاربعہ سیدی عبدالقادر اسمعیلی ہو ابو صالح عبدالقادر ابن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن ثنی بن احسن بن علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ سے چار سو ستتر میں ایسا ہی طبقات شمرانی میں کہا کہ حکایت ہے آپ کے والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب پیدا ہوا بیٹا میرا عبدالقادر تھا کہ دو دوہین پیار و زرمضان میں اور برابر ہوا آسمان پر اور چاند زرمضان کا پورے شیدہ رہا لوگ آئے میرے پاس اور ہتھیار کیا احوال غوث رضی اللہ عنہ سے پتے کہا کہ آج پستان میرا نہیں جو سا پیچھے روشن ہوا کہ پر روز زرمضان کا تھا اور مشہور ہو جیلان بن اسد وقت کہ تولد ہوا اس وقت کے گھر میں لڑکا اور پستان نہیں جو سا تمام زرمضان

میں انتہی (۶۵) کہا حافظ انس اب شیخ عبداللہ بجلی اسی نے بیضی والست فاسیون کے اور شرفار
 قادریں شہرہ ہو نسب شریف میں انتہی (۶۶) کہا سیدی علی بن موسیٰ جزاری نے اپنی کتاب شجرۃ الانساب
 تلخیص میں انتہی (۶۷) کہا مشہور محرمی میں و تحقیق سے میں واقف ہوں نسخہ اصل یہ پراوس سے اور
 اوپر شرح ہر کتابات الموافقہ والا اعتراف سے ساتھ صحیح ہونے جو اوہین میں مانند سات پر چالیس نقباء
 الامصار و سبانی الاقطار اوہین سے علامہ ولی جو مشہور ہو سیدی ابو النیث القشاش تونسلی اور سید احمد
 علی جو نقیب ساوۃ الاشراف بیان والسید محمد علی نقیب القدس الشریف اور سیدی علی غزوز وغیر ہم وبعضہم
 باختتام مع خطہم یہ آخر کتاب ہے جو ختم کی گئی ہے ساتھ خطوں کے آخر مواہر وکے اور وہ چیز جو روایات
 ہونی اوہین کتابین انس اب سے ساتھ اقوال مستبرک کے تصریح کیا ہے اس طرح پراور شراف امام جلی کے
 کتب مورخین اور اصحاب طبقات اور صاحبان مناقب اور علمای عارفین سے کہ شک اور شبہ نہیں ہو
 اوہین انتہی (۶۸) کہا عالم کبیر عارف شہیر سیدی احمد زروق فاسی مغربی مالکی نے اپنی کتاب
 قواعد الطریقہ میں (۶۹) کہا عقیف بن مبارک نے اپنی کتاب فتح ربانی میں (۷۰) کہا اوستاؤ
 ابن ابانخرمہ نے (۷۱) کہا شیخ مراد شافعی نے اپنی کتاب فتح کامل میں (۷۲) کہا شیخ علی ابن
 یوسف یسعی نے انتہی (۷۳) کہا عالم ربانی شیخ نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی نے
 اپنی کتاب نجات الانس میں کہ حضرت شیخ عبد اللہ القادری جلی علوی حینی بن جانب پدرا اور نواسہ
 بن سید عبداللہ صومی زاہد حینی کے شرح و بسط سے انتہی (۷۴) کہا عالم فاضل محمد بن محمد و
 الملقب بدہار نے اپنی کتاب معنی نجات الانس میں جو حاشیہ کیا ہے شیخ محی الدین سید عبداللہ
 جلی کہ مراد جلی سے گیلان ہو نہ وہ ہے کہ بعضوں کو وہم پڑا ہے کہ مراد جلی سے نزدیک بغداد کے ہو
 کیا صومہ قریبے نزدیک شہر لاہجان کے اور جدادری حضرت غوث رضی اللہ عنہ کا وہاں کے ہے
 اور حال اولاد حضرت کی وہاں رہتی ہو اور خانقاہ رونق افزار کتے ہیں و نسب عالی یہ ہو سیدی الدیبا
 عبدالقادر ابن ابی صالح موسیٰ حنی دوست ابن عبداللہ ابن حینی زاہد ابن محمد ابن داود بن موسیٰ بن
 عبداللہ بن موسیٰ جن بن عبداللہ محض اور اسکے عبداللہ محل سے وصف کیا ہو ابن حسن نقشبندی ابن سن

ابن امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب رضی اللہ عنہ اور والدہ شریفہ فاطمہ حسینی تھی اور بعض اہل نساء نے کہا ہے کہ البازمی الاشبہ شیخ عبدالقادر اپنی حیاتی کے زمانہ میں اظہار سیادت کا نہیں کیا اور اسکو اپنی سند بنانی پر اصلاً تحقیق اور توثیح نہیں کی ہے یہ قصیدہ ایک بیت اور سکا یہ ہے:

اکلی قطب یطوف بالبيت سبعا | وانا للبيت طائف بچيامی بخوانانان

کہ فرماتا ہے کہ جدی مصطفیٰ شفیع الامام کہا گیا زیادہ اس سے کیا اظہار ہو دے اور والدہ شریفہ رحمہا اللہ نے کہا کہ فرزند عبدالقادر پیدا ہوا ہرگز رمضان میں پستان میرا نہیں چوسا اور شیر نہیں پیسا یہ دولت ماورزا اور مضمون حدیث شریف کا السعید من سعد فی بطن امہ معنی حدیث شریف کا یہ ہے کہ نیک بخت مانگے پیٹ سے نیک بخت ہے کہ پیدا ہوئیے اور عالم طفلی میں روزہ رکھا تا م رمضان شریف کا جیسا جناب امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے تعظیم اور تکریم کی ہے مانگے پیٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی والدہ شریفہ فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاتے تھے یہ لڑکا میرے پیٹ میں کھرا ہوا جاتا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لجاتے تھے تب میرے کو آرام ہوتا تھا تب میں جانا کہ میرے پیٹ میں جو ہے تعظیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں اس مضمون موجب غوث نے پستان نہیں چوسا اور تربیت الہی ایسی ہو اور یہ نشان وراثت کا لہ ہے واسطے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کی اتھی (۷۵) کہا انیس جلیس شارح ابن بابویس میں (۷۶) کہا امام عبدالقادر شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ المفائر مناقب غوث الملکوت قطب الصمدانی شفیع الربانی شرف الاقطاب سید السادات محی الدین سید عبدالقادر الحسینی الحسینی اجمالی ذکر کیا ہے نسب شریف کا رضی اللہ عنہ شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن ابی عبداللہ بن محمی الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ ابون بن عبداللہ الحمض و نیت بالجل بضم الیم و تشدید اللام من الاجلال بن حسن المثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب رضوان اللہ علیہم اجمعین سبط سید عبداللہ الصومی الزاہد اتھی (۷۷) کتاب وقائع خلفاء عباسیہ میں تحت ذکر مستغنی باللہ ابو المظفر یوسف بن محمد فی سنہ

چار سو ایک سٹھ میں جو وفات ہوئے شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور میر محمد الدین عبدالقادر بن ابی صالح موسیٰ بن ابی عبدالعزیز بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبدالقادر بن موسیٰ جون بن عبداللہ محض بن حسن المثنیٰ بن الامام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے سال چار سو ایک ہتر میں انتہی (۷۸) کہا عالم علامہ جامع سید احمد بن مبارک الملطی نے اپنی بریز میں انتہی (۷۹) کتاب جامع الاصول مشہور میں ہو انتہی (۸۰) کہا شیخ مجہبی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاثر ترجمہ سید نعمت اللہ میں (۸۱) کہا عالم سید عبداللطیف شاہ نے اپنی کتاب فضل الخطاب میں (۸۲) کہا امام عارف باللہ سید عبدالرحیم البرعی نے ذکر کیا ہے نسب شریف اپنے قصیدہ لہر بابیہ مستوسلا فیہا بالحضرة النبویہ جو سید عبدالقادر جیلانی صاحب شرافت اولاد فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ سے ہے مانند آفتاب کے کہ طلوع ہوتا ہے (۸۳) کہا شیخ جبرتی نے اپنی تاریخ ترجمہ سید عبدالخالق مصری میں انتہی (۸۴) کہا ملا سیدی محمد تونسلی نے (۸۵) کہا شیخ سیدی محمد ابن اسماعیل کیالی طلی نے جو حاصل ہو مشرب سفیہ طریقہ قادریہ شاذلیہ رفاعیہ اور نقشبندیہ مقدم ہو اوپر جمیع طریقوں کے ساتھ شہادت پچھتر علماء اعلام سے آئے۔ (۸۶) کہا شیخ محمد عیسیٰ قیروانی نے (۸۷) کہا شیخ محمد امین گیلانی تونسلی نے اپنی کتاب مواہب جلیلیہ میں (۸۸) کہا قطب کامل سیدی عبداللہ علوی بینی نے (۸۹) کہا ابن فضل اللہ صاحب نے اپنے سالک الامصار میں (۹۰) کہا ابن شاکر نے اپنے تذکرہ میں (۹۱) کہا ابن زکی نے (۹۲) کہا سید مصطفیٰ بکری نے (۹۳) کہا علامہ نیر فی نے (۹۴) کہا امام ابن الارزق نے (۹۵) کہا سید عبدالسلام الاسمر نے (۹۶) کہا امام سترلی نے (۹۷) کہا عالم ربانی سیدی بکر شطالہ الکی نے اپنی کتاب فتوح الرحمن میں (۹۸) کہا شیخ عیسیٰ التجانی نے اپنی شرح استغناء بین تصریح کیا ساتھ نسب شریف جلی کے عند قول فی التظم اپنے نزدیک اپنے قول کے نظم میں۔

مولای عبدالقادر الجیلانی	عونا علی ذی خمسة اطمانی
(۹۹) عالم علامہ ابوالحسن قافقی شاذلی نے اپنے قصیدہ میں۔	
یار بنابا المصی کل النورانی	قطب الوجو و منجد العیانی

مع اسما آباءہ الکرام از (۱۰۰) کہا شیخ عبدالحق محدث و بطوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الکلام
 میں (۱۰۱) کہا عالم شیخ ابی بکر عبداللہ بن نصر الصدیق شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب انوار الناظر
 فی مناقب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۲) کہا عالم امام محمد بن سعید زنجانی الشافعی رحمۃ اللہ
 علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الناظر و زہرۃ الخاطر فی مناقب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۳)
 کہا عالم حافظ قسطلانی شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب روض الظاہر فی مناقب سید عبدالقادر
 (۱۰۴) کہا شیخ محمد الدین فروزا باودی شافعی صاحب قاموس نے اپنی کتاب روض الناظر فی مناقب
 سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۵) کہا سید عبدالقادر عیدروس شافعی نے رحمۃ اللہ اپنی کتاب
 دار الفاخر فی مناقب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۶) کہا نواز ساروٹی نے اپنی کتاب مرآت الناظر
 فی مناقب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۷) کہا علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب زہرۃ الخاطر
 فی مناقب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۸) کہا امام مقدسی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ہجرت الناظر
 فی مناقب شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۰۹) کہا امام سید حاتم اہلال رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب
 انوار الفاخر فی مناقب شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۱۰) کہا امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے اپنی
 کتاب عقد الجواہر میں (۱۱۱) کہا شیخ عبدالکریم حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ثقات الربانیہ فی مقامات اہلبیانہ
 میں (۱۱۲) کہا امام ناصر الدین دمشقی نے اپنی کتاب تہذیب الجواہر فی مناقب سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں
 (۱۱۳) کہا ابو الحسن علی یعقوبی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب دار الناظر فی مناقب شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ
 عنہ میں (۱۱۴) کہا امام ابن ملقن سراج الدین عمر ابو حفص عمر بن علی بن احمد بن محمد انصاری شافعی
 رحمۃ اللہ نے جو وفات پائی ہے سال آٹھ سو وین اپنی کتاب در الجواہر میں (۱۱۵) کہا ماشی گیلانی
 حسنی نقیب سماہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب لوامع الانوار میں (۱۱۶) کہا عالم علامہ قدوہ فہامہ محمد بن محمد
 بخشعی طبری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شمس الفاخر فی مناقب شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں (۱۱۷)
 کہا عالم علامہ جہو فہامہ شیخ سید محمد علی ابن الاستاذی سیدی مصطفیٰ ابن عزور فقہنا اللہ پر کاتہ
 تونسسی نے اپنی کتاب سیف الربانی فی عنق العترض علی الثوث لہبجیلانی میں ساٹھ کتاب معتبرات

نسب شریف حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی عنہ کا بنوب وجہ سے ثابت کیا ہوا اور جواب بنوب وجہ سے منتر ضمین رفاعیہ کو دیا ہوا اول سے آخر تک اور علماء اعظام کے تقاریظ و مواہب سے ملوے اور شمس النہار سے ظاہر باہر ہے یہ کتاب عام وودفہ مطبوع ہو گئی ہے انتہی (۱۱۸) کہا سلطان داراشکوہ ابن سلطان شہاب الدین شاہچہان دہلوی نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں نسب شریف کو جانین سے سلسلہ وار ثابت کیا ہوا اور کہا ہے حضرت غوث الثقلین شاہ محی الدین سید عبدالقادر حسنی حسینی رضی اللہ عنہ اور یہ سید العارفین فخر العابدین قطب صدیقی سید عبدالقادر جیلانی ہوا بن سید ابو صلاح موسیٰ حبیبی دوست الخ اور مقامات و کرامات خوارق عادات سب تحریر کیا ہوا کتاب عام ہر طالع میں انتہی (۱۱۹) کہا عالم فاضل محمد صادق لطیفی قادری متخلص بشرنی نے اپنی کتاب خوارق صاۃ میں مواہب قادریہ میں اور کہتا ہے بحوالہ انساب وغیرہ کتابوں سے صحیح ہے نسب شریف سرور شریف جو ہر عظیم قطب ربانی محبوب جانی ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی ابن سید ابی صلاح موسیٰ اور یہ ابن عبداللہ اور یہ ابن سیدی زاہد اور یہ ابن محمد سید اور یہ ابن سید واو اور یہ ابن سید موسیٰ ثانی اور یہ ابن سید عبداللہ ثانی اور یہ ابن سید موسیٰ جون اور یہ ابن سید عبداللہ محض اور یہ ابن سید حسن شتی اور یہ ابن امام حسن مجتبیٰ اور یہ ابن امام علی رضی اللہ عنہ وغیرہم جمعین انتہی (۱۲۰) کہا عالم فاضل صاحب تدریس اور سالک کامل لاشک و لاریب حضرت شیخ محمد شعیب قدس سرہ حنفی قادری نقشبندی چشتی پشاوروی نے اپنی کتاب مرآة الاولیاء میں ثابت کیا ہے غوث الاعظم غوث الثقلین سید عبدالقادر ابن ابی صلاح موسیٰ ابن سید عبداللہ ابن سید سیدی زاہد ابن سید محمد ابن سید واو ابن سید موسیٰ ابن سید عبداللہ محمد ابن سید موسیٰ جون ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن شتی ابن امام حسن مجتبیٰ ابن امام علی رضی اللہ عنہ وغیرہم جمعین انتہی (۱۲۱) کہا عالم فاضل سالک کامل حضرت شیخ سید میرزا جاجانان مظہر شہید نقشبندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسمولات مظہریہ میں تحریر کیا ہے سید السوات سید عبدالرزاق نے اپنے والد سے قطب ربانی محبوب سبحانی غوث الثقلین سید محی الدین عبدالقادر جیلانی اور جناب محبوب جانی نے اپنے والد سید

ابن صالح موسیٰ جلی دوست سے اور یہ اپنے والد اور اپنے شیخ سید عبداللہ سے اور یہ اپنے والد اور اپنے شیخ سید سیدی زاہد سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید محمد سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید داؤد سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید موسیٰ سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید عبداللہ سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید موسیٰ جون سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید عبداللہ محض سے اور یہ اپنے والد اور شیخ سید حسن ثنی سے اور یہ اپنے والد امام المؤمنین اور قدوة المتقین امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور یہ اپنے والد امام ہدی امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے اور اپنی والدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور یہ دو وزن جناب سید المرسلین خاتم النبیین شیخ المذنبین احمد مجتہبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہتی (۱۲۲) کہا عالم فاضل خواجہ محی الدین معروف بسید شاہ بن محی الدین قادری کر نولی حیدرآبادی نے اپنی کتاب معدن الاسرار فی بیان جواہر الاسرار میں نزدیک ذکر سلسلہ قادریہ کے سلطان الاولیاء سید عبدالقادر اور یہ اپنے والد سید ابیصلح موسیٰ سے ان کا امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ عنہ تک آہتی (۱۲۳) کہا عالم فاضل سید شاہ محمد قادری نے اپنی کتاب مشکوٰۃ ولایۃ الکبریٰ میں سید الاولیاء الاولین والآخرین فزوالاؤ غوث الاعوان محبوب بھائی سید عبدالقادر جیلانی الحسینی آسینی رضی اللہ عنہ وارضاه آہتی (۱۲۴) کہا تذکرہ و تاریخ بلخ عبد المؤمن خانی میں۔ بدانکہ حضرت غوث اعظم سید محی الدین جیلانی بن سید ابیصلح موسیٰ بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید سیدی زاہد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید داؤد بن حضرت سید موسیٰ بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید موسیٰ جون بن حضرت سید عبداللہ محض بن حضرت سید حسن ثنی بن حضرت امام حسن بن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین اور والدہ شرفیہ امۃ البجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ موسیٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے آہتی (۱۲۵) کہا عالم محدث متقی شیخ عبدالحی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الانبیاء میں قطب الاعوان فزوالاؤ غوث الاعظم شیخ شیبیخ العالم غوث الثقلین امام الطائفتین شیخ الطاہرین شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر الحسینی آسینی جیلانی رضی اللہ عنہ اور یہ اصفا و عبداللہ محض بن حسن الثنی بن امام المسلمین امام حسن بن امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین (۱۲۶)

کہا عالم شیخ احمد مغربی گنج بخش نے اپنے رسالہ عزیز میں (۱۲۷) کہا عالم میر محمد صادق قوری اورنگ آبادی نے اپنی کتاب محبوب العالی میں (۱۲۸) کہا کتاب محبوب القلوب اردو میں (۱۲۹) کہا عالم حسن قطبی نے اپنی کتاب اللطائف القادرہ میں (۱۳۰) کہا عالم محدث محی الدین نوری نے اپنی کتاب بستان العارضین میں (۱۳۱) کہا عالم سید عطا حسین نے اپنی کتاب کثر الانساب نزدیک ذکر اولاد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے اور نسبت ثانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے (۱۳۲) کہا عالم فاضل کامل شاہ ابی معالی نے اپنی کتاب تحفۃ القادرہ اور ثابت کیا جو نسب شریف حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا (۱۳۳) کہا عالم کامل صاحب تاسیخ ابو عبد اللہ سید محمد بن سید محمود بن سید احمد بن سید حسن حسینی ترمذی اکبر آبادی المدعو بظہر الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خضر الاولیاء میں جو تصنیف ہوئی ہے ستمہ زمانہ شاہجہان شاہ اللہ بادشاہ غازی دہلوی کے تاریخ ولادت و رحلت حضرت قطب الاقطاب غوث الثقلین شیخ ابی الحسن والانس سید محی الدین شاہ عبدالقادر جیلانی احنبلی رضی اللہ عنہ - منقول یہ سے

آنکہ بیشک قطب ربانی بود	بیجان محبوب سبحانی بود	شاہ شادان شیخ عبدالقادر	ولشیں دولہا و دولہا بہرست
سید عالی نسب را ولیا است	نور چشم مصطفیٰ قرظی است	سال مولودش زواج کہر با	گفت واقف زیب تاج اویا
سال مولودش کہ برین است	شدر تم محبوب عبدالقادر است	عقل نقل سال آن عالی شہم	صاحب زردوس عالی زورم
ایضالہ			
آنکہ محبوب حضرت حق است	بہر آفاق رحمت حق است	قطب بغداد غوث جیلانی	لیس فی الدہر مثلاً ثانی
او ہمیشہ چرخ سر کاب آمد	قدش مالک ارقاب آمد	قطب و بدان بصدق یقین	قطب کوئین شاد محی الدین
ذات و صاحب کرامات است	بیجان آبروی ساوات است	رحلی و حبلی و بغدادی	بیشک و شبہ ہندی ہادی
حسینی حسینی بہت شریف	اسن و حسن لطیف و لطیف	پدرش راست نسبت حسن	بیشک سرب بالام حسن
ماوش راہ جعفر صادق	نسب راجح بہت و ہم ذات	ہرگز ابرسیا و تش سن بہت	دیش زن کہ کند ترویج است
رافضی گفت شاہ نسبت	گفتہ رافضی مویذ نیست	خارجی گفت آن بلند زراد	فی زنی وانشہ بہت فی ولولاد

<p>انگرا و لاد اوست پیشانیان ذات آتش روشن سہ چہ ماہ وصف اور شمار ستوا نم سال فوخندہ ولادت او پیشک و شبہ از بیع دوم گفت سال وصالش از اول شہد رقم سال نقل افسانے ما دی خلق بود سوی خدا</p>	<p>بہت مثل برادرش بچیان باز اولاد او برفت و جاہ بلکہ یک از ہزار نتوانم ولی مالک الرقاب بگو روز آدینہ بود یازدہم صاحب رونق جان خودان قدس الصدوہ العالی قدس اللہ سرہ ابدار</p>	<p>بچنین گفتگوی نامستول تا قیامت ہمیشہ معمورست سل مولودان معلی شان سال مولودان سعیدانزل کہ ز دنیا باوج علیین گفتہ ام سال نقل آن حق سرا مہ قد پاک اوست در بنیاد</p>	<p>آن دو بد کیش گشتہ از فضول در و آفاق فاضل نورست ہاتقم گفت کاشیتہ و چہ مان سراقطاب و او کیا ہی اجل ہمچو خورشید شد ز روی زمین قطب قطاب عالم اقدس اہل عالم از درگرفتہ مراد</p>
<p>(۱۳۴) کہا عالم فاضل شیخ کامل قدوۃ السالکین</p>			
<p>شیخ معظم سید آدم بنوری نقشبندی قدس سرہ بن سید اسمعیل بن سید سپوہ بن سید حاجی یوسف بن سید سید یعقوب بن سید حسین بن سید اقبل بن سید سعدی بن سید قلندر بن سید محمد بن سید علی بن سید ابراہیم بن امام موسی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہم جمعین جہا جہدینہ منورہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نکات الاسرار میں تحریر کیا جو کہ ایک روز مجلس شیخ فرید الدین محمد شکر گنج قدس سرہ رونق افروز ہوئے اور کہا کہ شیخ فرید قدس سرہ نے فرمایا کہ قدم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کار کھا حضرت شیخ معین الدین قدس سرہ اپنی گردن پہرا گزین اوس زمانہ میں ہوتا تو قدم مبارک میں اپنی آنکھوں کے کاسہ پر کھتا اور یہ منصب میرا ہوتا اور افتخار میرا ہوتا (۱۳۵) کہا مخزن القادریہ میں روایت ہو حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ رکھا اپنا سجاوہ امانت اپنے عجب کے پاس اور وصیت کی اسکو حفاظت سے رکھنا اور ہاتھ بہا تھہ تاقرن خاس تا کہ ظاہر ہوگا غوث اعظم اور سہی ہے ساتھ سید عبدالقادر حسنی گیلانی اور یہ امانت اونکی ہی اوکا نا اور سلام ہیری طرف سے پہنچانا انتہی (۱۳۶) کہا شیخ محمد بن شیخ یحییٰ تادفی نے اپنی کتاب قلابد البحر میں اور کہا قطب ربانی شیخ عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات لواتح الانوار میں اور شیخ محمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں روایت کیا شیخ محمد شہبانی رحمۃ اللہ علیہ نے</p>			

ماہ

علیہ نے بدرستیکہ کہا شیخ ہمارے ابو بکر بن ہوارا بطایحی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تھے اور کہا تو ہوا عراق
 کے آٹھ مہینے معروف الکرمی و امام احمد بن حنبل و بشر حافی و منصور بن عمار و جلید بغدادی و شری
 سقطی و سہل بن عبد اللہ قسری و شیخ سید عبدالقادر جیلانی کہا میں نے کہ شیخ سید عبدالقادر کون
 ہوا اور کہا کہ مرومعی شریف ہو کہ سکونت کر لیا بغداد میں اور ظاہر ہو گا قرن خاس میں اور ایک فرد
 ہو گا صدیقین اور او تو ہوا اور قاطب اپنے زمانہ میں انتہی (۱۳۵) کہا بدرالدور امام علماء قاضی
 الاسلام محمد صلیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نثر الجواہر فی مناقب شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں
 انتہی (۱۳۸) کہا کتاب جمل تین مین انتہی (۱۳۹) کہا عالم ربانی شیخ لاثانی سید جلال الدین بخاری
 قدس سرہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاسرار میں (۱۴۰) کہا عالم فاضل کامل عبد اللہ طینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
 کتاب خوارق الاخیار میں (۱۴۱) کہا عالم علامہ جبر فہاشہ شیخ شرف الدین سید عیسیٰ بن حضرت
 غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر الاسرار میں (۱۴۲) کہا عالم عامل شیخ کامل بدیع الدین
 شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات میں (۱۴۳) کہا شیخ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے
 اپنی کتاب سیر العارفین میں (۱۴۴) کہا شیخ عبدالرشید بن محمد جلیلی قدس سرہ نے اپنی کتاب حقائق
 میں (۱۴۵) کہا ولی کامل سید محمود جہانیاں جہان گرد قدس سرہ الغزینی نے اپنی کتاب سیر المسافین
 میں انتہی (۱۴۶) کہا زبدۃ الاولیاء و العارفین المتقین خواجہ حسن معین الدین سجری حقیقی رحمۃ اللہ
 علیہ بن خواجہ غیاث الدین سجری بن خواجہ نجم الدین طاہر بن خواجہ عبدالعزیز طہر بن سید مصطفیٰ بن سید
 ادریس بن امام سید موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بن امام محمد باقر رضی اللہ عنہ
 بن امام زین العابدین علی رضی اللہ عنہ بن امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ بن امام و امیر المؤمنین سیدنا
 علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم جمعین نے اپنی کتاب تشریح الاولیاء میں تاریخ وفات خواجہ قدس سرہ امیر
 یوم جہد ششم ربیع الثانی میں قبر شریف امیر شریف میں انتہی (۱۴۷) کہا شیخ بہا الدین آملی رحمۃ اللہ
 علیہ نے اپنی کتاب انیس القادریہ میں (۱۴۸) کہا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اپنی
 کتاب خلاصۃ القادریہ میں (۱۴۹) کہا شیخ سید محمود گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحائف الغرائب

میں (۱۵۰) کہا سید محمود قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اوراد قادریہ میں (۱۵۱) کہا ولی کامل شیخ
 فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسرار السالکین میں نسب شریف شیخ السلیمن شیخ فرید الدین
 ابن شیخ جمال الدین سلیمان ابن تفریح شاہ ولی کامل ابن شیخ محمد داؤد ابن شیخ محمد طفیل ابن شیخ
 عبد الجلیل ابن شیخ عبد الجبار ابن شیخ عبد اللہ صحرائی ابن شیخ عمر عطاری ابن شیخ محمد زکریا ابن شیخ ابراہیم
 ابن شیخ قاسم ابن شیخ حضرت عبد اللہ بن امیر المؤمنین و امام الاعلیٰ بن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم
 اجمعین سال عمر شریف ۸۰ اور وفات ہوئی یوم شنبہ تیسرے ۵ محرم سنہ ۶۷۱ قمر شریف پاک پٹن ضلع
 ملتان میں (۱۵۲) کہا عالم ربانی تبحر لاثانی مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی نے اپنی
 کتاب شواہد النبوة میں (۱۵۳) کہا شیخ محمد ابراہیم بدری رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات حقیقۃ الحقایق میں
 انتہی (۱۵۴) کہا شیخ موسیٰ تہتوی قدس سرہ نے اپنی کتاب عاملۃ القصہ میں (۱۵۵) کہا عالم کمال الدین
 بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف اللطیفہ میں (۱۵۶) کہا شیخ داؤد قیصری رحمہ اللہ نے اپنی شرح
 فصوص میں (۱۵۷) کہا عالم معنی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خزینۃ الاصفیاء میں جو
 مناقب جمیع خوارق و کمالات و ثبوت نسب شریف اٹھارہ کتاب سے ثابت کیا ہے حضرت محبوب جلالی رضی اللہ
 عنہ کا یہ کتاب لاہور میں عام ہو محبوب الثقلین سید الکوثرین ابو محمد محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی
 ابن سید صالح موسیٰ ابن سید عبداللہ ابن سید سیدی زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی
 ابن سید عبداللہ ثانی ابن سید موسیٰ جون ثالث ابن سید عبداللہ محض ابن سید محمد شہور حسن ثانی ابن
 الامام سیدنا حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین (۱۵۸) کہا عالم محمد شاہ رحمہ اللہ
 نے اپنی کتاب سلطان الاذکار میں (۱۵۹) کہا کتاب تنویر السیرین حضرت غوث الاعظم قطب الاکرم
 سلطان الاولیاء ربان الاصفیاء قطب الاقطاب فرد الاحاب غوث الثقلین کہف السخافین محی الدین ابو محمد
 سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سید سنی بہن جانب پدر سے اور سنی بہن جانب مادر سے تولد ہوئے
 گیلان میں اور یہ جو نسب شریف جانب پدر سے سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی ابن سید ابو صالح
 موسیٰ جنگی دوست ابن سید عبداللہ ابن سید سیدی زاہد ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید موسیٰ ثانی ابن سید

عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض ابن سید حسن ثنی ابن سیدنا امام حسن ابن امیر المؤمنین
 سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم جمعین انتہی (۱۶۰) کہا قاضی محمد یوسف نے اپنی کتاب زین العابدین
 میں (۱۶۱) کہا ابن اہل نے اپنی تاریخ ترجمہ میں (۱۶۲) کہا شریف توشی نے اپنے منظوم میں (۱۶۳)
 کہا امام عینی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ غوث جیلانی میں (۱۶۴) کہا ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ کبیر
 میں انتہی (۱۶۵) کہا سید عبدالرزاق ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ میں انتہی (۱۶۶) کہا عالم مقتدی
 رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ میں (۱۶۷) کہا عالم ابن کثیر محدث رحمہ اللہ نے اپنے مورخ ترجمہ میں انتہی (۱۶۸)
 کہا کتاب اقتباس الانوار میں انتہی (۱۶۹) کہا اور میان کتاب اخبار الاولیاء میں انتہی (۱۷۰) کہا شیخ
 محمد شام بجا پوری علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ الاولیاء میں جو نام اوسکا جو انتہی (۱۷۱) کہا امام ربانی مجدد
 الفنا ثانی شیخ احمد سہروردی قدس اللہ سرہ العین نے اپنی کتاب مکتوبات تیسری جلد چھٹی مسرۃ الحقائق
 جو دومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ جانا چاہے کہ راہ جناب ہا بیتعالیٰ کے
 جو وصل یعنی ملائیے دو ہیں اور وہ رستہ جو ساتھ نزدیک کے تعلق رکھتا ہو علیٰ راہا بہا الصلوٰۃ والسلام و
 موصل اصل الاصل رت اور ملائیے الاصل کا اصل ہے یعنی جڑ ہے اور اصلان یعنی پھینچانے والے
 یعنی اللہ تعالیٰ سے پیوستہ کرنیوالے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں اور اصحاب اور جمع است یہاں تک
 ہر کسی کو اس دولت کے ساتھ نوازش فرماوین اگرچہ اندک ہووین بلکہ اعلیٰ اس رستہ میں توسط اور حیولت
 نہیں ہو جو کوئی ان واصلوٰۃ سے فیض مند ہوتا ہو نیز واسطہ ایک کے جو اصل سے لیتا ہے اور کوئی ایک
 دوسرے کو حاصل نہیں ہو اور رستہ ہو کہ ساتھ قرب والا ایک تعلق رکھتا ہے اقطاب واذا وہد لنا نجبا
 عام اولیاء اللہ اس رستہ میں اصل یعنی ملے ہوئے ہیں رتہ سلوک عبارت اس رستہ سے بلکہ جذبہ
 متعارف یعنی اس میں جو اور توسط حیولت اس رستہ میں کائن یعنی واقع ہے اور پیشوا واصلوں کا اس رستہ کا
 اور سردار نکاح اور بیعت فیض ان بزرگواروں کا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے اور یہ منصب عظیم الشان
 اس جناب سے تعلق رکھتا ہو اور اس مقام میں گویا ہر دو قدم مبارک آئندہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوپر
 فرق مبارک اور سکے ہو کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و حضرت حسن بن رضی اللہ عنہما اس

مقام میں شریک ہیں ساتھ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جانو اس بات کو کہ حضرت امیر پہلے پیدائش
عصری صاحب اس مقام کے تھے چنانچہ بعد از پیدائش عصری کے جسکو فیض اور ہدایت اس رستہ
سے پہنچتا ہے بواسطہ جناب پہنچتا ہے حضرت نزدیک منتہای نقطہ دائرہ اس رستہ کا اور مرکز اس مقام کا
تعلق الٹے ہے اور جو وہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا تمام ہوا یہ عظیم القدر حضرات حسنین رضی اللہ
عہما کو سپرد ہوا تسلیم کر چکے اور حسنین شریفین رضی اللہ عنہما کے بارہ امام رضی اللہ عنہم کو بموجب ترتیب
اور تفصیل قرار پایا اور بیچ اعصار ان بزرگواروں کے ایسا ہی بعد وفات ان بزرگواروں کے جسکو فیض
اور ہدایت پہنچتا ہے ساتھ واسطہ ان بزرگواروں کے ہے اور ان کے وسیلے سے اور واسطہ سے ہر چند
یعنی اگرچہ آفتاب اور منجرب وقت ہو میں ملاؤ و ملجا یعنی آرزو اور جگہ پناہ کی سب بزرگوں کی یہ حضرات
تھے کیا اطراف کو بغیر از حقوق این مرکز یعنی بغیر ملاپ اس مرکز کو چارہ یعنی علاج نہیں ہے یہاں تک جو
نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کو پہنچی اور جو نوبت اس بزرگوار کی ہوئی
منصب مذکور حضرت شیخ سید عبدالقادر قدس سرہ مفوض گشت یعنی سپرد ہوا اور درابین ائمہ مذکورین
و حضرت شیخ سید عبدالقادر قدس سرہ کوئی آدمی اس مرکز پر شہود نہیں ہو سکتا ہو اور وصول فیض
وبرکات اس رستہ میں جو کوئی ہو خواہ آفتاب سے یا منجرب سے ساتھ واسطہ شریف کے مفہوم ہے
اور یہ مرکز یعنی مرتبہ دوسرے کو میسر نہیں ہے اس سے ہو کہ جناب نے فرمایا ہو کہ شعر

قلت شموس الاولین وشمسنا ابداعلیٰ افق العلیٰ لا تغرب

مراد شمس یعنی آفتاب سے فیضان و ہدایت اور ارشاد ہے اور یہ مرتبہ حضرت پر قرار پایا اور واسطہ وصول
اور ہدایت کے ہوئے بغیر واسطہ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کے خدا تعالیٰ سے واصل نہیں ہو سکتا ہوا
(۱۷۲) کہا شیخ موسیٰ ہتوی سہروردی نے اپنی کتاب تفریح النحاطین اور نقل کیا کتاب مکاشفات
جدید سے کہ تجلی کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر سردار طایفہ اور سردار طائفون کا حضرت شیخ جدید بغدادی
قدس سرہ کے دن جمعہ کے درمیان خطبہ کے اور متفرق ہوئے جو مکاشفہ شہود میں اور کہا حضرت
شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قدم آپ کا ہماری گردن پر ہے بغیر انکار کے اور سر جھکا ہے اور اوترے منہ

کے پایہ سے اور بعد تمام کرنے خطبہ اور نازکے ہوش میں ہوئے اور سوال کیا ایشے جو کیفیت گذری در میان خطبہ کے کہا سردار طائفہ نے اللہ تعالیٰ نے کشف کیا میرے کو یعنی دکھایا عالم غیب سے بدرستیکہ ظاہر ہوگا در میان قرن خامس کے ایک مرد اولاد سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہوگا قطب عالم کیواسطے اور لقب ہوگا ساتھ نام محی الدین اور محی الدین اسمی ساتھ عبدالقادر رضی اللہ عنہ اور یہ غوث اعظم ہوگا اور پیدائش انکی گیلان میں اور ماورہ ہوگا ساتھ کہنے قدیمی ہذہ علی دقتہ کل ولی و ولیة اللہ من الاولین والآخرین سوی الصحابة والائمة من ذریة خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اہتی (۱۷۳) کہا عالم فاضل اویسی شیخ مصطفیٰ البیہابی اہلبی رحمہ اللہ نے اپنے دیوان میں قصیدہ اور مہج کیا جو ساتھ اسکے حضرت سیدنا رسولنا شیخ الاسلام و المسلمین غوث الثقلین سید محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسینی الحسینی رضی اللہ عنہ اور شعر قصیدہ کا یہ ہے

شعر

برقائق و لہذا والد جاہادی	علی العواصم من اکناف بغدادی
---------------------------	-----------------------------

یہ سب بیس اشعار میں عربی میں تحریر میں آخر تک (۱۷۳) کہا ملفوظ غیانی میں (۱۷۵) کہا در میان ہدایۃ الاحوال میں (۱۷۶) کہا منازل الاولیاء میں (۱۷۷) کہا کتاب التباس میں (۱۷۸) کہا مرآة الضمیر میں (۱۷۹) کہا انوار محمدی میں (۱۸۰) کہا مجموعہ فضائل میں (۱۸۱) کہا عالم علامہ مولوی غلام دستگیر و حرم نقشبندی ہندی نے تحفہ دستگیر یہ میں (۱۸۲) کہا تنویر العیون میں اور بیان کیا تواریخ اجداد اکرام حضرت غوث الثقلین و قطب الکونین ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر الحسینی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ کے تاجناب امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ عنہ تک بدانکہ بدرستیکہ حضرت غوث الاعظم و قطب الاکرم سلطان الاولیاء برائے الاصفیاء قطب الاقطاب و الاحباب غوث الثقلین کہنا ناقصین سید ابو محمد عبدالقادر الحسینی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ وارضاه عنما سید حسینی بن جانب پدر سے اور اور سید حسینی بن جانب مادر سے اور والدہ ام اخیر اتمہ ابجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی زاہد کے میں اور پیدائش سے سال چار سو ایک ہتر میں اور وفات ہوئی سال پانچ سو باسٹھ میں اور حضرت غوث رضی اللہ عنہ بیٹے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے نام موسیٰ اور لقب جنگی دوست اور کنیت ابو صالح

بیٹے سید عبداللہ کے اور والدہ انکی عایشہ بنت شیخ ابوالنصر بن شیخ عبداللہ کے جو مشایخ کبار جیلان کے
 ہیں اور پیدا ہوئے دن چہار شنبہ کے تاریخ ۱۵ ماہ شعبان کے زمانہ شاہ محمود بن شاہ علاء الدین سنہ
 ہجریہ میں جب عمر جوئی اونہتر برس کی تب پیدا ہوئے سید عبدالقادر اول ماہ رمضان میں اور زندگانی پایا
 نواسی برس تک اور وفات ہوئی جمعہ کے دن ۱۲ تاریخ ماہ ربیع الاول کے بیچ زمانہ شاہ عباس بن شاہ
 محمود کی قبر شریف جیلان میں اور نقش نگین انگشتری کاھو الحی القیومہ اور خادم احمد بن صالح اور
 اولاد و سید عبدالقادر قدس سرہ و سید محمد اور سید محمد وفات ہوئے جوان انتہی سید عبداللہ صالح مذکور
 نام عبداللہ و لقب صالح و کنیت ابی محمد صادق ابن سید سیدی زاہد کے اور والدہ حمیدہ دختر شیخ عقیل
 ابن شیخ موسیٰ جیلانی اور پیدایش انکی جیلان میں روز چہار شنبہ تاریخ ۱۱ محرم بیچ زمانے شاہ علاء الدین
 بن شاہ فیروز سال ۴۲۴ جب عمر میں سال کی ہوئی تب پیدا ہوئے سید ابوصالح عبداللہ سال ۴۹
 زندگانی کیا اور وفات ہوئی یکشنبہ کے دن مرض تپ وق سے تاریخ ۷ ماہ صفر کے بیچ زمانے شاہ ضیاء الدین
 بن شاہ علاء الدین کے نقشب انگشتری میں و امر دالا کیعبد واللہ اور خادم محمد ہاشم اور دو فرزند پیدا ہوئے
 ایک عبدالکوام اور دوسرا ابوصالح سید عبداللہ اور بھرانساب میں ہے کہ جامع اور متفرق ہے ساتھ ذکر
 سبحانہ و تعالیٰ کے اور باسم انت الھادی انت الحق لیس الھادی الاھو اور قبر شریف جبل کنور
 میں جو نزدیک ہے قریہ بدر تپاک انتہی سیدی سیدی زاہد مذکور بن سید محمد نام سیدی لقب زاہد واقعی اور کنیت
 ابوعلی اور والدہ شریفہ فاطمہ دختر شیخ محمد بن احمد باقلانی مشایخ کبار اور سردار زاہد ون کا اور احوال عام
 صاحب کرامات ظاہر کے پیدا ہوئے سینچر کے دن ماہ شوال میں قریہ قلبینا جو نزدیک ہے گیلان کے بیچ
 زمانے شاہ فیروز بن شاہ عزت کے جب عمر ہوئی ۱۹ سال کی تب پیدا ہوئے سید ابوصالح عبداللہ جیلان
 محلہ توران میں سکنمہ اور سال ۴۸ اور وفات ہوئی جمعہ کے دن ۲۹ تاریخ ماہ رمضان میں مرض
 کاہوس سے قبر شریف جیلان میں اور نقش نگین انگشتری کی هو الحی القیومہ اور خادم نور الحق بن
 فضل نام اولاد پھر اور دختر پھر تو موسیٰ و عبداللہ صالح اور دختر ایک نام سلیمہ اور موسیٰ و سلیمہ
 وفات ہوئے صغیری میں انتہی سید محمد مذکور بن سید واو نام سید لقب عابدین اور کنیت

ابن احمد تاج الدین اور والدہ شریفہ علیہ بنت شیخ حبیب بن شیخ قاسم شنبکی پیدا ہوئے قلعینا میں چہار شنبہ کے دن تاریخ ربیع الآخر بیچ زمانے شاہ سلیمان بن شاہ احمد ۳۳۳ھ میں پیدا ہوئے سید رحی الزاہد سال ۱۱۰۰ھ اور وفات ہوئی جمہ کے دن تاریخ ۱۰ ماہ جب کے بیچ زمانے شاہ سلیمان ابن شاہ احمد ۳۳۵ھ قلعینا میں اور قبر شریف گیلان میں اور نقش نگین انگشتری کا از اللہ بالغ امرہ اولاد کے تو میں پسر چھ اور دختر تین اول عبد الواحد دوم عبد الوہاب سیدوم عبدالرزاق چہارم بھی زاہد پوچھ عبدالقادر ششم احمد ۳۳۵ھ دختر یکا ایندوم دوم زینب سیدوم عایشہ وفات ہوئے آٹھ آدمی صغیر قلعینا میں باقی رہا بھی زاہد اور خادم محفوظ بن زکریا انتہی سید داؤد مذکور بن سید موسیٰ زکریا نام داؤد و لقب سراج الدین اور کنیت ابابکر اور والدہ شریفہ فاطمہ دختر شیخ عثمان قسری بن شیخ محمد شجاع کبار عراق کے پیدا ہوئے دوشنبہ کے دن تاریخ ۹ جمادی الثانی بیچ زمانے شاہ عزت بن شاہ مصطفیٰ ۳۳۵ھ کیانی ماہ رجب سال عمر ہوئی ستائیس کی تب پیدا ہوئے سید محمد اور زندگانی کیا ۹۳ سال اور وفات ہوئی چھ شنبہ کے دن تاریخ ۲ ماہ شعبان مرض الفلج سے زمانے شاہ احمد بن شاہ نواز کے ۳۳۹ھ میں اور واسطے تحصیل کرنے علم ولغ اور شہر سمرقند کو گئے تھے سمرقند میں وفات ہوئی اور قبر شریف سمرقند میں اور نقش نگین انگشتری میں ان اللہ علی کل شیء قدیر خادم قاسم بن عمر اولاد سات نفر پسر چار و دختر تین پسر ان ایک محمد قاسم دوم عبدالقادر الحمد سوم محمد عابدین چہارم شہاب الدین اور دختر زینب و عزت انتہی سید موسیٰ زکریا مذکور بن سید عبدالقادر نام موسیٰ لقب شرف الدین و کنیت ابو زکریا اور والدہ شریفہ حفیظہ دختر شیخ ابو سعید بن قائل ابن ابی عبدالقادر صوفی پیدا ہوئے یک شنبہ کے دن تاریخ ۲۱ ماہ ذی الحجۃ احرام بیچ زمانے سجاد قلیخان ابن سلطان قلعینا ۳۳۹ھ شہر نعمان میں جب عمر ہوئی بیس سال کی پیدا ہوئے سید ابابکر داؤد اور اور زندگانی کیا ۹۰ سال دس ماہ اور وفات ہوئی جمہ سکون ماہ بیچ الاول بیچ زمانے سلیمان قلیخان بن سجان قلیخان ۳۴۳ھ نعمان میں مرض سلم سے اور قبر شریف جیلان میں اور نقش نگین انگشتری کا ان مرحمتہ اللہ قریب من المحسنین اولاد سے پسر عبد الوہاب عبدالقادر و ابابکر داؤد عبدالقادر وفات ہوئے صغیر نعمان میں انتہی سید عبدالقادر مذکور بن سید موسیٰ جون نام سید عبدالقادر لقب و کنیت ابوتاج الدین

اور والدہ شریفہ آمنہ و دختر مامون بن مارون پیدا ہوئے چہار شنبہ کے دن بیچ ماہ رمضان کے شہر طوس
 میں بیچ زمانے منقطہ باللہ بن مقتد باللہ ۲۲ جب عمر سوئی سترہ سال کی پیدا ہوئے سید موسیٰ زکریا اور
 اور زندگانی کیا، ۹ سال ۹ ماہ اور وفات ہوئے شنبہ کے دن تاریخ، ۷ ماہ جمادی الآخر بیچ زمانے
 منعم باللہ بن منعم باللہ ۲۸ شتائف حرب مروانیوں میں زخم نیرہ سے ہاتھ مسلم بن ابراہیم اولاد
 برادر مروان کے شتائف میں اور قبر شریف نعمان میں اور نقش نگین انگشتری میں حسبی اللہ نعم الکیل
 نعم الولیٰ و نعم النصدیر خادم ہاشم بن احمد متوکل اور ایک پسر و دو دختر پسر موسیٰ زکریا و دختر عجزہ
 و رحمت عجوزہ و رحمت وفات ہوئیں صنیر شتائف میں انتہی سید موسیٰ جون بن سید عبدالعزیز محض
 نام موسیٰ لقب جون کنیت ابو شہاب الدین اور والدہ شریفہ لبانہ و دختر شیخ فیض اللہ مشایخ کبار موصل
 کے پیدا ہوئے دو شنبہ کے دن تاریخ، ۷ ماہ رجب ۲۳ بیچ زمانے مامون بن مارون کے بیسی میں جب عمر سوئی
 ۲۵ سال کی تب پیدا ہوئے سید عبداللہ شہر طوس میں اور زندگانی کیا ۵۹ سال چہار ماہ اور وفات
 ہوئی طوس میں روز جمعہ تاریخ، ۷ ماہ صفر بیچ زمانے مقتد باللہ بن منعم باللہ ۲۲ اور قبر شریف
 طوس میں اور زندگانی کیا ۵۹ چہار ماہ اور قائل ہادی بن مامون بن عبدالملک بن مروان اور نقش نگین
 انگشتری میں لا الہ الاہو علیہ توکل و ہودب العرش العظیم خادم محمد بن احمد متوکل ہا بیچ پسر
 اور دختر و اول صالح دوم شرف الدین محمدی قاسم عبداللہ نام دختران سلیمہ و دوم فاطمہ خلافت سید
 عبداللہ کہ بیچ محمدی قاسم محمدی صالح سلیمہ یہ چاروں وفات ہوئے صنیر طوس میں انتہی اور کنز الانساب میں
 کہ سید موسیٰ جون پسر دختر امام محمد باقر رضی اللہ عنہ زمام بی بی صاحبہ شریفہ رقیہ نام اسنے پیدا ہوئے دو
 پسر ایک سید ابراہیم اونچی اولاد میں ہے اور سید عبداللہ کی اولاد ہے انتہی سید عبدالعزیز محض مذکور
 نام عبداللہ و لقب محمل اور کنیت ابو محمد بن الامام حسن ثانی اور والدہ شریفہ فاطمہ صغریٰ بنت امیر المومنین
 سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے روز شنبہ تاریخ ۱۵ ماہ شعبان کے ۵۵ اور دوسری روایت
 میں شنبہ قول صحیح بیچ زمانے سلیمان بن ابراہیم کے شہر مینان میں جب ۲۹ سال کی عمر ہوئی
 پیدا ہوئے سید موسیٰ جون اور زندگانی کیا ۶۹ سال بیچ ماہ اور وفات ہوئے روز شنبہ تاریخ ۱۰

ماہ محرم ۳۳ ہجری کے زمانے ولید بن ابراہیم موصل میں اور نقش نگین انگشتری میں عالم الغیب
 والشہادۃ ہوا الرحمن الرحیم خادم جعفر بن احمد مشول اور اولاد پسران مسات و دختران سہ
 ابوالقاسم محمد کنیت ابوالقاسم موسیٰ الجون و ابراہیم و عبد اللہ یحییٰ و سلیمان و ادیس و دختران
 زبدرۃ النساء و سکینہ و زینب انہی اور نورالابصار میں ہے کہا سید موسیٰ شعلنجی رحمہ اللہ نے وفات
 ہوئے عبد اللہ محض اور برادران کا باندہ بنام منصور عباسی میں اور وفات ہوئے عیسیٰ اور کہا نام محض
 جمع اول بدستیکہ در میان امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے حسیہ سے اور جمع ہوئے در میان
 حسین کے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اتنی سید حسن ثنی بن امام حسن رضی اللہ عنہ نام حسن لقب
 محمد و ابی عبد اللہ اور کنیت ابو عبد اللہ اور والدہ شریفہ کہ بانو دختر شید بن یزید جو پیدا ہوئے
 روز و شنبہ شہر شلوزان میں تاریخ ۲۹ ماہ رمضان کی ۳۳ ہجری کے زمانے امیر المؤمنین معاویہ
 رضی اللہ عنہ کے جب ۱۵ سال کے ہوئے خواستگاری کی اپنے عم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 دختر کی اور نکاح کیا فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور عمر ۲۷ سال کی ہوئی تب پیدا ہوئے
 عبد اللہ محض اور زندگی گائی گیا ۵۶ سال اور وفات ہوئے روز پنجشنبہ تاریخ ۵ شہر شوال سنہ
 اور قبر شریف نisan بن اور نقش نگین انگشتری میں واللہ بصیر بالعباد اور دوسری روایت
 ہے وفات ہوئے جناب حسن ثنی بن امام حسن رضی اللہ عنہ ۹۷ اور عمر شریف ۸۵ سال اور خادم
 احمد بن عبد اللہ اور دو پیر ایک دختر عبد اللہ محض و محسن اور دختر خیر النساء اور کثر الانساب میں ہے
 کہ جناب حسن ثنی کی والدہ شریفہ صفورہ دختر سعد بن زید بن الخطاب اور زید برادر تھا سیدنا
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اور کہا عمدة المحمّیین و افضل مشورین محمد بن اسمعیل سناری رحمہ اللہ
 تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح بخاری باب جنازہ میں باب ما یکوہ من اتخاذ المسجد علی القبور باب
 در بیان اس چیز کے کہ وہ ہے مسجد باندہنا قبروں پر ولما مات الحسن بن الحسن بن علی جو وفات
 ہوئے حسن ثنی بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم ضربت امرأۃ القبة علی قبرہ سنۃ خیمہ کفر الیابی بی
 فاطمہ صفری نے قبر پر ایک سال کہ وہ دختر جناب امیر المؤمنین امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹھو وضعت ہمعو

سغیۃ الاویار اور مرآت الاولیاء میں کہ تقریریں طبع میں ہوا حال گنبد اعلیٰ و مسجد و ہزار در ہزار ان زیارت
کو زور آتے ہیں، اور اپنے مقاصد اور مشکلات حل ہوتے ہیں چنانچہ اندسے اچھے صاحب بصارت
ہو جاتے ہیں اور لنگڑے اور گنگے اچھے ہوتے ہیں یہ سکین چھ برس بلخ شہر تاشقورغان میں تھا
اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوں اور زولانہ کھل جاتا ہے بغیر جانی کے اور نذریناز کا اندازہ نہیں
ہو (۱۸۳) کہا سید اسمعیل بغدادی نے اپنی کتاب فیوض الربانی فی مناقب شیخ سید عبدالقادر
جیلانی رضی اللہ عنہ میں انتہی (۱۸۴) کہا عالم ربانی نے اپنی کتاب نجم الزاہر فی المناقب سید عبدالقادر
الجیلانی رضی اللہ عنہ میں انتہی (۱۸۵) کہا عالم داؤد و اجودی رحمہ اللہ نے در بیان طفوفات سید
عبدالرزاق ابن غوث جیلانی رضی اللہ عنہ میں (۱۸۶) کہا عالم فاضل محمد علی خان نے اپنی کتاب
احسن الاذکار فی مناقب غوث الابراہیمین ثابت کیا ہے نسب شریف کو اور ثابت کیا ہے قدم شریف
حضرت کو سب اولیاء اللہ کی گروں پر انتہی (۱۸۷) کہا حضرت سید غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے
کتاب اسرار الطالبین میں انتہی (۱۸۹) کہا ابو الحسنات قطب الدین قادری قریشی نے اپنی کتاب
اعجاز معوشیہ میں انتہی (۱۹۰) کہا عالم مفتی مولانا محمد سعید نے اپنے رسالہ قول الجلی میں (۱۹۱)
کہا ابن حجر نے اپنی کتاب فتاویٰ حدیثیہ میں انتہی (۱۹۲) کہا عالم علامہ شیخ احمد بن محمد الوتری الوصلی
الشافعی الرفاعی نے اپنی کتاب روضۃ الناظرین میں انتہی (۱۹۳) کہا زین المہاسین قاضی محمد
نے انتہی (۱۹۴) کہا امام عبداللہ رافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نکلہ خلاصۃ المناظرین انتہی (۱۹۵)
کہا کتاب حقیقۃ الحقائق میں انتہی (۱۹۶) کہا در میان کتاب حیاۃ الحیاة میں انتہی (۱۹۷) کہا در میان
کتاب گلشن کلمات میں انتہی (۱۹۸) کہا کتاب مخارق القادریہ میں انتہی (۱۹۹) کہا کتاب ذرات ایضاً
میں (۲۰۰) کہا شجرۃ الانساب اہل بغداد شریف نے اور وہ عبارت عربی فارسی میں مطبوع ہو گئی ہو (۲۰۱)
کہا عالم علامہ سید حاجی قاضی طلا محمد پشاوری نے اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں جو سلسلہ قادریہ منظوم
چہار قسم کی ہے جو سلسلہ حضرت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین مجدد الدین سالک کامل عارف
مکمل مؤخر اسرار و حضور حضرت مولانا عبد الغفور رحمہ اللہ الشکور المعروف بحضرت آخوند صاحب

علیہ الرحمہ والتمات من سبب اسل منظوم عربی و فارسی تحریر ہو گئے ہیں حاجت تکرار کی زمین سے
الفصل الاول فی بیان نسبہ الشریف محبوب سبحانی القندیل النورانی عطار
 یزدانی الشیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر الحسفی الحسینی الجیلانی الحنبلی العراقی
 رضی اللہ عنہ وهو متصل نسبہ الشریف من جانب الامام الی الامام المہام سیدنا الامام
 حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبتت بروایۃ المعتدات من المعتمدات الثقات علماء المحدثین
 والمورخین والفقہاء کاملین العالمین رحمہم اللہ علیہم اجمعین الاول قال العالم العلامة
 والمحب الفہامۃ الشہیر الساری فی المدام مولینا علی القادی رحمہ اللہ الباری فی کتابہ نزهة المناظر
 الفاتر واما نسبہ الشریف لامہ بالامام المہام سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین ابن سیدنا
 علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کما ذکرہ غیر واحد من العدول والثقات علی هذا الوجه المنوال
 وان السید الشیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر ابن السیدۃ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت السید
 عبداللہ الصومعی الزاہد ابن السید ابی جمال الذین محمد بن السید محمود ابن السید ابی العطا
 عبداللہ ابن السید کمال الدین عیسیٰ ابن سیدنا الامام ابی علاء الذین محمد الجواد ابن الامام
 علی الرضا ابن الامام موسیٰ کاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر
 ابن الامام زین العابدین ابن الامام المہام سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین ابن الامام
 المہام امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ویدتین ان
 حضرة سیدنا الشیخ السید عبدالقادر الکیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید شریف الطرفین
 صحیح النسب من الابوین الامامین الاحسنین الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 بحسب الابداء الذی علیہ مدار الالتهاء متواتر صحیح ظاہر کظہور الشمس فی رابعۃ النهار
 لا یقبل الحجة والتزاع والتاویل والدفاع کما علیہ الاجماع وغالب اللبتدع الوفضۃ اهل الزریغ
 والنفاق والشقاق والحسد حفظنا اللہ والمسلمین من کین الحاسدین الضالین
 المضلین الذین یحسدون الناس علی ما اتاهم اللہم فضلہ وهو ارحم الراحمین فلا حاجت

لاقامة الدليل على هذا النسب الشريف الواضح البرهان الثابت البينان المشهور في كل
 مكان كما قال الشاعر فلا يصح في الازدهان اذا احتاج النهار الى دليل الله وعن ابن عمر قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع امتي اوقال امته محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة
 ويبد الله على الجماعة ومن شد شد في النار واه ابن ماجه من حديث انس رضي الله عنه
 انتهى كذا في المشكوة وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قدر
 شهر فقد خلع ربة الاسلام من عنقه رواه احمد وابوداؤد وعن مالك بن انس مرسل انه
 كذا في المشكوة الثاني قال العالم الامام العنبري المصنف للنسب الشريف على علماء الدين الثاني
 ابن سيد احمد ابن سيد علي الهاشمي الكيلاني الحسيني نقيب جملة قدام سره في كتابه السمي
 تحفة الابرار ولوامع الاتوازي في بيان النسب سيدنا القطب الرباني محي الدين السيد عبد القادر
 الكيلاني رضي الله عنه من جانب الامام الخليفة الجبار فاطمة بنت سيد ابي عبد الله
 صومعي الزاهد بن السيد ابي جمال الدين محمد بن السيد محمود بن السيد ابي العطاء عبد الله بن
 السيد كمال الدين عيسى بن السيد ابي علاء الدين محمد الجواد بن الامام علي الرضا بن السيد
 الامام موسى الكاظم بن السيد الامام جعفر الصادق بن السيد الامام زين العابدين
 بن السيد الامام حسين بن الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضي الله
 تعالى عنهم انتهى الثالث قال العالم العلامة والامام العنبري السيد جعفر بن السيد
 حسن بن السيد عبد الكريم البرزنجي المدني مفتي الشافعية بالمدينة المنورة صاحب المولد
 النبوي المنظوم والمنثور والمشهور قدس الله روحه في كتابه الجني الداني في نبذة من مناقب
 القطب الرباني سيدنا الغوث الاعظم السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسيني الحسيني
 رضي الله عنه اللهم انشر نجات الرضوان عليه وامننا بالاسم التي اودعتها له وامن رضي الله
 عنه هي السيدة الشريفة والدم المنيفة الحسينية ام الخيرة الجبار فاطمة بنت السيد عبد الله
 الصومعي الزاهد بن السيد ابي جمال الدين محمد بن السيد محمود بن السيد ابي العطاء عبد الله

م
 م
 م
 م

ابن السید کمال الدین عیسیٰ ابن السید الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا
 ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین
 ابن الامام الهمام سید الشهداء ابی عبد الله الحسین ابن الامام الهمام امیر المؤمنین سیدنا
 علی ابن ابی طالب رضی الله عنہم اجمعین الرابع قال العالم العلامة والحجیر الفہامة الشیخ
 عبد القادر بن محی الدین الارزیلی رحمہ اللہ فی کتابہ تفریح الخاطر واما نسبة من طرف والدتہ
 فی ام الخیرامة الجبار فاطمہ بنت السید ابی عبد الله الصومعی الزاهد ابن السید ابی جمال الدین
 محمد ابن السید محمود ولقبہ طاهر ابن الامام ابی العطاء السید عبد الله ابن الامام السید کمال الدین
 عیسیٰ ابن الامام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم
 ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام ابی
 عبد الله الحسین ابن الامام علی بن ابی طالب کرم الله تعالی وجہہ ورضی الله تعالی عنہم
 اجمعین الخامس قال العالم الفاضل سلالة الافاضل البارع العظیم جابر قطب السبق فی القیامۃ
 الزکی الشیخ السید محمد الکی بن الاستاذ سیدی مصطفیٰ بن عمرو التونسی فقنا الله
 ببرکاتہ آمین فی کتابہ السیف الربانی فی عنق المعتض علی الغوث الجیلانی رضی الله عنہ
 فالصومعی شریف حسینی رغما علی المعتض کا ذکرہ غیر واحد من العدول والثقات هذا لفظ
 الشیخ علی القاری فالامام الجیل حسینی من جهة الاب حسینی من جهة الام ونسبہ الحسینی
 هو ان امہ السیدة ام الخیرامة الجبار بنت ابی عبد الله الصومعی ابن ابی جمال الدین محمد ابن
 محمود بن ابی العطاء عبد الله بن عیسیٰ کمال الدین بن ابی علاء الدین محمد الجواد بن علی الرضا
 بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین السبط
 رضی الله عنہ وعنہم اجمعین انقی السادس قال العلامة الشیخ الامام سراج الدین عمر
 ابن الملحق الانصاری الشافعی نعمہ الله برحمته فی کتابہ درر الجواهر فی مناقب سیدی
 عبد القادر الحسینی حسینی رضی الله عنہ وام سیدنا عبد القادر المشار الیہ رضی الله عنہ

امام حسین پسر امیر المؤمنین علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہی الحادی عشر ورتذکرہ
 بلخ مومن خانی آورده است نسب شریف را ووالدہ حضرت غوث الاعظم امۃ البحار فاطمہ بیگم سلطان
 نام دارند کہ دختر حضرت شیخ سید ابو عبد اللہ الصومعی رحمہما اللہ علیہما بودہ اند وایشان بن سید ابو جمال الدین
 محمد بن سید محمود نظام بن سید عطاء عبد اللہ بن سید کمال الدین عیسی بن سید علاء الدین محمد انجواد بن
 امام علی رضا بن امام موسی کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین
 بن امام حسین بن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انتہی الثانی عشر ورتغویر السیر آورده است نسب
 شریف ما و آنحضرت رضی اللہ عنہ از پشت حسنی اند و از شکم حسینی اند و نام مادر آنحضرت رضی اللہ عنہ
 بی بی فاطمہ و کنیت ام الخیر و لقب ادا امۃ البحار و دختر سید عبد اللہ الصومعی الزاہد بن سید ابو جمال الدین محمد
 بن سید ابی محمود بن سید ابی العطاء عبد اللہ بن سید شیخ ابی کمال الدین عیسی بن سید علاء الدین محمد انجواد
 بن امام سید علی رضا بن امام سید موسی کاظم بن امام سید جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام
 زین العابدین بن امام سید السادات امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ ابن امیر المؤمنین سیدنا
 علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہم اجمعین تہی دور از ہمار الفاخر آورده است صومعی نسبت است بصومعہ
 و آن نفع صادق ہل قریہ است نزدیک بلدہ لایہجان و در آنجا اولاد و خانقاہ موجود است انتہی
 الثالث عشر قال العالم یعنی گنۃ عالم شیخ محمد بن محمود النقشبندی الملقب بہ پدر در کتاب خود
 حاشیہ فقہات الانس حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جلی مراد ازین جلی گیلان است نہ آنکہ
 بعضی را توہم افتادہ است کہ مراد جلی نزدیک بغداد است چہ کہ صومعہ وہی است نزدیک بشہر لایہجان
 وجد ما ذکر ایشان از آنجاست و حال اولاد ایشان در آنجا بیابانند و خانقاہی باروق دارند انتہی الرابع
 عشر قال فی الفارسیۃ عمۃ المحشرین شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ در اخبار الاخیار آورده است حسنی
 و حسینی بودن را ثابت کردہ است و حسنی و حسینی از ان گویند کہ پدر عبد اللہ المحض حسن ثانی بن امیر المؤمنین
 امام حسن رضی اللہ عنہ و ایشان ابن امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ و باور عبد اللہ المحض فاطمہ
 بنت امیر المؤمنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ایشان ابن امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ انتہی

الحامس عشر قال گفته فاضل اجل شیخ محمود صاوق لطیفی القادری در کتاب خود خواریق صاوقیه
 من موایب القادریه می آرد اجماع صاحبات حضرت محبوب بجانی که بنات سیدات و وازوه امام اند و با امام
 حسین سلسله نسب آنها منسلک میشود و آن سلسله بواسطه دهم با امام برحق جعفر صاوق رضی الله عنه
 متوصل میگردد و بشنو والده ماجده صاحب ساجده حضرت سید عبدالقادر جیلانی ام الخیر ائمه اجماع بنت ابو
 عبدالله الصوملی ابن ابی جمال محمد و هو ابن سید محمد و هو ابن سید محمود و لقبه ظاهر و هو ابن سید عطاء الله
 عبدالله و هو ابن سید کمال الدین عیسی و هو ابن سید علار الدین محمد جواد و هو ابن سید علی رضا و هو ابن امام
 موسی کاظم و هو ابن الامام الهام الناطق باحق امام جعفر الصاوق ازینجاست که آن محبوب بجانی را سید
 عبدالقادر الحسنی حسینی الجعفری الجیلانی میخوانند رضی الله عنه و عنهم جمیعین و ایضا بدانکه در سلسله شریفه قادریه علیه
 شجره ایست که آن شجره امامیه خوانند سلسله آن نیز بد وازوه امام میرسد و اگر ازین و وازوه امام همام امام حسن
 رضی الله عنه را خارج نموده بشمارند نیز بازوه امام باشند که حضرت غوث الاعظم و آل ایشانند پس بدانکه نسبت
 صوری و معنوی و سلسله فرزندی یقینی و مجازی و خلافت ظاهری و باطنی از طرف حسین بجزرت غوث
 اشعلین رسیده و بوجود شریف ایشان بعدی تکمیل پذیرفتند که غیر آنحضرت هیچ فردی از افراد کمل اولیا الله
 بچشمیل آن ندیده و بتحصیل آن رسیده است و تا قیامت نیز نخواهد رسید زیرا که ازین امر خود خبر دار میفرماید شاعر

فاعطانی الموالی اجل و لات	ولم یعطها غیری لیوم القیمت
---------------------------	----------------------------

السادس عشر قال گفته جبار شیخ عبدالمتق محدث و ملوی رحمه الله علیه در زبده الآثار شرح زبده الاسرار
 کتاب خود آورده است و ام وی رضی الله عنه ام الخیر ائمه اجماع فاطمه بنت سید عبدالله الصوملی بود و او را حفظ
 و او را زخیر و صلاح بود و انتهی السابغ عشر قال جبار شیخ الشیوخ عالم الفاضل الفرو و الکامل مولینا عبدالرحمن
 جامی قدس الله سره العزیز در کتاب خج نفحات الانس آورده است شیخ محی الدین سید عبدالقادر اجماعی قدس سره
 کنیت وی ابو محمد است علوی حسینی بود و نیزه سید ابو عبدالله صومسی است از جانب مادر و مادری ائمه اجماع را
 بنت سید ابی عبدالله صومسی است انتهی الثامن عشر قال العالم عینه گفته عالم محمد شاه در کتاب خود
 سلطان الاذکار حضرت محبوب بجانی سید عبدالقادر جیلانی ابن ام الخیر ائمه اجماعی فاطمه بنت سید عبدالله

الصومی الزاہد نسب شریف تاجناہ امام حسن زید فصل اول در بیان نسب شریف حضرت محبوب جانی
 قطب ربانی غوث حمدانی حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر الحسینی البجیلی رضی اللہ عنہ جانب والدہ
 شریفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساواستینی سے ہیں اور نسب شریف پہنچتا ہے تاجناہ امیر المؤمنین سیدنا امام
 حسین رضی اللہ عنہ تک کتاب معتبرہ ثقات مجتہدین محدثین مشائخین کبار رحمہم اللہ علیہم جمعین سے ثابت
 ہو اور شک اور شبہ نہیں ہو نسب شریف میں (اول) کہا کہ اکل المحدثین عالم علم الیقین مولانا علی القاری
 رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب نزہۃ النظار الفائزین کہ نسب شریف جانب ماور سے کہ پہنچتا ہے سید الشہداء
 امام حسین رضی اللہ عنہ تک تفصیل اسوجہ سے ہے کہ شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر حسینی حیلانی
 ابن ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ دختر سید عبدالقادر صومی زائد کی وہ فرزند سید ابی جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید
 ابی العطاء عبدالقادر ابن سید کمال الدین عیسیٰ ابن امام سید ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام سید علی الرضا
 ابن الامام موسیٰ کاظم ابن الامام جعفر صادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام
 سید الشہداء ابی عبدالقادر حسین ابن الامام الہمام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم و عنہم جمعین (۲) کہا
 عالم امام شریف حسیب علی علاء الدین ثانی نقیب جمہ الشریف حسینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الابرار
 میں نسب شریف حضرت سید عبدالقادر حیلانی رضی اللہ عنہ جانب ماور بنی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید
 عبدالقادر صومی زائد بن سید ابی جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابی العطاء عبدالقادر بن سید کمال الدین
 عیسیٰ بن سید ابی علاء الدین محمد الجواد بن سید امام علی رضا بن امام سید موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق
 بن سید امام محمد باقر بن امام سید زین العابدین بن سید امام حسین بن امام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب
 رضی اللہ عنہم و عنہم جمعین (۳) کہا عالم علامہ امام سید جعفر بن سید حسن بن سید عبدالکیم برزنجی ہشتی شہداء
 مدینہ منورہ جو مشہور ہوساقتہ صاحب مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ اور نے اپنی کتاب جنی الدانی فی
 مناقب سیدنا الفوتح الاعظم سید عبدالقادر الحسینی البجیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں والدہ شریفہ و زینہ
 حسیبہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبدالقادر صومی الزاہد بن ابی سید جمال الدین محمد بن سید محمود
 ابن سید ابی العطاء عبدالقادر ابن سید کمال الدین عیسیٰ ابن سید امام ابی علاء الدین محمد الجواد ابن الامام

سید علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام
 زین العابدین علی ابن الامام ابہام سید الشہداء ابی عبد اللہ الحسین ابن الامام ابہام امیر المؤمنین
 سیدنا علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہم اجمعین (۴) کہا عالم علامہ شیخ عبد القادر بن محی الدین
 الاربلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفسیر الخاطریین نسب شریف حضرت غوث رضی اللہ عنہ جانب ماور
 سے ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ الصومی الزاہد ابن سید ابی جمال الدین محمد بن سید
 محمود لقب طاہرین الامام سید ابی العطاء عبد اللہ ابن الامام سید کمال الدین عیسیٰ ابن الامام
 سید ابی علاء الدین محمد ابجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق
 ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام ابی عبد اللہ الحسین ابن الامام علی ابن
 ابیطالب اکرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین (۵) کہا عالم فاضل شیخ محمد الکی ابن الاستاذ
 سیدی مصطفیٰ ابن عزوز قونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیف الربانی فی عنق المعترض علی الفتوح الجیلانی
 میں امام جلی حسنی بن جانب پدر سے عیسیٰ بن جانب ماور سے اور نسب میں یہ ہے والدہ شریفہ
 سیدہ فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار بنت سید ابی عبد اللہ الصومی الزاہد ابن ابی جمال الدین محمد ابن
 محمود ابن ابی العطاء عبد اللہ ابن کمال الدین عیسیٰ ابن ابی علاء الدین محمد ابجواد ابن علی الرضا ابن
 موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زین العابدین بن حسین السبط رضی اللہ عنہم
 اجمعین (۶) کہا عالم علامہ شیخ امام سید عمر ابن ملقن الفصاری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
 اپنی کتاب در راہجواہر فی مناقب سیدی سید عبد القادر الحسینی الحسینی رضی اللہ عنہ بن اور والدہ
 شریفہ حضرت سید عبد القادر رضی اللہ عنہ کی ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ الصومی
 الزاہد بن سید جمال الدین محمد ابن سید محمود ابن سید ابی العطاء عبد اللہ ابن سید کمال الدین عیسیٰ
 ابن سید ابی علاء الدین محمد ابجواد ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسیٰ الکاظم ابن الامام جعفر الصادق
 ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن الامام سیدنا الحسین ابن عبد اللہ ابن الامام
 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین (۸) کہا حضرت غوث الاعظم و قطب اکرم رضی اللہ عنہ

نے اپنی کتاب فتوح النیب میں والدہ شریفہ کرمیہ رضی اللہ عنہا ام الخیراتہ الجبارہ فاطمہ بنت سید ابی عبد اللہ
 الصومی الزاہدین الامام ابی جمال الدین سید محمد بن الامام سید محمود بن الامام سید ابی العطاء عبد اللہ
 بن الامام سید کمال الدین عیسیٰ بن الامام سید ابی علاء الدین محمد الجوابین الامام علی الرضا رضی اللہ
 عنہ بن الامام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ بن الامام محمد الباقی رضی اللہ عنہ بن الامام زین العابدین رضی اللہ
 عنہ بن الامام سید الشہداء ابی عبد اللہ حسین رضی اللہ عنہما (۹) کہا شیخ محمد صادق شہابی
 سعدی قادری نے اپنی کتاب مناقب غوثیہ میں (۱۰) کہا عالم علامہ محمد غوث شرف الملک علیہ الرحمہ
 نے اپنی کتاب انہار المغایر میں (۱۱) کہا تذکرہ بلخ عبد المؤمن خانی میں (۱۲) کہا کتاب تنویر السیر
 میں (۱۳) کہا شیخ عالم محمد بن محمود نقشبندی الملقب بدار نے اپنی کتاب حاشیہ نفحات الانس
 میں (۱۴) کہا عالم محدث شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الانبیاء میں
 (۱۵) کہا عالم اجل فاضل بے بدل محمد صادق لطیفی نے اپنی کتاب خوارق صلوقیہ میں (۱۶) کہا
 عالم اجل اولیاء کامل لاثانی مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب
 نفحات الانس میں (۱۷) کہا شیخ محمد سبکی الساد فی حبلی نے اپنی کتاب قلائد السجاہد میں (۱۸) کہا
 عمدۃ الحدیث شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں (۱۹) کہا عالم محمد شاہ
 نے اپنی کتاب سلطان الاذکار میں اگر عمل کنی یک نکتہ بسیار است و در کتابہا خروار است
انہی الفصل الثانی فی بیان اوصاف امہ الشریفہ و عمۃ الشریفیۃ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہما کما ورد فی کتب متعددۃ الاول قال العلامة والحجیر الفہامۃ المولینا علی القاری رحمہ اللہ البانی
 فی کتابہ نزہۃ الخاطر الفاتر قال امہ الخیراتہ الجبارہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت السید ابی عبد اللہ الصومی
 الزاہد وکان لہ لحظا وافی من الخیر والصلاح و عمۃ المرأۃ الصالحۃ الشریفیۃ عائشۃ بنت السید
 عبد اللہ ذات الکرامات الظاہرۃ والقامات الباہرۃ قال ولقب بالسید عبد اللہ جہ بالخص
 لان اباہ الحسن المثنیٰ ابن الحسن السبط ابن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وامہ فاطمہ بنت الحسن
 رضی اللہ عنہما بن سیدنا علی رضی اللہ عنہما وهو نسبتہ سالۃ من الموالی وخالصۃ فی الشرف

العالمى انتهى الثاني قال العالم المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوى رحمة الله عليه في كتابه زبدة الكلام
 وقد حكى بعض المشايخ حكايات وامر رضى الله عندهم المصيرامة الجبار فاطمة بنت السيد ابى
 عبدالله الصومعى وكان لها حظ من الخير والصلاح اخبر الشيخ الاصيل ابو محمد عبد اللطيف
 بن الشيخ القدره ابى الجيب عبد القاهر السمروردي عن المشايخ قالوا كان لام المصيرامة الجبار
 فاطمة ام الشيخ السيد عبد القادر قدم في هذا الامر وسمعت تقول غير مرة لما وضعت ابني
 عبد القادر كان لا يرضع ثديي في نهار رمضان وغم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني
 عنه فقلت لهم لم يلتم اليوم ثديا ثم اتضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتتم بيلا دنافي ذلك
 الوقت انه ولد للاشراف ولما لا يرضع في نهار رمضان انتهى الثالث قال العالم القطب الرباني
 العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشمراني في كتابه السماة بلوغ الانوار في طبقات الاخير
 وحكى عن امه رضى الله عنها وكان لها قدر في الطريق انها قالت لما وضعت ولدي عبد القادر
 كان لا يرضع ثديي في نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني
 عنه فقلت لهم انه لم يلتم اليوم ثديا ثم اتضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتتم بيلا دنافي
 في ذلك الوقت ولد للاشراف ولما لا يرضع في نهار رمضان انتهى الرابع قال العالم الفاضل
 السيد موسى الشبلنجي في كتابه نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار قال وحكى عن امه
 رضى الله عنها قالت لما وضعت ولدي عبد القادر كان لا يرضع ثديي في نهار رمضان ولقد
 غم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني عنه فقلت لهم لم يلتم ثديا ثم اتضح ان ذلك اليوم
 كان من رمضان واشتتم بيلا دنافي ذلك الوقت انه ولد للاشراف ولما لا يرضع في نهار رمضان
 انتهى الخامس قال الفاضل الشيخ محمد بن يحيى النادفي في كتابه قلائد الجواهر وامه ام الخير
 امه الجبار فاطمة بنت الشيخ السيد عبدالله الصومعى الحسيني الزاهد وكان لها حظ وافر من
 الخير والصلاح نقل عنها انها كانت تقول لما وضعت ابني عبد القادر كان لا يرضع ثديي في نهار
 رمضان وغم على الناس هلال رمضان فاتوني وسألوني عنه فقلت لهم لم يلتم اليوم ثديا ثم

اقضح ان ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر ذلك ببلاذجيلان انه ولد للاشراف ولد له
يرضع في نهار رمضان اتمهى السادس قال العالم الشيخ محمد بن محمود الملقب بدهدار في كتابه
حاشية نغحات الانس بالفارسية ووالدك فاطمه شريفه بوجه نبی وعضی او اهل انساب آورده اند
البازي الا شهيد شيخ عبد القادر زمان حياوة خود اظهار سياوت نموده و اين را سند خود ساخته اند و اصلا
تتبع نموده و اين قصيده که یک بيتش اين است که

کلی قطب يطوف بالبيت سبعا

وانا البيت طائف بجماي تخواندک اند

که میفرماید که جدی المصطفی شفیع الانام و والده ایشان گفته که چون فرزندم عبد القادر متولد شد
هرگز در روز رمضان شیر نخورد و نیست و دولت مادر زاد و مضمون حدیث شریف السعید و سعد فی البین
امه و تربیت الهی چنین است و این نشانه وراثت کامله است مرا ایشان را انتهی السابع قال المولانا
عبد الرحمن الجامی فی کتابه نغحات الانس آورده امه ابهار فاطمه بنت سید عبدالصومی است گفته اند
چون فرزند من عبد القادر متولد شد هرگز در روز رمضان شیر نخورد و یکبار هلال رمضان بجهت ابر پوشیده
ماند از ما روی پرسید نگفت امر و ز عبد القادر شیر نخورده است آخر معلوم شد که آن روز رمضان بوده است
انتهی الثامن قال سلطان و اراشکوه در کتاب خود سفینه الاولیا آورده که حکایت است و والده ماجده
معظمه کرمه آنحضرت ام الخیر و لقب امه ابهار بنت شیخ عبدالصومی است که از مشایخ کبار گیلان و مقصد آن
اولیای زمان و سحاب الدعوات بوده اند حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نوشته اند که شیخ سید عبدالصومی
از رؤساء زمان بود و در احوال عالی و کرامات ظاهره بوده و قتیکه در غضب شدی حق سبحانه و تعالی
از برای وی زود انتقام کشیدی و هر چه جوی خداستعالی چنان کردی و هر چه که پیش از وقوع آن خبر کردی
چنان واقع شدی و والده ماجده حضرت غوث الثقلین رضی الله عنه را بهره وافر بوده از خیر و صلاح
شیخ سید عبدالرزاق ولد حضرت غوث اعظم فرمودند و قتیکه غوث صمدانی از صلب شریف پدر برجم لطیف
ما در حلول نمودند و والده کرمه ایشان در سن انصت سالگی که زمان یاس است بوده اند و این کرامات آنحضرت
است رضی الله عنه و والده آنحضرت از کبار رسا و عارفات صالحات و اصلات و صاحب مکاشفات بوده

و ولادت باسعادت غوث اعظم در جیلان اول شب ماه رمضان سال چهار صد و ہفتاد و ہفتاد و
 یک ہجری بود و والدہ آنحضرت قدس سرہ فرمودہ اند کہ چون فرزندم عبدالقادر متولد شد ہرگز در ماہ رمضان
 روز پستان نگر فتنی و شیر نخوردی یکبار بلال رمضان بحیث ابر پوشیدہ شدہ بود و مردم از من پرسیدند
 گفتم فرزندم امروز شیر نخورده است آخر معلوم شد کہ آرزو از ماہ رمضان بودہ است انتہی تر جمہ بزبان اردو
 یعنی ہندی حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ شب غرہ ماہ رمضان تولد ہوئے اور تمام ماہ تک بجز
 وقت انظار روزانہ شیر اپنے والدہ کا شیر پیا بلکہ تاسن شیر خوار ہی یہی وتیرہ مینے اسپطر سے آنحضرت رضی اللہ
 عنہ کا جاری رہا جس شب حضرت باکرامت تولد ہوئے وہ روز رمضان کا تھا اور جیلان میں ابر تھا اور
 ماہ پوشیدہ ابر میں رہا خلافتی نے انکی والدہ ماجدہ سے استفسار کیا والدہ ماجدہ صاحبہ نے کہا جو ام و فرزند
 عبدالقادر تولد ہوا ہے میرے پستان کو سوار مغرب کے شیر نہیں پیا ہے آخر معلوم ہوا دوسری جگہ سے
 کہ وہ روز رمضان شریف کا تھا تولد ہوتے ہی روزہ رکھا یہ جو دولت ماوراء کلم حدیث شریف کے کہ فرمایا
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبکبت مان کہ پیٹ سے نیک بخت ہے حدیث یہ جو السعید من سعدنی
 بطن امہ و رات کامل ہو انکو انتہی اور والدہ شریفہ حضرت غوث رضی اللہ عنہ کے صاحب خیر و صلاح
 کی تھیں اور صاحب کرامات عالیہ تھیں اور نا ناصحاب ہی صاحب کرامات و تجاب الدعوات تھے حضرت
 سید شیخ عبداللہ صومسی زاہد حسینی اولاد حضرت شہید کر بلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تھے وقال العالم
 العلامة الشہیر و الحبر الفہامہ مولینا علی القاری رحمۃ اللہ الباری فی کتابہ نزہۃ الخاطر الفاتر
 کا السید الشیخ السید عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اخ اسمہ السید ابو احمد عبداللہ سند دون
 نشأتوا صالحا فی العلم و الخیر مات شاہا رحمۃ اللہ تعالیٰ و کانت لہ عنہ اسمہا السیدۃ عائشہ ام
 ذات الکرامات الظاہرۃ و الآیات الفاخرۃ روی ان ہلا در جیلان اجابت مرعہ و استسقی اہلہا
 فلم یبقوا فی الشیوخ الی دارہا و ساکوا الی الاستقام فقامت الی رحبۃ ینبہا و کنست الارض
 فقالت یارب اناکنت فرش انت فلم یلبثوا الا آن مطرت السماء و کافواہ القرب فرجوا الی
 بیوتہم یخضون فی الماء و قد عمرت و ماتت بجیلان انتھی و الثانی قال المحدث الشیخ

بیان بطور
 درست عن الشیخ

عبدالحق الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ ذبذبة الاسرار وعمۃ الشیخۃ الصالحۃ السیدۃ
ام محمد عایشہ ذات الکرامات الظاہرہ روی انداجد بت جیلان مرۃ واستسقی اہلہا فلم یرسقا
فاتی المشایخ الی الشیخۃ السیدۃ ام محمد عایشہ عمۃ الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ وعنہا
وسألواہا الاستسقاء لم تقامت الی رحبۃ بیتہا وکنست الارض وقالت یارب انا کنست فرش
انت قال فلم یلبثوا ان امطرت السماء کافواہ القرب ورجعوا الی بیوتہم یضون فی الماء وعمرت و
ماتت بیحیوان انتہی الثالث قال الامام عبداللہ الیافعی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ما فی کتابہ
خلاصۃ المفاحیہ والی الفارسیۃ وعمۃ او عموتی صاحبہ کرامات سیدہ عائشہ نام داشت وکویت او
اقم محمد بود و در بلاد جیلان قحط شد و اہل جیلان استسقا کردند پس باران نشد پس حجج و شلج بر رخا نہ عائشہ
ذکورہ آمدند و از و عا استسقا در خواست کردند و برخواست و صحن خانہ را جا رو ب وادو گفت یارب انی
کنست فرش انت در حال باران ہمو افواہ قرب یعنی مانند وہن مشک بارید و ایشان میان آب خوش کمان
بارگشتند اسمی الوابع شتولانا محمد غوث المظاہر بشف الملک رحمہ اللہ در کتاب خود انہار المغاخر اور وہ و
حضرت شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ را عمہ بود صاحبہ کرامات ظاہرہ نام وی ام محمد عائشہ بنت
سید ابی عبداللہ مرویت از شیخ الی صلاح عبدالقدیر بن ابی عبداللہ طغنی بخوی کہ وقتی در جیلان خشک سالی
شد و مردم برای استسقا بر آمدند لیکن بارش نشد پس شلج بخانہ ام محمد عائشہ آمدند و از و عا خواستند پس
وی برخواست و صحن خانہ خود را روفت و گفت ای پروردگار من روفتم تو آب بیاش و راندک وقت باران
چندان بارید کہ گو یا وہن مشکہا کشاوند و مردم بجاہنہای خود در آب شناوری کمان رفتند و عمروی دراز شد
و در جیلان وفات یافت انتہی حضرت محبوب جلی حضرت شیخ سید عبدالقادر حسنی احمینی الجیلانی قدس اللہ سرہ
کی پھونی تعیین بی بی سیدہ ام محمد عائشہ نام صاحبہ کرامات ظاہرہ تعیین کہ جیلان میں خشک سالی ہوئی
بسبب ہونے بارش کے اہل جیلان نے شلج اور صلحا واسطے طلب بارش کے دعا و نماز پر حکم مانگے بارش
نہوئی یعنی بارش بزرسی تب رب شلج و صلحا جیلان بی بی صاحبہ سیدہ مادر محمد عائشہ رضی اللہ عنہا
کے گھر کے دروازہ پر آئے اور طلب دعا واسطے بارش کے بی بی صاحبہ سے کی بی بی صاحبہ سے او شکر

جاروب لیا اور اپنے گھر کے صحن کو جاروب کشتی کیا اور کہا کہ اسے پروردگار میرا بیٹے جاروب دیا تو پانی چھڑکا کہ
 اندک مدت میں اتنی بارش ہوئی جیسے بیہوش برسا کہ گویا منہ شوکتے کھل گئے اور طمانینی تیرتی ہوئی اپنے
 گھروں کو پہنچتی یہ روایت کیا ملا علی قاری رحمہ الباری نے کتاب نزہۃ الخاطرین اور شیخ عبدالحی رحمہ اللہ
 سے زبدۃ الاسرار میں اور امام عبداللہ ماضی رحمہ اللہ نے خلاصۃ المفخرین اور محمد عوث رحمہ اللہ نے
 اشہار المفخرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے **الفصل الثالث** فی بیان النسب
 الشریف سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ فرمایا الخالف فی صحاح الاخبار ان الشیخ عبدالقادر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلک ای النسب ولا احد من اولاده الا اقول للجواب هذا کذب صریح
 وقول قبیح بل ثبت عکس ذلك برواۃ متعدده متکثرات من العلماء الراستخین العالمین
 انه قال الشیخ السید عبدالقادر رجیلا فی رضی اللہ عنہ علی الکرسی کل ولی علی قدم نبی لانا علی قدم
 جدی صلی اللہ علیہ وسلم وما رفع المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدما الا وضعت انا قدمی
 فی الموضع الذی رفع قدمه من الا ان یکون قدما من اقدام النبوة لاسبیل ان یناله غیر نبی
 انتہی الاول قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی
 الشافعی نفعنا اللہ بہما فی کتابہ بجمۃ الاسرار ومعدن الانوار قوله رضی اللہ عنہ لخبونا
 ابو محمد سالم بن علی بن عبد اللہ بن سنان الدمیاطی المصری المولد بالقاهرة سنة احدى
 وسبعین وستائة قال اخبرنا الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن عبد اللہ السمرودی
 قال سمعت الشیخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ عنہ یقول علی الکرسی بعد رستہ کل
 ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم وما رفع المصطفیٰ قدما الا وضعت
 انا قدمی فی الموضع الذی رفع قدمه من الا ان یکون قدما من اقدام النبوة لاسبیل ان یناله
 غیر نبی انتہی الثانی قال الشیخ محمد بن شیخ التادی الخبلی رحمۃ اللہ علیہما فی کتابہ قلاویذ
 وكان رضی اللہ عنہ یقول کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی صلی اللہ علیہ وسلم
 وما رفع قدما الا وضعت قدمی فی موضعہ الا ان یکون قدما من اقدام النبوة رضی اللہ عنہ

ص ۲۵۷
 ص ۲۵۷

انتهى الثالثة قال العالم الفاضل المعتمد الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله عليه في كتابه
 زبدة الاسرار ما نقل الشيخ السهروردي عنه رضي الله عنه انه قال كل ولي على قدم نبي وانا
 على قدم جدي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع المصطفى قدما الا وضعت
 قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه الا ان يكون قد ما من اقدم النبوة فانه لا سبيل ان يناله
 غير نبي انتهى بحروفه الرابع قال العالم الشيخ عبدالقادر بن محي الدين الاربلي رحمه الله في
 تفریح الحاطر وكان يقول على الكرسي في مدرسته كل ولي على قدم نبي انا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم
 وما رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدمه الا وضعت قدمي في موضع الذي رفع قدمه منه الا
 ان يكون قد ما من اقدم النبوة فانه لا سبيل الى ان غير نبي انتهى الخامس قال العالم العلامة
 السيد ظهير الدين في كتابه فتح المبين من تحفة الابرار وغيره من العلماء بالسند عن الشيخ
 شهاب الدين السهروردي قدس سره قال سمعت الشيخ محي الدين عبدالقادر رضي الله عنه
 يقول على الكرسي بمدرسته كل ولي الله تعالى على قدم نبي من الانبياء وانا على قدم جدي رسول
 الله وما رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدما الا وضعت قدمي في الموضع الذي رفع قدمه
 منه الا ان يكون قد ما من اقدم النبوة فانه لا سبيل ان يناله الا نبي السادس قال العالم
 الفاضل سلافة الافاضل البارع العظيمة حائز قصبه السابق في التأليف الزكي الشيخ السيد
 محمد المكي بن الاستاذي سيده مصطفى بن عز و زلفنا الله ببركاته في كتابه السيف الرباني في عمق
 المعترض على الغوث الجبلي في المبحث الثالث قول الشطنو في ان الامام الجبلي قال انا على قدم
 جدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم من المشهور على كل لسان ان كل ولي على قدم نبي فمنهم من هو على
 قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقال له جدي ومنهم من هو على قدم غيره من الانبياء
 وبيان ذلك كما قاله الحاشي ان الاقطاب المهديين هم الذين ورثوا صلوات الله عليه وسلم فيما
 اخص به من الشرايع والاحوال مالم يكن في شرع تقدمه ولا في رسول تقدمه فان كان في شرع
 تقدم شرعه ومن هو شرعه اولى رسول قبله وهو في صلى الله عليه وسلم فذلك الرجل اولى

لذلك الرسول المخصوص ولكن من محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينسب الا الى ذلك الرسول
وان كان في هذه الامة يقال موسى او كان من موسى وعيسوي ان كان من عيسى
ابراهيم الخ ما كان من رسول او نبي ولا ينسب الى محمد صلى الله عليه وسلم الا من كان بمثابة
ما قلناه مما اختلف به محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يظن ان كل غوث مجدي اى على قدمه
صلى الله عليه وسلم بل يكون اغوات ولم تحصل لهم هاتئذ المنتزعة اذ ليست الا الافراد من
الاكابر فالامام الجليلي مجدي زيادة على القطبانية الكبرى السابع قال العلامة سيد محمد
قادي المعروف بشاه قادي في كتابه مشكوة ولاية الكبرى عن الشيخ القدوة شهاب الدين
عمر بن السهروردي رحمة الله عليه قال سمعت سيدي الشيخ محي الدين عبدالقادر رضي الله
عنه على الكبرى بمدرسة كل ولي على قدم نبي وانا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم ومارفع
المصطفى صلى الله عليه وسلم قدما الا وضعت قدمي في المواضع الذي رفع منه قدمه الا
ان يكون من اقدام النبوة فانه لا يسبيل الى ان يناله غيري بنتهي التامن قال في الوقائع الخلفاء
العباسية تحت ذكر المستنجد بالله ورفعات شيخ ابو الغيب سهروردي مرويت كه گفت شنيدم از
شيخ سيد عبدالقادر كه كيفت كل ولي على قدم نبي وانا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم ومارفع المصطفى
الا وضعت انا قدمي في موضعه من الا ان يكون من اقدام النبوة فانه لا يسبيل الى ان يناله غيري استتبع
التاسع قال الامام عبدالله اليافعي المشافعي رحمه الله تعالى في كتابه خلاصة المغاخر في مناقب
حكايه صدره شتم نقبته از امام القربين شيخ شهاب الدين عمر سهروردي رحمه الله تعالى كه گفت شنيدم
از شيخ محي الدين سيد عبدالقادر رضي الله عنه كه بالاي منبري فرمود در رسته خود كه هر ولي بر قدم نبي است و
من بر قدم جدم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم و بر داشت حضرت مصطفى صلى الله عليه وسلم قدمي
مگر آنكه بنهادم قدم خود بر آن موضع كه برداشت او قدم خود و از آن موضع مگر اقدام نبوت كه راه نيت در آن
غيري را استبي العاشره گفته است علامه محقق عارف مدقق شيخ محمد بن محمود الملقب بديار قشندني رحمه الله
عليه كه بنهادر حاشيه نقبته الناس حكايه ميكنند از شيخ حادو باس قدس سره نقبته حضرت شيخ سيد عبدالقادر

قدس سره در انشای سخن گفت قدیمی بنده علی رقیب کل ولی الله انتہی بدان نعمنا الله تعالی وایک من برکاتہم
 کہ این کلام حق انجام اگر در حال سکرو واقع شود داخل شطت ایاچین از حضرت سید عبدالقادر قدس سره
 در حال صحوصا در شده کنایه است از وصول ایشان بمقامیکه فوق ولایت است. وصاحبش حاکم بر
 ولی بشاہ کہ اگر از عالم محسوس مثال آورند چنان واقع میشود کہ قدم صاحب آن مقام محاذی گردن ولی
 باشد و نسبت میانہ این دو مرتبہ از روی شرف و شان نسبت کسی است کہ پای برگردن دیگری داشته باشد
 و چون وصال باین مقام از مواہب غیبیست مامور بگفتن و خبر دادن ازان شده و چون حق صرف است
 و از وجود بشری شائبہ اثری بآن نبوده جمیع اولیا گردن نہادند و بجان قبول نمودند بدانکہ این اشارہ است
 بآنکہ بمقامی رسیدہ کہ اگر ختم نبوت فسدہ بودی او نبی شدی و قدیمی کنایہ است از موقف عرفان یعنی
 معرفت من از قسم معرفت انبیاست و آنجا ایستادہ ام و ہم چنانچہ گردن اولیا زیر بار متابعت انبیاست
 گردن اولیای زمان زیر بار متابعت من است و من متصرفم در سہ انتہی الحادی عشرہ قال العالم
 المحقق المحدث الشیخ عبدالحی الدہلوی علیہ الرحمہ فی کتابہ زبدۃ الآثار و ہی بالفارسیہ نقل کرده شدہ است
 از شیخ خلیفہ اکبر از حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در خواب فرمودہ کہ شیخ سید عبدالقادر قطب است
 و من رعایت میکنم او را و تا میدیکند این تا آنکہ نقل کرده است شیخ سہروردی قدس سره از غوث رضی اللہ
 عنہ کہ گفت ہر ولی بر قدم نبی است و من بر قدم جد خود ام حضرت مصطفی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 بزداشت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قدیمی را مگر آنکہ قدم نہادم قدم خود را در موضعی کہ برداشت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم قدیمی خود را مگر آنکہ باشد قدیمی از اقام نبوت کہ در نیابد و پراغیر نبی انتہی الثانی عشرہ
 گفته است عالم علامہ محمد صادق شہابی سعدی قادری در کتاب مناقب غوثیہ کہ حضرت سلطان الاولیا
 غوث اعظم رضی اللہ عنہ بر قدم جد اعلائی خود صلی اللہ علیہ وسلم بود چنانچہ در ہیجۃ الاسرار مذکور است
 از شیخ امام قطب امام حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جزئی علیہ السلام گفت شنیدم شیخ محی الدین سید
 عبدالقادر راضی اللہ عنہ کہ میگفت بر کسی در مدسہ خود ہر ولی بر قدم نبی است و من بر قدم جد خود ام
 صلی اللہ علیہ وسلم بزداشت مصطفی علیہ الصلوٰۃ والسلام قدیمی را مگر آنکہ نہادم من قدم خود را در آن

موضوعی که برداشت ازان مصطفی علیه السلام که قدم خود را مگر آنکه بود قدمی از اقدام نبوت زیرا که نیست
 راهی نسوی آن غیر نبی را انتہی از نبوت گشت قدم او برگردن سائر اولیا چنانچه بود قدم محمد مصطفی صلی الله
 علیه وسلم برگردن سائر انبیا و گشت کرامات او بی نهایت و بی شمار انتہی الثالث عشر گفته است سلطان
 داراشکوه در کتاب خود سفینة الاولیاء و حضرت غوث الثقلین رضی الله عنہ میفرمودند که هر ولی بر قدم
 نبی میباشد و من بر قدم جد خود صلی الله علیه وسلم و هر قدمی که جد من برداشت من بر آنجا بنامم مگر در
 قدم نبوت که راه نیست در آن غیر نبی را و این اشارت است بر کمال ولایت و متابعت و پیروی آنکه در دست
 صلی الله علیه وسلم انتہی الرابع عشر گفته است عالم علامه قدوة المتقین زبدة المتقین مولانا محمد
 غوث الخايط بشرف الملک در کتاب انهار الفاخر مروی است از شیخ شهاب الدین ابی حفص عمر بن محمد
 بن عبد الله سهروردی قدس سره روایت ابی محمد سالم بن علی بن عبد الله بن سنان و میاطی الی الاصل مصری
 المولد رحمة الله علیه که شنیده ام شیخ می الدین سید عبدالقادر رضی الله عنہ که بر کسی در مدرسه خود میفرمود
 هر ولی بر قدم نبی میباشد و من بر قدم جد خود و برداشت آنحضرت صلی الله علیه وسلم قدمی مگر بنامم
 در آن موضوع مگر اقدام نبوت که تحقیق جز نبی کسی را بدین راه نیست انتہی الخامس عشر گفته است عالم
 علامه جبر فیما شیخ محمد صادق لطیفی القادری در کتاب خوارق صلوٰتیه خود آورده است بدانکه چنانچه در دوره
 انبیاء علیهم السلام اول منظر نبوت آدم علیه السلام است همچنان درین دوره ولایت منظر اول آن شمس
 استخراقی با همتاب وجود شریف حضرت علی است رضی الله عنہ چنانچه انبیای دیگر اجزای نبوت آنحضرت
 صلی الله علیه وسلم بدون همچنان اولیای دیگر اجزای ولایت آنحضرت باشند بمثل و مانند و قلب بر قلب
 و قدم بر قدم انبیای دیگر که علمای امتی کانیای نبی اسرائیل شاهدین مقال است ابیات

رسولی را مقابل در نبوت	کنون هر عالمی باشد ز است
یکه ظل ولایت در مقابل	بهر ظل نبوت گشت حاصل

و گرامتی یکی ازین اولیا در مقابل مجرّه آن انبیا بود پس بعضی محمدی صلی الله علیه وسلم موسوی و بعضی محمدی
 صلی الله علیه وسلم عیسوی باشند و ولایت علوی مقابل نبوت عیسوی است چنانکه بزبان حضرت

رسالت صلی الله علیه و سلم بجانب ظهور نبوت پیچ نبی مرسل از عیسی علیه السلام اقب نیست موافق خبر
 آنسر و علیه الصلوٰة والسلام انی اولی الناس بعیسی ابن مرید فانذ لیس بنی و بنید بنی یحیی
 بجانب ظهور ولایت پیچ ولی اقب نیست بغیر از علی مرتضی که ولایت علوی حضرت مرتضوی تقابل حضرت
 عیسی است بموجب حدیث صحیح یا علی ان فیک مثل من عیسی علیه السلام تا آخر مثل صدیقی اکبر
 رضی الله عنه بهتر از ابراهیم علیه السلام و مثل فادوق تقی بیخ علیه السلام و مثل عثمان ذوالنورین بلوط علیه السلام
 کرده فرموده تحسین کسی که بعد از بلوط پیغمبر باز وجود خود بجز کرده عثمان است رضی الله عنهم پس بدانکه حضرت
 کرم الله وجهه در ایت ولایت اول مصدر ولایت است و در ایت خلافت مظهر خلافت است که بموجب حدیث انما انا عبد الله
 سنة تا آنکه مظهر شمس الحقایق محمدی که ما هتتاب ولایت علویت در تحت شعل آفتاب وجود فایض السجود
 حضرت محمدی صلی الله علیه و سلم بود مرتبه تقارن داشت چون در تحت الشعل با وج ارتقاء بر آمد و از مدار ج
 بلایت بمعارج بدریہ راجع گشت بزمانیکه عصر و نشرو وجود شریف حضرت غوث الاعظم محبوب جهانی ابو محمدی
 سلطان سید عبدالقادر جیلانی است بمقابلہ تمام و کمال مرتبه استواری شمس الشمس محمدیه صلی الله علیه و سلم
 بدر عالی قدر گردیده و بر تبه علیه قدم بر قدم محمدیه صلی الله علیه و سلم معزز و مشرف گشت و نص حکمت فردیه
 فی کلمة المحمدیه بعینه متجلی در بدر علیه قادریه گشت چنانچه در چهارده روز و شب مهتاب جهانیاب کثرت درجات
 بدریہ روشن و مزین میگردد و همچنانکه بچهارده کرسی حسب و نسب شریف ماور و پدر بزرگوار که هر یکی از آنها سید است
 و سادات صحیح النسب اند از سر در عالم صلی الله علیه و سلم تا ظهور غوث الاعظم که بدر عالیقدر فلک وحدت
 بدین درجات چهارده گانه جهان و جهان جسمانی و روحانی از انور ظهور خود بر تبه نور علی نور میرساند و کرسی تا
 حضرت تا بان ختم نبوت چنین بصحت پیوسته

نقدی است از شیخ
 صلوات الله علیه
 آمده است

شیخ عبدالقادر الجوهی دین است	ابن شاه عصر موسی بالیقین است	ابن عبداللہ آن ماه تمام	این یکی که بزاهد داشت نام
ابن شمس الدین محمد باصفا	او ابن داود بحر اصطفی	ابن موسی آن بزرگ پاکدین	ابن عبداللہ آن شیخ کزین
موسی باجون نهم از عهدش بود	عاشق عبداللہ در عهدش بود	شده حسن دیگر شنی بن حسن	بن علی ابوالباب از وجه حسن
	تا رسول منقذای مسولین	مادی عشره شفیع المدینین	

و در مثالی بدیهه این چهارده بزگوار عالم بقدر چهارده روز بود و چهارده از و لاج سیدات مطهرات این چهارده
 ساوات رفیع الدرجات ساوات رفیع الدرجات چهارده شب باشد چه که شب منظر شاری است و چهارده
 صحاحات عارفات زین المستورات اندوین سلسله انساب مذکوره بترتیب تناسل بتواصل پیوست بحسب
 صورتی و سلسله معنوی که میواسط حضرت غوث الاعظم فرزند سرور عالم انداخت که فرموده اند که دیدم روی پاک
 که در و این مادرمونان عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا هستم و ان اُمّ المؤمنین از پستان مبارک خود مرا
 شیر می نوشاند و در آن احوال حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بر سر من حاضر اند و بزبان مبارک میفرمایند
 که ای عائشه عبدالقادر فرزند من هستم صریح زبانی خوابی مراتب بزرگداری است به و این نقل در کتاب
 قللنا بجزا هر مذکور است و این فقیه صادق را درین معنی شغری است

رباعی

آفتاب نبوت است نبی	ماهتاب ولایت است علی
صادوقی هست بدر عالم بقدر	غوث اعظم شهنشہ حبیبی

پس بدانکه چنانچه در مراتب همتاب مجاز از اهل تاب زوال هیچ مرتبه فوق مرتبه پدیرت نیست چنان درین
 مراتب ماهتاب ولایت از مرتبه ارتقاء تا مرتبه تحت الشعاع هیچ مرتبه اجل و روشن و مبرهن چون مرتبه
 بدر نیست که مرتبه فوق مرتبه بدر است و این بدر قدر قادرید که چهارده نسبت شب و روز صورتی و
 معنوی منظر است شمس الشموس محمدی است صلی اللہ علیہ وسلم که در سائر مراتب سلوک طریقه خاصه محمدیه
 در بدر بدر سیر نموده و بجز یک قدم نبوت هیچ قدم و اقدام ولایت فرنگه است ننموده بمقامی و رار الورا
 رسیده بمقامی و فی قندی فکان قلب قوسین او ادنی بحضرت ذوالجلال اتصال یافته است چنانچه
 این مقدمه وصال کمال خود بجز تہ مقال خود شرح فرموده که کل ولی علی قدم نبی و انا علی قدم
 جدی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و ما وضع المصطفی قدما من موضع الا وضعت قدمی فی موضع قدمه
 الا قدم واحد من النبوة لانه خاتم الانبیاء علیہ السلام پس باید دانست که هر یک ولی که بر قلب و قدم
 نبی است شک نیست که قلب بر قلب آن نبی باشد و کرامت آن ولی مثل معجزه آن نبی بود است
 الساد عشر قال العالم الشیخ السید محی الدین شاه القادری الکرزوی الحمید آبادی فی کتابه

معدن الاسراف فی بیان جوہر الاہرار بدانکہ سالک را در فناء اول شعوری و در وقت تجلیات صفات باقی
 است اما در فناء الفناء شعوری اصابت نیست و در فناء الفناء سالک را بقابا اللہ عزوجل حاصل آید ہمیشہ
 در ذات کائنات تصرف کند اما این مرتبہ بیچ ولی را و قطب را نمیشود تا آنکہ در مقام ولایت حضرت سلطان کونین
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسد و معلوم است حضرت قطب الاقطاب سلطان الاولیا
 والاحباب سید عبدالقادر اعظمی احمینی البجھزی اجمیلانی رضی اللہ عنہ وارضاه واران مقام شریف
 اعلیٰ الدرجات العلیٰ رسیدہ اند چنانچہ فرمودہ اند کہ کل ولی علی قدر نبی و انا علی قدر محمد بنی محمد
 بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و او قدم ایجا ولایت است این سخن در جہرہ نہ گفتہ اند بلکہ در سحر کہ
 اقطاب و اولیا احباب این سخن فرمودہ بہ قطب کبار و اولیا رفوی الوقار قبول کردند و یقین
 نمودند و راوی این حکایت قدوۃ الاولیا صاحب خانوادہ سہروردی شیخ الشیخ شہاب الدین
 سہروردی رضی اللہ عنہ است انتہی السابع عشرہ قال فی اللسان الہندی العالم الفاضل
 مفتی غلام سرور لاہوری فی کتابہ گلدرستہ کرامات روایات از جناب شیخ شہاب الدین سہروردی
 و حضرت گنج بخش کبیر و شیخ عبدالحی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم در کتاب سجد الاسرار میں جو تصنیف
 حضرت علی درجت شیخ نوز الدین ابی الحسن شطرنوی شافعی کی ہے روایت کرتا ہے شیخ شہاب الدین
 سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت شیخ اخیر
 والکل غوث الثقلین غوث الاعظم والفرد الافخم والبازالاشہب قطب ربانی محبوب جانی شیخ ابو محمد
 محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ اپنے صدامجد کے قدم پر ہون نہ اوٹھایا کوئی قدم
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام سے کہ نہ رکھائیں نے قدم اپنا اوس جگہ پر اور
 جیسے کہ قدم آنجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن ساڑھ بیا پرین ویسے ہی قدم
 ہمارے بھی گردن پر کل اولیا اللہ کے ہیں۔ ترجمہ حاصل مطلب، کتاب عربی فارسی
 و ہندی کا یہ ہے کہ حضرت محبوب جانی غوث صمدانی عارف حقانی شیخ سید عبدالقادر اعظمی
 احمینی اجمیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی اوپر قدم نہی یعنی پیغمبر کے اوپر میں اوپر

قدیم اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون اور نہیں اوستھایا ہے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنا قدم گرہینے رکھا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوس جگہ پر گرے وہ کہ قدم نبوت ہو
 اوسکو زمین پاویگا سوانہی کے انتہی **الفصل الرابع** فی ثبوت النسب الشریف الشیخ السید
 عبدالقادر رضی اللہ عنہ انہ قال الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ باللہ هذا الوجود لا وجود عبدالقادر
 ورنہ فی کتب متعددہ برواۃ الثقة الاول قال العالم العلامة الشیخ عبدالقادر بن محمد الدین الارطغینی
 کتابہ تفریح الخاطر المنقبة الرابعة والثلاثون فی قوله رضی اللہ عنہ هذا الوجود وجود جدی
 صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبدالقادر (ذکروا) ان حضرت الغوث توجه یومالی البیت
 وتبع ولده الشیخ عبدالجبار وقبل الدخول الی البیت لہ یر الغوث فدخل البیت وقال لولدتکم مع الغوث
 الی الباب لہ ارنه دخل البیت فقالت لولدتکم منذ خمسة عشر یوما ما دخل فی البیت فلما سمع هذا الکلام توجه
 الی الحجر المطہرۃ التي تشتعل فیها الغوث فی اللیالی بالعبادة فزاحی باب الحجر معلقا من الداخل فعلم ان حجۃ
 الغوث فیہا فوق قائما متاد باراضعا حدیدیہ علی الاخری عند باب الحجر الی نصف اللیل
 فلما تجاوز نصف اللیل فتح الغوث باب الحجر فقال لولده الشیخ عبدالجبار انت کل وقت تلاحظ
 فی نفسك ان عدم رواحی الی البیت کان احسن فان کان الامر کمالا حظت تعطلت صورة
 التوالد والتناسل لکن فی الحقیقة اجمی الی الحجر ونی نظر الخلائق انہم یرونی ارواح الی البیت
 کما ولت فسر الشیخ عبدالجبار بہذا الکلام فسأل الشیخ عبدالجبار ان النبی المختار صلی اللہ علیہ
 وسلم کان اذا قضی حاجتہ بتلع الارض برزمنہ وینفوح عرقہ کالعطو لا یقع علیہ الذباب ہذہ
 خاصۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والانی ہذہ الخاصۃ من حضرتکم فقال لہ الغوث ان
 عبدالقادر صار فانیاً باقیانی ذات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الغوث تاللہ هذا وجود
 جدی لا وجود عبدالقادر فسألہ ایضا کان صلی اللہ علیہ وسلم یظللہ السحاب ولا مانع
 من تظلیل حضرتکم فقال الغوث ترکتمہ عمدا والایظنوا انی نبی رضی اللہ عنہ ان تمہا
 والثانی قال العالم الشیخ محمد صادق شہابی سعدی قادیانی فی کتابہ مناقب الثوبیہ وهو بالفارسیۃ

در مناقب معراجیه مذکورست که گس نمی نشست بر بدن مبارک وی رضی الله عنه چنانکه نمی نشست بر بدن مبارک آنحضرت صلی الله علیه وسلم و بود عرق وی و بدن نمی خوشبوی چنانکه عرق و بدن آنحضرت صلی الله علیه وسلم بود و بدایت آنخلاصیت بول و غایط و یر از زمین فرو می برد صلی الله علیه وسلم پرسیده شد حضرت غوث الثقلین رضی الله عنه ازین حالات پس گفت با الله هذا وجود جدی لا وجود عبد القادر یعنی این وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم است نه وجود عبد القادر در ورین کلام اشارت است سوسه فماتم آنحضرت غوثیه در آنحضرت نبویه ذاتا و صفاتا و قولا و فعلا و حالا و کما الا پس معلوم شد که رتبه آنحضرت رضی الله عنه از رتبه ساز اولیا و تصرفات و افاضات وی بسیار است انتهى و الثالث قال العالم الفاضل السید محمد معروف شاه قادری فی کتاب مشکوٰۃ و لایة الکبری و هی بالفارسیه حضرت سید الاولیا و الاولین و الاخرین جگر گوشه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نور نظر حضرت مرتضی ذو الافراد و قطب الاقطاب غوث الاعراض حضرت محبوب جانانی سید عبد القادر احسنی الحسینی البصری اجمیلانی را سلام الله علیهم بعد و معلومات الله تعالی الی یوم الدین ائینه شهود ذات بیمثال و مظهر قال و حال و کمال جیب خویش ساخت تا به یگانگت قدیمی که حکم وجود جدی لا وجود عبد القادر وارو قدمی بذه علی رفیق کل ولی الله انتهى الرابع قال العالم الفاضل المحقق شیخ محمد صادق الطیفی القادری اعظم بمشربی در کتاب خوارق صادق خود آورده است چنانچه از حضرت غوث الثقلین قدس سره روایت کرده اند که این

کرده ام بانفس خ چندین ساله	تا که مؤمن گشت این کافر نهاد	شد مسلمان نزد من شیطان من	یافت ایمان حقیقی جان من
پس من از کون کجا بر شدم	در هوای سخن گوهر شدم	ماند مخلوقات موجودات بس	غیر هوا بجانم دیدم بیکیس
چون چشمم سر خودم کردم نظر	آن مکانزیا فتم بچند در	بر در باب توکل سر زمان	رفتم و دیدم بی حرکت دران
پس رفتم بر در شرک و عنان	یا فتم بر پر درو سنج و عنان	آمدم ز آنجا بدر گاه شهود	چون دیدم خالی از حرکت
پس از آنجا بر در فقر آمدم	یا فتم خالی درون در شدم	اندر آنها آنچه من بگذاشتم	همه از آنجا جمله حاضر یا فتم
گنج اکبر عز اعظم فتح شد	فی حقیقت ملک من شد آنچه	جذب خالص غنایم سر می	گشت حاصل اعطایم از وی
جلوه قادر بقدرت ر نمود	از سر و خلق فرمود آنچه بود	من زانم آنچه بودم پیشتر	گشته اکنون این وجود من کرد

چنانچه فرمودن رضی اللہ عنہم ہذا وجود جدی و لا وجود عبد القادر صدق الشیخ رضی اللہ عنہما
کہ ابان کہ خود را فقیہ بخوانیم چیزی دیگرست و فقیر کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وغوث الاعظم رضی اللہ
عنہ بان افتخار فرمودہ اند معنی دیگر دار و انتہی الخامس ترجمہ فی اللسان الہندی اور گلدستہ کرامت من
روایت جناب شیخ الابرار سید عبد الجبار رحمہ اللہ الغفار نور العین ان محبوب گردگار فرماتے ہیں کہ والدی و سیدی
و مولائی شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اکثر زبان حق ترجمان سے فرمایا کرتے تھے کہ ہذا وجود
جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر معنی یہ ہے کہ یہ وجود میرا میرے جد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہی نہیں ہے وجود عبد القادر کا ترجمہ عبارت کتاب تفریح النخاطر و دوم سابق الفوشیہ و خوارق صادقہ کا
حاصل مطلب یہ ہے کہ حضرت غوث الاعظم محبوب جانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ کی قسم ہے کہ یہ وجود
میرا میرے جد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں ہے وجود عبد القادر کا یہ مقام فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ کو سومی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا خیال نہیں تھا جو
اللہ تعالیٰ شانہ فرمایا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں فوق لہ تعالیٰ و
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ انتہی **الفصل الخامس فی ثبوت النسب**
الشریف رضی اللہ عنہ و ایضاً مدعی الشیخ رضی اللہ عنہ نسبہ الشریف کا ورد
فی کتب متعدده من الفحول العلماء و الثقات لاشک فیہ الاول قال العالم الفاضل المحدث
الشیخ عبد الحق الدهلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدۃ الاسرار و اخبار الشایخ الشیخ عبدالوہاب
و الشیخ عبدالرزاق و العمان الکیمانی و البزار قالوا اسمنا الشیخ محمد بن الیاس السید عبد القادر
رضی اللہ عنہ یقول علی الکرسی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا بنی لم
لا تکلمہ فقلت یا ابناہ انا رجل عمی کیف تکلم علی فضاء بعد فقال افتح فاک ففتحت فقلت
فیہ سبعا و قال لی تکلم علی الناس و ارجع الی سبیل ربک بالحکمتہ و المواعظۃ الحسنۃ فصلت
الظہر و جلست حضرتی خلق کثیر فارجع علی قرأت علیا رضی اللہ عنہ قائماً بازائی فقال لی
افتح فاک ففتحت فقلت فیہ ستا فقلت لہ لا تکلمہا سبعا فقال ادباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ

سیدوم مشکوٰۃ و لاگری
چہام توارق

وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر فی بحر القلب علی در المعارف فیستخرجها الی ساحل الصدق فیتادی علیها سمار ترجمان اللسان فتشتری بنفایس اثنان حسن الطاعة فی بیوت اذن الله ان ترفع قالوا هذا اول کلام تکلم به الشیخ عبد القادر للناس علی الكرسي رضی الله عنه انتهى الثاني قال العالم الفاضل الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمي الشطنوفی الشافعی فی کتابه بھجة الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا الفقیه ابوالفتح رضی الله بن القاسم یوسف بن خلیل بن احمد الهاشمی البغدادی الکرخی بالقاهرة سنة ثلاثین وستمائة قال اخبرنا ابی عبدالرزاق بیغداد وعمری عبدالوهاب والعمران الکیمی فی البراز سنة تسعين وخمسائة قالوا معنا الشیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه سنة ثلاث وخمسين وخمسائة یقول علی الكرسي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر من يوم الثلاثاء والسادس عشر من شوال سنة احدى وعشرين وخمسائة فقال لي يا بني لم لا تتكلم قلت يا اباها انا رجل عجمي كيف اتكلم على فصحاء العرب بيغداد قال لي افتح فاك ففتحت فتغل فيه سبعا وقال لي تكلم على الناس وادع الی سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرت خلق كثير فارتج علي ذريت علي بن ابوطالب كرم الله وجهه قائما بازائي في المجلس فقال لي لم لا تتكلم قلت يا اباها قد ارتج علي فقال افتح ذاك ففتحت فتغل فيه ستا فقلت لهم تكلموا سبعا فقالوا ربنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تواری عنی فقلت غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی در المعارف فیستخرجها علی ساحل الصدق فیتادی علیها سمار ترجمان اللسان فتشتری بنفایس اثنان حسن الطاعة فی بیوت اذن الله ان ترفع قالوا هذا اول کلام تکلم به الشیخ علی الكرسي رضی الله عنه انتهى الثالث قال العالم العلامة والحجج الفهامة الشیخ محمد بن یحیی التاد فی الحنبلی رحمة الله علیه فی کتابه قلنا هذا الجواهر فی مناقب الشیخ عبد القادر رضی الله عنه وقال استاذنا الشیخ السید عبدالقادر رضی الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي يا بني لم لا تتكلم قلت يا اباها انا

رجل اعجى كيف اتكلم على فضحاء بغداد فقال لي افتح فاك ففتحت فقلت فيه سبعا وقال تكلم
 على الناس وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرت
 خلق كثير فارتح على فرايت عليا رضي الله عنه فقال افتح فاك ففتحت فقلت فيه ستا فقلت له
 لا تكلمها سبعا قال ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توارى عنى فقلت غواص
 الفكر يغوص في بحر القلب على دور المعارف فيستخرجها الى ساحل الصدق فينادى سمسار
 ترحان اللسان فتشترى بنفائس اثمان حسن الطاعة في بيوت اذن الله ان ترفع انهى الرباع
 قال العالم الفاضل السيد ظهير الدين القادري في كتابه فتح المبين عن ابي الفتح نصر الله بن
 القاسم بن يوسف بن خليل بن احمد الماشهي الكرخي ببغداد قال اخبرنا افاض القضاة
 ابو صالح نصر بن الحافظ تاج الدين ابي بكر عبد الرزاق البغدادي سنة ستين وستمائة
 قال اخبرنا ابي عبد الرزاق وعمي عبد الوهاب والعمران الكيامي والبخاري ببغداد سنة تسعين
 وخمسمائة قالوا سمعنا ابا عبد السيد الشيخ محي الدين عبد القادر رضي الله عنه سنة ثلاث
 وخمسين وخمسمائة يقول على الكرسي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر من
 يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال سنة احدى وعشرين وخمسمائة فقال لي ابني لو لا تكلم
 فقلت يا ابتاه انا رجل اعجى كيف اتكلم على فضحاء بغداد فقال افتح فاك ففتحت فقلت فيه سبعا
 ثم قال لي تكلم على الناس وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست
 وحضرت في خلق كثير فارتح على فرايت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قائما بارأى في المجلس فقال
 لي يا بني لو لا تكلم قلت ابتاه قمارتح على فقال افتح فاك ففتحت فقلت فيه ستا فقلت له لو لا
 تكلمها سبعا فقال ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توارى عنى فقلت غواص الفكر
 يغوص في بحر القلب على دور المعارف فيستخرجها الى ساحل الصدق فينادى عليها سمسار
 ترحان اللسان فتشترى بنفائس اثمان الطاعة في بيوت اذن الله ان ترفع قالوا هذا اول
 كلام تكلم به على الناس على الكرسي رضي الله عنه ونقل الامام السيوطي عليه الرحمة ايضا

في كتابه تنوير المحلك في بيان روية النبي والملك عن الشيخ سريع الدين الملقن في طبقات
 الاولياء من ان الشيخ السيد عبدالقادر رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله
 عليه وسلم قبل الظهر فقال افتح فاك ففتحة فتقل فيه سبعا وقال تكلم على الناس وادع الى
 سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضر في خلق كثير فارتج
 على فرأيت عليا رضى الله تعالى عنه قائما بازائي في المجلس فقال يا بني لو لا تتكلم قلت ابتاه قد
 ارتج على قال افتح فاك ففتحة فتقل فيه ستا فتقلت لم لا تكلمها سبعا قال ادبامع رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ثم توارى عنى فتقلت غواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف
 فيستخرجها الى ساحل الصدق فينادى عليها سمسار ترجان اللسان فتشتري بنفاس ثمان
 حسن الطاعة في بيوت اذن الله ان ترفع اهتوى بحر وفه الخامس قال العلامة الشيخ عبدالقادر
 بن محي الدين الاربلي رحمه الله تعالى في تفریح الخاطو المنقبة الثانية في اول تكلمه على الناس
 على الكرسي رضى الله عنه ذكر في بجهة الاسرار قال رضى الله عنه رأيت رسول الله صلى
 عليه وسلم قبل الظهر من يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر الشوال سنة احدى وعشرين
 وخمسة فقال يا بني لو لا تتكلم قلت ابتاه انا رجل اعجبى كيف تكلم على فضحاء بغداد فقال لي
 افتح فاك ففتحة فتقل فيه سبعا فقال لي تكلم على الناس وادع الى سبيل ربك بالحكمة
 والموعظة الحسنة فصليت الظهر وحضر في خلق كثير فارتج على فرأيت على ابن ابى طالب
 كرم الله وجهه قائما بازائي في المجلس فقال لي يا بني لو لا تتكلم فقلت يا ابتاه قد ارتج على فقال
 لي افتح فاك ففتحة فتقل ستا فتقلت لم لا تكلمها فقال ادبامع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ثم توارى عنى فتقلت غواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف فيستخرجها الى
 ساحل الصدق فينادى عليها سمسار ترجان اللسان وتشتري بنفاس ثمان حسن الطاعة
 في بيوت اذن الله ان ترفع قالوا هذا اول كلام تكلم به على الناس على الكرسي رضى الله عنه
 انتهى السادس قال العالم العلامة والشيخ الفهامة الامام عبدالقادر البياضي اليمني الشافعي رحمه الله تعالى

فی کتاب خلاصۃ المغاخر فی مناقب غوث الملکوت السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ حکایت صد و هفتاد و
 نسیوم نقل است از شیخ عمر کیمانی و عمر بزاز و از شیخ الاسلام سید عبدالرزاق و از سید عبدالوهاب ابن
 شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کہ گفتند وقتی شیخ بالائی سبزه میفرمودند کہ پیغمبر را
 صلی اللہ علیہ وسلم روز شنبه شانزدهم از شوال ستمصدی و عشرين و خمسائه دیدم وی صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمودند یا بنی لم لا تکلم بکتم یا ابناہ من مرو عجمی ام روضھا بعد او چگونہ سخن گویم فرمود و ہن
 بکشا چنان کہ دم ہفت بار در دہن من بدید و گفت بر خلق سخن گوی و ادع الی سبیل ربک بالحکمت
 و الموعظۃ الحسنۃ پس من نماز ظهر بگذاردم و ہم بر جای خود نشستم دیدم کہ خلقی بسیار جمع آمدند و
 زبان من بسته شد امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ را دیدم کہ در مقابلہ من ایستادہ است
 و میگوید ای فرزند چرامتن نیکنگی بگفتم یا ابناہ زبان من بسته شدہ است فرمود و ہن باز کن و ہن باز
 بکشا و شش بار در دہن من بدید گفتم چرا ہفت بار ندیدی فرمود و از ہجت اوب با پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم و از نظر من متوازی غائب شد بعد از ان من در سخن آمدم و گفتم خواص فکر در ویا ر قلب
 غواصی میکند برای درر معارف پس بیرون می آرد بساطل صد پر پس ندا میکند بر ان دستمان
 ترجمان زبان پس خریدہ میشود و انمان حسن طاعت در پیوتی کہ اذن اللہ ان ترفع راویان مذکورین میگویند
 کہ این اول کلام شیخ بود بر خلق رضی اللہ عنہ السابع قال العالم الفاضل قدوۃ المحققین مولانا
 محمد غوث الخاطب بشفہ الملک علیہ الرحمہ فی کتابہ انہار المغاخر و ہی بالفارسیۃ و ہذا عبارتہ مروی است
 از شیخ عمر کیمانی و شیخ عمر بزاز و شیخ ابی عبداللہ عبدالوهاب و شیخ ابی بکر عبدالرزاق بروایت قاضی القضاة
 ابی صالح نصر بن ابی بکر بن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہم کہ شنیدیم از شیخ محی الدین سید عبدالقادر
 راضی اللہ عنہ کہ بر کسی میفرمود در سنہ پانصد و پنجاہ و سہ ہجری دیدم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 پیش از نماز ظهر روز شنبه شانزدهم ماہ شوال سنہ پانصد و ہجرت و یک از ہجرت و وی صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمود ای پسر چرامتن نیکنگی عرض کردم ای پدر من مرو عجمی ام چنان سخن گفتم بوضھای
 بعد او آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود و ہن تو بکشای و ہن من کشادم لعاب مبارک در دہن

سن هفت بار انداخت و فرمود که سخن موعظت بگوی مردم را و بخواجه آنها را بسوی راه پروردگار تو بگفت
 و پند نیک پس نماز ظهر گذارم و نشستم و جمعی کثیر بر من هجوم آوردند پس سخن بر زبانم بندشتم و دیدم
 علی بن ابی طالب را کرم الله وجهه که در مجلس در مقابل من ایستاده است و میفرماید ای پسر چرا سخن
 نیکوئی گفتی ای پدر مرا که سخن بر من بند شده است فرمود و مان بکشائی و من کشاوم پس لعاب شریف
 شش بار در آن انداخت عرض کردم چرا هفت بار نکردی فرمود برای ادب رسول خدا صلی الله علیه و سلم
 پس از نگاه من مستور شد پس این سخن گفتم خواص الفکر فی خصوص فی بحر القلب علی در را معارف
 فیستخرجها الی ساحل الصبر فینادی علیها سمار ترجمان اللسان قشتری بنفائس اثمان حسن الطائفة
 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویزکر فیها اسم اللہ یعنی خواص فکر فرمود بدرباری دل برای در مانے
 معارف پس بر می آرد از بسوی ساحل سینه پس ندا میکند بران دلالت ترجمان زبان و توصیف آن
 می سازد پس خرید و میشود آرزای بهترین بهای ما می حسن طاعت و در خانیهای که اذن داده است
 خدا تعالی که ذکر کرده شود با و از بلند و را سخا نهان نام خدا تعالی را راویان میگویند که این سخن اول گامی
 است که وی رضی الله عنه بر کسی فرمود استی الثامن قال العالم المحدث المحقق الشیخ عبدالحق
 الدهلوی رحمه الله فی کتابه زبدة الآثار و هی بالفارسیة و بذ عبارتہ آب و هن انداختن رسول خدا
 صلی الله علیه و سلم و علی رضی کرم الله وجهه در دهن مبارک غوث رضی الله عنه و خیر داده اند شیخ
 عبدالباق و شیخ عبدالرزاق و غیره اینان از شاخ گفتمند شنیدیم شیخ محی الدین سید عبدالقادر را
 رضی الله عنه که میگفت بر کسی دیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس گفت مرا ای پسر چرا تکلم
 نیکوئی پس گفتم ای پدر من مرد عجبی ام چگونه تکلم کنم بر فضیلت بعد از او پس گفت آنحضرت صلی الله علیه و سلم
 بکشائی و هن خود را پس کشاوم و هن را پس انداخت آب و هن مبارک خود را در دهن من هفت بار
 و گفت مرا تکلم کن بر مردانش و بخواجه مردم را براه خدا بگفت و موعظت حسنه پس گذاریم من ظهر را
 و نشستم و حاضر شد مرا خلق کثیر پس بسته شد کلام بر من پس دیدم علی را رضی الله عنه که ایستاده
 است مقابل من پس گفت مرا بکشاید بن خود را پس بکشایم و هن را پس انداخت آب و هن خود را

شمس باریس فقہ حاکم نیکروانی ہفت بار گفت از جہت ادب با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیوستہ شد از من پس گفتم من این کلام را غواص الفکر علی درو المعارف فی تخریجہا الی ساحل الصدق فینادی علیہا سمسار ترجمان اللسان قشتری بنفاس اثنان حسن الطاعنہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع قالوا ہذا گفتمہ شایخ کہ این اول کلامی است کہ تکلم کرد شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ بر کسی استی التاسع قال سلطان داراشکوہ فی کتاب سفینۃ الاولیاء وہی بالفارسیۃ ودر سال پانصد و بیست و یک ہف سوودہ پنجم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ اب دہن مبارک وروہن آنحضرت رضی اللہ عنہما ختمد بر سبہ برآمدہ مجلس و عطا ہنہا وند استی ترجمہ عبارت عربی و فارسی تو کتابوں کا یہ ہے ہوا اول کہا شیخ محدث محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں دو عالم کہا عالم علامہ شیخ محمد بن سبکی التادفی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب قلائد الجواہر میں سیوم کہا سید ظہیر الدین احسنی القادری نے اپنی کتاب فتح البین میں چہارم کہا شیخ نور الدین ابی احسن علی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب بیچۃ الاسرار میں پنجم کہا عالم علامہ شیخ عبدالقادر بن محی الدین ابی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطمین ششم کہا امام عبد اللہ یافعی شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب خلاصۃ المغاخر میں ہفتم کہا قدوۃ المتحققین محدث محمد غوث الخاطب مشرف الملک رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ہنہا للمفاخر میں ہشتم کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب زبدۃ الآثار میں نہم کہا سلطان داراشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں روایت اخبار شایخ کرام شیخ عبدالوہاب و شیخ عبدالرزاق و عمران الکیسانی نے و ہزار نے کہا کہ سنا ہے سال پانچ سو نو وین یوم ششم ۱۶ تاریخ ماہ شوال کی ۵۳۳ ہجری پانچ سو تہرین میں پہلے ظہر سے شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی پر لینے نہ پر دیکھا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیٹے کیا واسطے و عطا نہیں کرتا ہے پس عرض کیا میں یا بابا میں مردہوں عجمی کس طرح سے و عطا کروں نصحا کے عرب و ہندو کے سامنے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہن لینے منہ اپنا کھول پیچھے وہن باز کیا لینے کھولا اپنے وہن لینے منہ کو سات و فد لعاب شریف لینے لب مبارک اپنے میرے وہن میں ڈالے اور فرمایا و عطا بیان کرد میں حسنة حکمت سے چھپ چھپی میں صلوة ظہر جب فارغ ہوا

غوثیہ محبوبہ مصافحہ نمودند و پورسید نادر بر سر نہادند و ہمہ من مضمون شعر ایک نظم فارسی اور

روزیکہ غوث اعظم ماوریدینہ	گفتہ است ز دور قد سلطان مہا	یا سید البشیر جو بوم من ملک تاج	روح فرست کہ بود با بی زما
او میرسد و پورسید ز جام	براض فرقت کہ بود بہتر ز ما	این نوبت آنگہ رسیدم باین	و حضرت شریف امی شاخصیا
غلام دوی و دوست سیک کہ پیش	گیرم نصیب زین الطاق عطا	از گفتش سوزید و دود خوش	کرده در زسوی شہر قطب ادلیا
بردیافت گوشت از آن دو کف	زین پس گمان چہ شد در جہ	این گفہ بہت بند و متعجب فیض	گو عاشق بہت شوق در پیش زانہ

ابھی الثالث قال العالم الفاضل المفتی غلام سرور لہاوری فی کتابہ گلستہ کہ امت شایقان دیدار محبوب جانی و زائران مزار قطب روایت کرتے ہیں کہ ایک سال جناب سلطان الاولیاء غوث الارض و السما مقصدی انقیاسید کو مین نور لعین حسنین وطن مالوف سے واسطے او اسے حج بیت اللہ رفتی افزای حرمین شریفین ہوئے اور کہ معظریہ نورافروز دینہ منورہ ہوئے اور روضہ مطہرہ جناب رسالت مآب شہنشاہ انبیا علیہ الصلوٰۃ اللک الاعلیٰ پر حاضر ہو کر چالیس روز تک قیام میں رہے اور دست بستہ ہو کر دروے مزار اکرم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشعار زبان گوہر افشان سے فرماتے تھے

ذنوبی کوج البیوت الیکثر | کلہا مثل الجبال بلی الکبر | ولكن عند الکونم اذ اعظم | کجناح البعوضۃ بلح صغیر

غرض چالیس روز تک ایکویہ یہی حالت عاید رہی کہ بے خور و خواب بہایت بیقرار رو بروئے مزار نوربارق رسول کردگار قیام پذیر ہو کر اشعار پڑھتے تھے بعد چالیس روز کے آپ نے یہ شعر فرمایا و فرمایا حق ترجمان کیا

فی حال تل بعد و حی کت سلا | تقبل الاضغی نانتی | و هذا نوبۃ الاستباح حضرت | فامد یاریک لکن خطی شائستہ

یہ دونوں شعر جب زبان درفشان غوث جہان سے تین مرتبہ سرزد ہوئے تو دونوں دست مبارک جناب رسالت پناہ نبوت و سنگاہ محمد رسول اللہ مزار شریف سے نمودار ہوئے جب غوث الثقلین نے پدین سید کونین دیکھے تو دوڑ کر بوسہ دیا اور مصافحہ پدین عالیین سے سعادت اندوز سعادت وارین ہوئے فقط اور یہ چند اشعار اوس حال واقعہ میں شیخ عبد الجلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے

لیفرد تصنیف فرمائے کہ بطور غمچہ تازہ درج گذارستہ ہذا ہوسے۔ اشعار تصنیف خود عبد الجلیل

قازری رحمۃ اللہ علیہ

روزیکہ غوثِ عظیم اور بدیہ شہر

او میر سید پریدہ بیوی سجاہم
خوہم دی دوڑ سب ک بوش
بوسید یافت گو فرمت ان کف
زین بس کمال جیت کہ شہ درج

یاسید الفجر جودت من بلک خورشید
اور حضرت شہزادہ ایشاہ صفیا
ارنوض اور سولجہ اور خوش
عبد الجلیل نہایت محتاج فیض اور
گو عاشقیت بیخوش ابتدا

غزل

جا بجا اوس نور سے نور فقین روشن ہوا
آسمان او حلا ہوا رو سے زمین روشن ہوا
گون آیا اسکے در پر جو نہیں روشن ہوا
صورت خورشید بس اسکا جبین روشن ہوا
تیرا خاوم ہو کہ یہ گوشہ نشین روشن ہوا

صورتِ مہتاب جب وہ نور دین روشن ہوا
جلوہ اوس نور الہی کا جو پھیلا جا بجا
ظلمت دنیا کا مارا مجرم نامہ سیاہ
مہرے جس رخیہ ہو تیری نظر سے مہربان
نام پایا سرور عاجز نے تیرے نام سے

میرزا محمد رفیع صاحب

الفصل السابع فی بیان ثبوت النسب رضی اللہ عنہ قال العلماء

الثقات وایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ الشریف رضی اللہ عنہ غیر متعارف
کما ورد فی کتب المعترف من الثقات الکاملین الاول قال لعالم العلامۃ والحجۃ الفہامہ الشیخ
مورالین ابی الحسن بن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطونی الشافعی ورحمۃ اللہ علیہ کتابہ
بھیجۃ الاسرار ومعدن الانوار اخبرنا ابوسعید عبدالغالب بن احمد بن العاشمی قال اخبرنا
الشیخ ابوالحسن علی بن سلیمان الجبار قال اخبرنا الشیخان العمران الکیما فی والیزار قال اسمعنا
الشیخ القدوة اباسعد القیلوی رضی اللہ عنہ یقول وایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ علیہم فی مجلس الشیخ السید عبدالقادر وغیرہ وان السید
لینف عبدہ وان ارواح الانبیاء لتجول فی السموات والارض جولان الریاح فی الافاق
وراثت الملائکۃ علیہم السلام یحضرونہ طوائف بعد طوائف ویرثت رجال الغیب

والجان یتسابقون الی مجلسه انقضى الثاني قال للعالم الامام عبدالله الياقنى المشافعي
اليمنى رحمهما الله تعالى في كتابه تكلمة خلاصة المفاخر وهي بالفارسية وهذا عبارته
نقلت است از شيخ ابوسعيد قليوبى رحمه الله عليه كه گفت در مجلس شيخ محي الدين سيد عبدالقادر بار ما بنعيم
صلى الله عليه وسلم وبينما هم ابرار و غير اصلوات الله عليهم مشاهيره كرده ام وارواح انبيا عليهم السلام ميان
آسمان و زمين هر ايشه جولان ميكردند مثل جولان ابرج در آفاق و ملائكه را عليهم السلام ديدم كه طوائف
بعد طوائف در مجلس شيخ حاضر ميشدند و مردان غيب را رضوان الله عليهم و جنيان را ميديدم كه در مجلس
شيخ محي الدين سيد عبدالقادر رضى الله عنه سهارت ميكردند و خواجيه خضر عليه السلام در مجلس شيخ بسيار
حاضر ميشدى و گفتم كه هر كه فلاح ميخواهد پس نمازت اين مجلس بكنه انتهى الثالث قال العالم للمحقق
المدقق الشيخ محمد بن يحيى التادى فى الحنبلى فى كتابه قلاند الجواهر قال الشيخ ابوسعيد القليوبى
وقيل ابوسعيد رحمه الله تعالى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء
صلوات الله عليهم اجمعين فى مجلس الشيخ السيد عبدالقادر غير مرة وان السيد ليشرف
عبده وان ارواح الانبياء عليهم السلام لتجول فى السموات والارض جولان الرياح فى
الافاق ورايت الملائكة عليهم السلام يحضرون طوائف بعد طوائف ورايت رجال الغيب
يتسابقون الى مجلسه ورايت بالعباس الخضر عليه السلام بكثر حضوره فسأته فقال من
اراد الفلاح فعليه بلازمة هذا المجلس انتهى الرابع قال العالم الشيخ المحدث المحقق عبدالحق
الدهلوى رحمه الله عليه فى كتابه زبدة الاسرار و خبر الشيخ عن الشيخ القدوة ابى سعيد
القليوبى رحمه الله تعالى يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء
فى مجلس السيد الشيخ عبدالقادر غير مرة وان السيد ليشرف عبده وان ارواح الانبياء
عليهم السلام لتجول فى السموات والارض جولان الرياح فى الافاق ورايت ملائكة
عليهم السلام يحضرون طوائف بعد طوائف ورايت رجال الغيب والجان يتسابقون
فى مجلسه ورايت ابا العباس الخضر عليه السلام بكثر حضوره فقال من اراد الفلاح

فعلیہ بلاؤمۃ هذا المجلس انتهى الخامس قال العالم الشيخ السيد محمد المعروف بشاہ
 فی کتابہ مشکوٰۃ ولایۃ الکبریٰ وروی عن الشيخ ابی سعید القیلوی رضی اللہ عنہ یقول
 رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ علیہم فی مجلس سید
 الشيخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ غیر مرۃ وان السيد لیشرف عبدہ وان ارواح الانبیاء علیہم
 السلام تسبحون بین السموات والارض جولان الرياح فی الآفاق ورائت الملائکۃ علیہم
 السلام یحضرون طوائف بعد طوائف ورائت رجال العیب والجان یتسابقون الی مجلسہ
 ورائت ابی العباس الخضر علیہ السلام یکثر من حضورہ فسألته فقال من اودا الفلاح
 فعلیہ بلاؤمۃ هذا المجلس انتهى السادس قال سلطان داراشکوہ فی کتابہ سفینۃ الاولیاء
 وشیخ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ کفتمہ اند کہ در مجلس شیخ سید عبدالقادر بارہ ماہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 وپیغمبران دیگر اصلوات اللہ علیہم و ملائکہ واجنہ راحف بصف مشاہدہ میگردم انتہی السابع
 قال العالم العلامة قدوة المحققین زبدۃ المدققین مولانا محمد غوثی المحاط بشرف الملک علیہ الرحمہ
 فی کتابہ انہار المغاخر وریست از شیخ ابی سعید القیلوی بروایت شیخ عمر کیمانی وشیخ عمر زار رحمۃ اللہ علیہم
 کہ دیدہ ام رسول خدا و دیگر انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم بارہ ماہ در مجلس شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ
 عنہ و تحقیق سید شرف مہد بہ بندہ خود را و ارواح انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جولان میگردند در میان
 آسمان و زمین مانند جولان باد ما در آفاق انتہی الثامن کہا عالم فاضل مفتی غلام سرور علیہ الرحمہ نے
 اپنی کتاب گلدستہ کرامت میں کہ روایت ہو شیخ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس
 جناب فلک رکاب غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز نے صد ماہ دفعہ زیارت پر برکت حضرت عالی دست
 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لی ہے بلکہ جس قدر ارواح مطہرہ مسلمان والا شان و پیغمبران بلند سکان
 میں سب کے سب مجلس عالی محبوب الہی رونق افروز رہتے تھے اور کئے دفعہ سے فرشتگان آسمانی
 و ملائکان کروبیانی فوج در فوج رو بروئے آنحضرت قدس اللہ سرہ العزیز کے حاضر و یکجا ہے کہ
 کہ آپ کے سخنان و لایز و تقریر محبت آمیز سنکر مستفید و مستفیض ہوتے تھے انتہی الفصل

الثامن فی بیان مصدق ثلثی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فی المنام وقال
 صلی اللہ علیہ وسلم هذا ولدنا حقا وهذه البشارة يدل على ثبوت النسب الشريف
 رضی اللہ عنہ کاوردی فی کتب متعددہ فانظر یا اخی الاول قال العالم العلامة الشیخ
 محمد بن یحیی التادفی الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ قلائد الجواہر وقال رضی اللہ
 عنہ وایت فی المنام کافی فی حجر عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وانا ارضع ثدیہا
 الا لاین تم اخرجت ثدیہا الا لیسر فضعته فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فقال یا عائشہ هذا ولدنا حقا انتهى - الثانی قال العالم الشیخ محمد صاوق لطیفی القادری
 رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ خوارق الصاوقیہ وہی بالفارسیہ وسلسلہ معنوی کہ بیواسطہ حضرت غوث الاعظم
 رضی اللہ عنہ فرزند سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انداخت کہ فرمودہ اند کہ ویدم رو پای کہ دروا من
 ما در مومان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہستم وان ام المؤمنین زیستمان مبارک خود مرا شیر
 می نوشاند و در انحال حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بر سر من حاضر اندہ زبان مبارک میفرماید
 کہ ای عائشہ عبد القادر فرزند من ہست مصدق - زہی خوبی مراتب بہ زبیدار نیست نہ در کتاب
 قلائد الجواہر مذکور ہست و این فقیر صاوق را ورین معنی شعر نیست و با سع
 آفتاب نبوت ہست نبی نہا ہتاپ ولایت ہست علی صاوقی ہست بد عالمیہ غوث اعظم شہنشاہ جیلے
 الثالث قال العالم الشیخ محمد صاوق شہابی سعدی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ مناقب غوثیہ
 المنقبۃ السابعہ وایحسون فی مصدق ثدی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فی المنام وقولہ صلی اللہ علیہ
 وسلم هذا ولدنا حقا ورتجیض جواہر القلائد اور وہ ہست کہ فرمودہ اند حضرت سلطان الاولیاء الاقطاب
 غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کہ ویدم من خود را در کند ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا کہ
 من کیدم پستان راست اور البعدہ پستان چپ ویرامی کیدم ناگاہہ در آمدند حضرت جدی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا خطاب کردند فرمودہ یا عائشہ ہذا ولدنا
 حقا انتهى الرابع قال العالم مفتی غلام سرور فی کتابہ گلہ ستہ کرامت مناقب پنجاہ و ہفتم

در بیان جانے جناب غوثیہ کے بعالم طفلی بجات خواتین بحضور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اور مستفید ہونا شیر خوری اور مہربان سے کتاب جو ام القلامہ میں لکھا ہو کہ دیا یا جناب محبوب عالی قطب ربانی قدس اللہ سرہ الساسی کہ ایک روز بعالم طفلیت خواب راحت میں تھے کیا دیکھا کہ دستگان آسمانی بجگہ ربانی آئے اور ہلکا اوٹھا کر سجدت بابرکت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیکے اونھوں نے ہلکا پنی گود مبارک میں اوٹھا یا اور براہ و فور محبت ہلک سینہ بے کینہ سے لگایا تو فرط پیار سے چھاتی میں شیر باہر آیا اور سر پستان ہمارے منہ میں رکھ کر شیر پلایا اور تھے وہ شیر پی کر وہ حظ اوٹھا کہ مرتبہ اعلیٰ پایا اتنے میں جناب خاتم النبیین رسول رب العالمین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم الدین بھی وہاں رونق افزا ہوئے اور ام المؤمنین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا عائشہ بذکرنا حقہ واعینا وحیانی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین بہت

از جنین فرزند نام جدا مجر روشن است
 این سہ تابان چہ خوش از نوریز روشن است
 اختر ی بر آسمان دین احمد روشن است
 مشعلی روشن کہ از منہ تاب جبر روشن است
 طرہ خورشید یکہ بہر نیک و بہر درون است
 ہر سیا کاریکہ دیدار تو بیند روشن است
 ذرہ زانوار پر نور تو با بدر روشن است

ذات محی الدین کز نور محمدر روشن است
 گشت نورش در جہان از ما تا ما ہی عیان
 در شبستان علی روشن شد این روشن چراغ
 چشمہ رفیضی کہ دائم چشمہ بد زودر باد
 بہر گہاری کہ بار بر سر ہر خاص و عام
 مردہ گرد و زندہ از انفس آن عیسی نفس
 سرور سکین گرای بہر سپہروین حق

اور صحیح بخاری شریف میں ہے حدیثنا عبدان وقال اخبرنا عبد اللہ عن یونس عن الزہری قال حدثنی ابوسلۃ ان ابابہرۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ لایتمثل الشیطان بی حدیثنا معلی بن اسد قال حدیثنا عبد الغزیز بن مختار قال حدیثنا ثابت البنانی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لایتمثل بی ورسول المؤمن

صالحہ و...

جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة انتهى الفصل التاسع في بيان ليلة المعراج قال الشيخ السيد عبدالقادر جبالا في رضى الله عنه لما شرف الله تعالى روجي في ليلة المعراج بروية جدى رسول الله وجيب الله صلى الله عليه وسلم هذا ايضا مشعرا بثبات نسبة الشريف رضى الله عنه كما ورد في كتب متعددة بروايات الثقات العلماء الكاملين الاول قال العالم الفاضل الشيخ عبدالقادر بن محي الدين الاربلى رحمه الله تعالى في كتابه تفریح الخاطر المنقبة الاولى في وضع قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم على رقبة رضى الله عنه ذكر صاحب جواهر القلائد آخذا من مجمع الفضائل قال سمعت عن المشايخ الصونية رضى الله عنهم اجمعين ان سيدنا الشيخ عبدالقادر الكيلاني هو الغوث الاعظم لانه كلما ذكر الغوث فالمراد به رضى الله عنه لانه مخاطب من الحق به كذا ذكر في الغوثية رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وشرف بتشريف الولاية المطلقة الحمديّة وخلعة الوارثة المحبوبة في تلك الليلة المباركة كما نقل عنه رضى الله تعالى عنه انه قال لما عرج بجدي صلى الله عليه وسلم في ليلة المرصاد وبلغ سدة النتهى بقي جبريل الامين عليه السلام متخلفا وقال يلى محمد لودنوت انملة لا حترقت فارسل الله تعالى روجي اليه في ذلك المقام بالاستفان من سيد الانام عليه وعلى آله الصلوة والسلام فقتشفت به استحصلت على النعمة العظمى والوراثه والخلافة الكبرى وحضرت واوجدت بمنزلة البراق حتى ركب عليّ جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا في بيده حتى وصل فكان قاب قوسين او ادنى وقال لي يا ولدي وحدقة عيني قد مي هذه على رقتك وقد ماك على رقاب كل ولياء الله تعالى وقال رضى الله تعالى عنه في بعض اشعاره

شيخ سدي شريف الابرار
الكريم روي بيزنوم
فرض على بيروزوم

فلاحت لي الانوار والحق اعطاني	وصلت الى العرش المجيد بحضرتي
فلاحت لي الاملاك والله سماي	نظرت الى عرش الله تبلى تخلفتي

<p>وتوجهني تاج الوصال بنظرة</p>	<p>ومن خلعة التشريف والقربا كساني</p>
<p>انتهى الثاني قال العالم الفاضل شيخ محمد صادق شهبازي سدي قادري في كتابه مناقب الغوثية المنقبة الاولى وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدمه على رقبته رضي الله عنه في ليلة المعراج وذكر صاحب جواهر العقائد انه اخذت از جمع الفضائل سمعت عن مشايخ الصوفية رضي الله عنهم ان سيدنا الغوث الاعظم راي نبيا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وتشرف بتشريف الولاية المطلقة العمودية وخلقته في لوزة العبرية في تلك الليلة المباركة كما نقل عنه رضي الله عنه انه قال لما عرج جدي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وبلغ سدرة المنتهى التي جبريل عليه السلام سخطها وقال يا محمد لو دونت امة لاحترقت فارسل الله تعالى روحني في ذلك المقام لاستفاوته عن سيد الانام عليه وعلى آله الصلوة والسلام فقتشفت به واستحصلت الغنة العظمى والوراثة الاواني والخلقة الكبرى من حضرة وصرت بمنزلة البراق حتى ركب على جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناني بيده حتى وصل مقام قاب قوسين او ادنى وقال لي يا ولدي وصدقة عيني قومي هذه على رقبته وقد ماك على رقبته كل ولي الله اشكر الله الشكور حضرت سلطان الاولياء غوث الاعظم وربض اشعاره وفردوه انه اشعار</p>	
<p>وصلت العرش المجيد بحضوره</p>	<p>فلاحت لي الانوار والحق اعطاني</p>
<p>نظرت لعرش الله واللوح نظرة</p>	<p>فلاحت لي الاملاك والله اعطاني</p>
<p>وتوجهني تاج الوصال بنظرة</p>	<p>ومن خلعة التشريف والقربا كساني</p>
<p>شيخ اجل عارف بالله سيد نعمت الله قادري بنگالي در سفينة خود بين شيخ نوبته انه قد سمعت عن بعض المشايخ السوات الصوفية لما بلغ نبيا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الى مقام دني فتدلي سمع عن جناب الله تعالى يا محمد تف ان ركب ليصلي ويشرف خاصية عليك فهذا هو المقام الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لي مع الله وقت لا يعني فيه لك مقرب لاي مرتل فقطر الى جوهر العشق الذاتي حاضر بحضوره فكله عليه الصلوة والسلام وقال ليس في هذا المقام احد من الاملاك الكرام والانبيا والرسل النظام من بذليل له عليه الصلوة والسلام هذين ولداك وارث ولايتك وميمي وديك من</p>	

اولین براق از بهر توفیق و ستاوه پس حضرت صلی الله علیه وسلم میفرماید که وضو ساختم و دو گانه شکرانه
 گذاردم و از خانه اهبانی سوار شده به بیت المقدس رسیدم فرود آمدم و بارواج انبیاء شده
 نمودم که با استقبال من آمده بودند و با ایشان دو گانه یگانه او انموده نزد براق آمدم تا سوار شوم
 براق پشت اطاعت یک سو کرد و بگفتار آمد و التماس نمود که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در
 بهشت بسیار براق انداز من خوب و خوشتر که من کمینه ایشانم و چون امروز را بسواری خویش
 معزز و مشرف میفرمائی و این منزلت ب دیگران روا نداری سرور عالم صلی الله علیه وسلم فرمود که چون
 در دار دنیا بر پشت تو سوارم و در دار آخرت نیز سواری بر غیر تو رواندارم چون براق استماع این
 کلام نمود از خوشوقتی و سرور چنان فرجه بلند بالا گشت که نه دست مبارک آن سرور بر عیال او سپریا
 دنه قدم مبارک در رکابی کشیده اندران زمان سرور عالم فرمود دیدم که روح پاک و تراک
 روشن و مبین پیدا و هویدا گشت و تحت قدم من درآمد من برود قدم خود یکی بر سنگ معراج
 و دویم بر کتف او نهادم و بر براق سوار شدم پس پرسیدم که تو روح کیستی آن روح مبارک
 گفت تحقیق من روح حضرت سید محی الدین عبدالقادر و تحقیق الله سبحانه قدرت و قوتی
 و پادیس زنده گردانم دین ترا بعد از وصال تو پس قدم مبارک شیم بر کتف نهاد و فرمودند حضرت
 صلی الله علیه وسلم که چون قدم من برگردن تو نهاده شد این تحقیق بدان که قدم تو برگردن جمیع
 اولیاء الله باشد روایت دیگر آنست که چون براق از خوشی بلند و بالا شد و خرم آنحضرت صلی الله
 علیه وسلم اول قدم خود بر سنگ مبارک معراج نهاد و قدم دویم بر پشت سید عبدالقادر
 نهاده بر کاب رفته بر زمین مبارک براق نشست و در همین کردن نهادن تحت اقدام حضرت سرور
 عالم صلی الله علیه وسلم آنچه سید عبدالقادر که دیدار سنگ نقشش بر زور داده استاده بودن بعینه
 نقش آن آنچه مبارک و نقش قدم سرور عالم صلی الله علیه وسلم که بر آن سنگ معراج قدم نهاده بودند
 هر دو نقش ظاهر اند که مردمان زیارت کرده می آیند ایضا سرور عالم صلی الله علیه وسلم میفرماید که در
 ترقی مدارج معراج چون از آسمان هفتم برگزیدم دیدم که بر عرض نیمه بزرگ سبز فام برپا ستاده

و قببہای سبز مردی آراسته و پیراسته کرده اند پس متحیر شدم و گفتم یا بار خدا یا مگر بعد از من
 پیغمبری دیگر بعثت نخواهی کرد ناگاه ندا از حضرت کبریا آمد که ای حبیب من چنانچه خاتم الرسل
 توفی باز عرض نمودم الہی تو دانی پس این خیمہ سبز پر تکلف رفیع الشان از کیت کہ بر عرش
 اعظم برپا کرده اند جواب از حضرت و باب در رسید کہ ای حبیب من این خیمہ سید محی الدین
 عبدالقادر جیلانی است پس عرض نمودم کہ الہی سید عبدالقادر کیت کہ در جناب کبریائی تو
 قدر و قدرت یافته زمان شد کہ خاصہ از لا و عالی ترا دخواست و آن کسی است کہ قدم خود را بر
 پشت او نهاده بر براق سوار شده بودی و گفته کہ برو قدم تو برگردن تمام اولیاء خدا تعالی باد و
 بر کہ فرو نماند کردن خود پس در گون شود حال او در دنیا و در آخرت و ای حبیب من این فرزند تو
 تحقیقا در آخرت خیمہ خود بر درونخ خواهد زد تا نگذرد هیچکس از امت تو در درونخ مگر آنکہ بقدرت
 خود صورت آنرا بگردانم بدین قرده سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء آفریدگار خود بجا آورده و
 دور کت نماز سجیت او انموده و بخوشنودی تمام بمنزل مقصود رسید پس بر میدان و مہمان
 و معتقدان حضرت قادریہ علیہ لازم و واجب است کہ این دو گانہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ در عین خوشحالی استماع منزلت فرزند از جند خود او انموده اند میخوانندہ باشند و ثواب دو گانہ
 بروی بر فتح آن یگانہ ہمیدہ نمایند و آن دو گانہ این است در ہر رکعت بعد از فاتحہ سورہ اخلاص
 بار و باید کہ این دو گانہ را بعد دو گانہ اول بتواصل خوانند کہ تا ہموارہ آن عزیز مظهر فیض الحسب جانی
 بودہ باشد انتہی الواجب قال العالم الفاضل مصنی غلام سرور لاہوری فی کتابہ گلستہ گرامت
 روایت ہو کہ جب پیغمبر بر حق شب سراج رونق اقولے زیر عرش برین ہوئے تو عرش کو
 ہنایت اونجا اور بلند دیکھک منتظر آمد او الہی ہوئے کہ اس آئین روج پر فتوح حضرت
 غوث الاعظم نے حاضر ہو کر گردن جھکائی اور عرض کی کہ سوار ہو جئے جناب رسالت تائی
 فرمایا کہ من انت عرض کی کہ انا ولدک عبدالقادر چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے براہ مہمت قدم شریف دوش مبارک آنحضرت پر رکھا اور فرمایا قدمی ہذا علی قبتک

وقدمك على رقاب جميع الاولياء الله تعالى اور نیز بعضے سادات صوفیہ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب غوث الاعظم نے لما شرف الله تعالى روعي في ليلة المعراج بروية جدي رسول الله وحبیب الله صلى الله عليه وسلم واطلعني على ما الهمة الله تعالى قال يا محمدا علمت من هذا الرجل فقال يا رب انت اعلم مني بذلك فقال سبحانه وتعالى شانہ هذا ولدك من نسل الحسن واسمه عبد القادر جعله محبوبی بعدك وسيكون شانہ بين الاولياء كشانك بين الانبياء فقال لي يا ولدي وقرة عيني قد طاب قلبی برويتك وطاب خاطرک برويتي انت محبوب لله ومحبوبي ووارثي من بعدي في مقام ولايتي ووضعت قدمي هذا على رقبته وقد ملك على رقاب جميع اولياء امتي اور کتاب لطائف لطيفه مين جو من تصنيف عمده خلفای خاندان غوثیہ خواجہ کمال الدین بن شیخ المشایخ خواجہ عبداللطيف بغدادی ہے لکھا ہے کہ معراج کی رات میں روح پر فتوح حضرت سلطان محبوبان شاہ مجذوبان غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بغلبہ شوق و مشاہدہ جمال باکمال خاتم المرسلین اپنے مقام سے کہ منہائے مقام اولیاء اللہ تھا انتقال فرما کر اور متحد بحسبہ لطيف ہو کر اور حصول ملازمت کیمیاء خالصت انحضرت معدن برکت کی بمقام معراج حاضر ہوئے اور قدم مبارک انحضرت کے دوش شریف پر اوٹھا کر بمقام عرش پھنچایا اور سوقت مائت غیب سے ندا ہوئی کہ یا محمد آپ کے قدم کے نیچے یہ روح کسکی ہے جواب دیا کہ نام نامی اسکا عالم الغیب جانتے ہیں مگر اتنا معلوم ہے کہ دل ہمارا براہ فرط محبت اس شخص کے ایسا لرغب ہے کہ دل سے پیار کرتے ہیں اور اس شخص کے سینہ بے کینہ سے ہلکے ہوئے بومبت کی آبی ہے ارشاد ہوا کہ یہ شخص فرزند ولید آپ کا ہے نسل امام حسن بن علی ابی طالب سے اور نام نامی ہے اسکا عبدالقادر رکھا اور کیا ہم نے اسکو ولی دنیا اور آخرت میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب الہی سنا کہ سیدہ شہداء اور کیا اور انجناب رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو ولدی قد طاب خلطری برويتك

وطاب خاطرک برویتی وانت محبوبہ اللہ و محبوبی و خلیفتی قدیمی ہذا علی و قببتک و
 قدماک علی ذات جمیع اولیاء اللہ تعالیٰ لا اعلم ای کہ از نور تو روشن شدہ انوار
 قدم بہ نام نامی توشہ و روز با نام ہر دم بہ مصطفیٰ پای مبارک ہند بردوشت پہ پس چرا
 تو نہ ہی برسہا باب قدم نہ اور کتاب حرز العاشقین میں شیخ الانام فیہ العصر و حید الدہر
 شیخ رشید بن محمد جنیدی رحمۃ اللہ علیہا نے تحریر فرمایا ہو کہ شب معراج واسطے سواری رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے براق برق رفتار حاضر ہوا تو وقت سواری براق نے قدرے تنزی
 کی تو جبریل علیہ السلام نے باوازین براق پر خطی کی اور فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ خاتم
 المرسلین امام النبیین شیخ المرسلین تجھے سوار ہوتے ہیں پس یہ وقت متع شکر ہے نہ تنزی کا
 باستماع اس بات کے براق زار زار رونے لگا اور عرض کی کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مجھہ ناکارہ براق پر سواری فرماتے ہیں اور روز قیامت مجھہ سے زیادہ حسن کے براق
 دروازہ جنت پر موجود ہونگے ایسا ہونگے اوسوقت آنحضرت سوائے میرے اور کسی براق خوبصورت
 کی طرف میل فرماویں تو اوسوقت مجھہ ہجو رمنموم کا کیا حال ہوگا آج کے روز مجھہ سے عہد واثق ہو
 کہ اوسکا ایفا بروز قیامت عمل میں آوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ فطعنایت
 ایک ضرب دست مبارک کی اوسکی گردن پر ماری اور فرمایا کہ یہ نشان ہمارے ہاتھ کا تیری گردن
 پر بروز قیامت مصورت آفتاب روشن ہوگا اور سواری ہماری تجھہ ہی پر ہوگی براق پر اشتیاق
 یہ دلجوئی آنحضرت کی سنکر ایسا پھولا کہ چالیس گز زیادہ قد سابق سی ہو گیا اوسوقت شہسوار میدان
 نبوت نے سبب بڑھ جانے براق کے سواری میں قدرے توقف فرمایا تو فوراً روح پر فتوح
 غوث الاعظم حاضر ہوا اور گردن جھکا کر عرض کی کہ یا سیدی صنع قدمک علی و قبعتی و اریک
 شعر سر بزیر قدمت می ہنم و سب نامزم ہا چشم بدوور کہ اشب شب معراج من است ہ شعر
 گر بر سر و چشم من نشینی ہا نازت بکشم کہ ناز فینی شعر من مؤلف آئے کیے گرم کئے
 قدم سر پر میرے ہا آپ کی خاک قدم سر سے میری آنکھ کا ہا چنانچہ حسب التہائے جناب محبوب الہی

حضرت رسالت پناہی و دوش پر آپ کے سوار ہوئے اور فرمایا یا ولدی قدیمی علی رقتک وقد ماک علی
رقاب حجج الودیاء اللہ تعالیٰ تنبیب پس واضح ضمیر محبت تجھ پر مردان جناب غوثیہ ہو کہ
احوال سواری انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدوش مبارک جناب غوثیہ شب معراج سنکر تعجب
نکرنا چاہے کیونکہ ایسے واقعات اور بھی شب معراج بہت وقوع میں آئے ہیں کہ جناب پیغمبر
علیہ الصلوٰۃ الملک الاکبر نے شب معراج بہشت میں حضرت بلال کو سیر کرتے ہوئے دیکھا اور
حضرت خواجه اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام مقعد صدق عند ملیک مقعدہ منجات راحت
پایا اور سہاۃ عمیصا بنت لیمان اور منکوحہ بیطلہ کو بہشت میں موجود پایا اور نیز روایت ہے کہ شب معراج
جناب سید المرسلین نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے اوسوقت فرمایا کہ کوئی شخص علمایان امت اپنی سوط طلب کیجے کہ اوسوقت وہ ہرے ایک دو سخن کرے
آنحضرت نے روح امام محمد غزالی کو کہ حاضر تھا حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر کیا اول فیما بین السلام علیک
ہوئی من بعد جناب موسیٰ نے امام صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ما اسمک امام صاحب نے جواب دیا کہ
محمد بن محمد الغزالی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہنئے فقط تمھارا نام پوچھا ہے تمھارے باپ کا نام استفسار
ہو گیا باپ کا نام کہنے سے کیا فائدہ تھا امام صاحب نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے آپ سے دریافت
فرمایا تھا کہ ما ملک بیہدینک یا موسیٰ اوسوقت آپ نے جواب دیا کہ ہی عصای اتوکو علیہا
واھش بہا علی اغنی ولی فیہا مارب اخروی اگر آپ فقط لفظ ہی عصای ہی فرمادیتے تو جواب
سوال کافی تھا اتنی تقریر زاد بلا دریافت الہی آپ نے کسو اسطے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
کہ ہرے از جناب الہی سوال ہوا تھا کہ ما ملک بیہدینک یا موسیٰ ہنئے یہ جاننا کہ یہ سوال جناب عالم شیب
والشہادۃ تہنیں ہو بلکہ بجزت استیناس دل ہمارے کے ہو میں باقتضای حال و مقام یہ کلمات کہنے
زیادہ بیان کی امام صاحب بولے کہ جب آپ نے محکو واسطے کلام کے طلب فرمایا تو میں نے بھی باطلہا
اپنے یہ کلام نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب امام صاحب کا شکر سکوت فرمائے اور لا جواب ہو گئے
جناب رسالت نے بشاہدہ اس دلیری اور جرات امام صاحب کی اپنے عصائے مبارک سے

اشارات خاصہ تھی کی کی کہتے ہیں کہ جب امام غزالی قدس اللہ سرہ العالی نے دنیا میں ظہور کیا وہ نشان
 عصائی آنحضرت کا جسم شریف امام صاحب پر نمایان تھا اور فرمایا قذوہ اولیائے دین رہبر دین
 متین شیخ نظام الدین گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شب معراج جب جناب پیغمبر خدا براق برق قفا
 پر سوار تھے اوسوقت غاشیہ مبارک جناب کا میرے دوش پر تھا اور میں بجا نب راست آنحضرت
 کی اردلی میں تھا غزل من مؤلف عطفی عنہ اید لکن ورد نام غوث اعظم وہم
 محی الدین گوجی دین مرآن ہر دم ہوا: بان نظام عشق مشوق الہی مست شوق: تا شود و روز ولادت در دو الم غم وہم
 گرتوئیہ غامبی گدی سرور ہر دو سرانہ: گردن خود پیش آن سرور اکبر خم وہم: سر مکہ در چشم خاکستان محی دین
 یلوکن از شوق دل با چشم پریم وہم: سرور از کتر دیدن جناب پاکتست: کن نظر بر حال او یا غوث اعظم وہم
الفصل العاشر فی بیان لقائہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم
 علی المنبر و هذا ایضا علی ثبوت النسب الشریف رضوان اللہ عنہما عی سیدنا الغوث رضی اللہ عنہ
 قال رأیت جدی صلی اللہ علیہ وسلم کما ورنہ فی کتب متعدده الاول قال العالم الشیخ
 عبدالقادر بن محی الدین الادیلی رحمہ اللہ فی کتابہ تفریح الخاطر المنقبۃ الخامسۃ و
 الاربعون فی لقائہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر قال فی جامع العلوم
 کان الغوث یوما جالساً علی المنبر للوعظ فنزل بسرعۃ الی المرقاة الاخیرۃ فوقف قائماً
 متواضعاً و اضعیاداً علی ایدہ ثم بعد ساعة رقی المنبر و جلس فی مکانہ و اشتغل
 بالوعظ فسأله بعض الحضار عن هذه کیفیۃ فقال رأیت جدی صلی اللہ علیہ
 وسلم جاء و جلس علی المنبر فنزلت تادبانی حضرتہ الی المرقاة الاخیرۃ فلما قام و اراح
 امرنی صلی اللہ علیہ وسلم بجلوسی فی مکانی بو عظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفق
 الثاني قال العالم شیخ محمد صادق شہابی سعدی قادری رحمہ اللہ فی کتابہ المناقب الغوثیہ
 المنقبۃ الثامنۃ و السبعون فی لقائہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر المامور و جامع العلوم
 و غیرہ کتب آورده اند کہ روزی حضرت غوثیہ مجتہد پرہیزگار شستہ ہووئے کہ بسرعت واضطراب از

درجات آن فرو آمدند وزیر زینہ پایہ آخرین منبر با دست بستہ با ادب ایستادہ شدند بعد ساعتی
 باز بر منبر نشستند و بدو عطا و تذکیر فرمودند مشغول شدند بعضی از حضار مجلس التماس کردند کہ
 این چه سبب بود فرمودند کہ جناب عالی جدی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم باید ندید و بر منبر
 نشستند ہر چند کہ مراتب شستن اور فرمودند لیکن بحسب آداب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیر
 زینہ آخر ایستادہ شدم چون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روان شدند مرا خصت فرمودند کہ برو
 بر منبر نشین و دو عطا ناگاہ گشتہ استہی۔ ترجمہ عبارت تفسیر سچ الخاطر و مناقب غوثیہ کا یہ ہے
 ناقل ہن کتاب جامع العلوم سے کہ ایک روز بیٹھے تھے حضرت غوث شیخ سید عید القادور
 جیلانی رضی اللہ عنہ منبر پر واسطے و عطا و نالے کے جلدیسی اترے زینہ منبر سے پیچھے کے زینہ
 ناک اور کھڑے ہوئے تا تھکے ہا نہ حکر آداب اور عاجزی سے ایک ساعت بعد منبر پر تشریف
 فرما ہوئے اور دو عطا اور ذکر میں مشغول ہوئے پیچھے بعض حاضرین مجلس نے سوال کیا کہ
 کیا سبب تھا کہ آپ منبر سے پیچھے اترے اور کھڑے رہے اور پھر منبر پر بیٹھے فرمایا حضرت
 غوث رضی اللہ عنہ نے کہ جناب عالی جد میرے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
 ہوئے آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے اتر بیٹھے کے زینہ پر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ہر چند اتر کیا کہ منبر پر بیٹھیں لیکن ادب کے سبب نہ بیٹھا میں اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف لگے میرے کو رخصت کیا اور فرمایا منبر پر بیٹھیے اور دو عطا بیان فرمادے تب میں منبر پر بیٹھا ہی
الفصل الحادی عشر فی بیان الشیخ علی بن ہشمتی قدس اللہ

سورہ روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام و مرآت الغوث رضی اللہ عنہ فی التیظہ
 کما ورد فی کتب متعددہ برواۃ الثقات الاول قال للعالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف
 بن جریر اللخمی الشطونی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فی کتابہ بھجۃ الاسرار و معدن
 الانوار اخبرنا الشیخ الشریف الجلیل ابوالعباس احمد بن الشیخ ابی عبد اللہ محمد بن ابی
 الغناّم محمد الازہری بن ابی الفاخر محمد المختاری المحسینی البغدادی بالقاہرۃ سنۃ

ثلاث وسبعين وستماية قال اخبرنا ابي بدشق سنة تسع وعشرين ستمائة قال حضرت
 مجلس شيخنا الشيخ السيد محي الدين عبدالقادر الجبيلي رضى الله عنه في سنة خمس و
 ستمائة وكان في المجلس يومئذ نحو عشرة آلاف رجل وكان الشيخ على بن الهيئ رضى الله
 تجاه الشيخ تحت دكة المقرئ فاخذته سنة فقال الشيخ للناس اسكتوا منكموا حتى يقول
 القائل انه لا يسمع منهم الا انفا سمهم ثم نزل على الكرسي ووقف بين يدي الشيخ متأدبا
 وجعل يحديق اليه ثم استيقظ الشيخ على بن الهيئ فقال له الشيخ ارايت النبي صلى الله
 عليه وسلم في المنام فقال نعم قال من اجله ناديت قال فما واصلك قال بما لازمتهك قال
 فسئل الشيخ على عن معنى الشيخ من اجله ناديت قال الذي رايت في المنام راه هو
 في اليقظة انتهى والثاني قال العالم المحدث الشيخ عبدالحق الدهلوي رحمة الله عليه
 في كتابه زبدة الاسرار واخبر الشيخ الجليل الشريف ابو العباس احمد بن الشيخ عبد الله
 الازهرى الحسيني قال حضرت مجلس شيخنا الشيخ السيد محي الدين عبدالقادر الجبيلي
 رضى الله عنه وكان في المجلس نحو من عشرة آلاف رجل وكان الشيخ على بن الهيئ
 رضى الله عنها جالسا تجاه الشيخ تحت دكة المقرئ فاخذته سنة فقال الشيخ للناس اسكتوا
 فسكتوا حتى يقول القائل انهم لا يسمع الا انفا سمهم ثم نزل من الكرسي ووقف بين يدي
 الشيخ على متأدبا وجعل يحديق اليه ثم استيقظ الشيخ على فقال له ارايت النبي صلى الله
 عليه وسلم في المنام قال نعم قال من اجله ناديت فيما اصحاك قال بما لازمتهك قال الشيخ
 على للناس الذي رايت في المنام راه الشيخ في اليقظة رضى الله عنه انتهى الثالث
 قال العالم العلامة مولينا على القاري رحمه الله البارى في كتابه نزهة الخاطر
 الفاتر ومنها ما رواه الشريف ابو عبد الله الحسيني البغدادي رحمه الله تعالى قال
 حضرت مجلس شيخنا السيد الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه وكان في المجلس يومئذ
 نحو من عشرة آلاف رجل وكان الشيخ على بن الهيئ حال تجاه الشيخ بجانب دكة المقرئ

ناخذته سنة من النوم فقال سيدنا الشيخ رضي الله عنه للناس اسكتوا اسكتوا حتى
 يقول القائل انهم لا يسمع منهم الا انفسهم ثم نزل من اعلى الكرسي ووقف بين يديه
 مناديا وجعل يحدق اليه ثم استيقظ الشيخ علي بن الصيغتي فقال له ارايت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم في المنام قال نعم من اجله تادبت فيما اوصاك قال بما لازمك
 قال فسئل الشيخ علي بن الصيغتي عن معنى قول سيدنا الشيخ تادبت قال الذي رأيت
 في المنام راه في اليقظة رضي الله عنه انتهى الرابع قال الامام البيهقي رحمه الله الشافعي
 رحمه الله تعالى في كتابه خلاصة المفارح حكایت صد و ستمتاد و چهارم نقلت از شيخ شريف
 ابو عبد الله محمد بن ابوالقاسم ازهر بن ابوالفاجر حسيني بغدادی رحمه الله عليه كه گفت وقتي
 حاضر شدم در مجلس شيخ محي الدين سيد عبدالقادر رضي الله عنه در تاريخ سنة خمس و خمسمائة
 و سوازنده هزار مردان روز در مجلس شيخ حاضر بودند و شيخ علي بن عتيبي رضي الله عنه مقابل
 شيخ نشسته بود كه مقرران ناگاه نگاه نماين بر و غلبه كرد و شيخ فرمود خاموش باشيد همه خاموش
 شدند چنانكه همين آريشان بر مي آيد و جنبين اصلا در بيان نبودن شيخ از بالاي منبر فرود
 آمد و پيش شيخ علي بن عتيبي با داب تمام بايستاد و بسوي او ميديد تا آنكه او بيدار شد شيخ او را
 گفت تو بديغا مبر اصلي الله عليه وسلم در خواب و يدي گفت آري بچو وصيت كرد گفت بجا زمت
 تو پس فرمود من اجله تادبت از معني اين سخن شيخ علي بن عتيبي را پرسيدند گفت آنچه
 من در خواب و يديم او در بيداري مشاهده كرد راوي ميگويد آرزو زلفت نقران حاضر از مجلس
 وفات يا فتنه بعضي در مجلس و بعضي در خانه رفته و بعضي همدان روز انتهى الخامس
 قال العالم العلامة محمد غوث الناطب بشرف الملك رحمه الله تعالى في كتابه انوار الفاخر
 المشتهر الثالث في مجرى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه رضي الله عنه مروى است از شيخ
 ابى العباس احمد بن شيخ ابى عبد الله محمد بن ابى القاسم محمد ازهر بن ابى الفاجر محمد بن حنين
 بغدادى كه خبر داد او را پدر من كه روزي در مجلس شيخ محي الدين سيد عبدالقادر رضي الله عنه

حاضر شدم و آن روز در آنجا قریب بیست هزار مرد حاضر بودند و شیخ علی بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ
 مقابل وی رضی اللہ عنہ زیر درجہ مقری نشسته بود پس بر شیخ علی بن مہدی غنودن غالب آمد
 وی رضی اللہ عنہ مردم را فرمود که سکوت کنید همه خاموش شدند تا که شنیدہ نمی شد و آہنما
 جز انفاش وی رضی اللہ عنہ از کرسی فرود آمدہ رو بروی شیخ علی بن مہدی با ادب ایستاد و
 تیز تر دوری میدید پس شیخ علی بن مہدی بیدار شد پس وی رضی اللہ عنہ او را فرمود کہ چنانچه
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم را دیدی گفت آری فرمود برای همین ادب کردم پس گفت ترا چه وصیت فرمود
 شیخ علی بن مہدی گفت کہ وصیت کردہ التزام صحبت تو مردم از شیخ علی بن مہدی پرسیدند کہ مراد
 از قول وی رضی اللہ عنہ کہ برای همین ادب کردم چیست گفت آنچه کہ من در خواب دیدم او رضی اللہ
 عنہ در بیداری دید میگویند کہ آن روز ہفت کس از حاضران مجلس مردند بعضی ہانجا و بعضی راہبوش
 ہمانہ اوردا شتہ بر روند ہمان روز جان دوزنہ تہی السادس قال العالم الشیخ محمد صادق لطیفی
 فی کتابہ خوارق صادقہ با بدو الشیخ کہ حضرت شیخ علی بن مہدی بر قلب جبریل بود کہ ہم بدان
 سبب در حضرت محبوب جانی ہموارہ مصاحب بتقبیل بود چنانچہ نقل است در تکلمہ شریف کروری
 شیخ علی بن مہدی کہ مقابل محبوب حضرت رب العزت نشسته بود حضرت محبوب جانی بالای سہر
 و عظامی فرمودند گاہ شیخ علی مذکور را انعام غلبہ کرد حضرت شیخ سید محی الدین محبوب رب العالمین
 حضور مجلس را بسکوت امر فرمود و خود از بالای سہر فرود آمد پس شیخ رضی اللہ عنہ با ادب تمام ایستاد
 و میدید تا کہ او بیدار شد پس او را گفت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را در خواب دیدی شیخ علی گفت
 آری باز فرمود کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ وصیت کرد گفت بلا زمت تو ای محبوب جانی چون
 بعضی مردم از شیخ علی پرسیدند گفت آنچه کہ من در خواب دیدم او در بیداری می بیند انتہی السایع
 قال سلطان وارا شکوہ فی کتاب سفینۃ الاولیاء میگویند روزی غوث اعظم رضی اللہ عنہ و عظامی فرمودند
 و شیخ علی بن مہدی رحمۃ اللہ در برابر آنحضرت قدس سرہ نشسته بودند شیخ علی را خواب گرفت غوث
 اعظم رضی اللہ عنہ اہل مجلس را گفتند خاموش باشید از سہر فرود آمدہ در پیش شیخ با ادب ایستادند

و بجانب وی نگریتند چون شیخ علی بیدار شد آنحضرت رضی اللہ عنہ گفتند کہ رسول صلی اللہ علیہ
وسلم را در خواب دیدی گفت آری غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمودند من برای او باب استادہ
بودم بچہ وصیت کرد و ترا گفت بلامرت تو بعد از ان از شیخ علی پرسیدند از معنی آنچه غوث اعظم
رضی اللہ عنہ فرمودند کہ من از برای آن باب استادہ بودم شیخ علی گفت آنچه من خواب دیدم
آنحضرت رضی اللہ عنہ بہ بیداری میدیدانتمی ترجمہ عبارات کتابین عربی و فارسی کا یہ ہے کہ
اول کہا شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
ہجۃ الاسرار میں دو سہر کہا عالم علامہ جبر فنا سہ مولینا علی القاری رحمۃ اللہ الباری نے اپنی کتاب
ترتیبہ النماط المغاثرین میں تیسرا کہا عالم محقق مدق محدث شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
کتاب زبدۃ الاسرار میں چوتھا کہا عالم فاضل امام عبداللہ ریاضی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
شکلہ خلاصۃ المغاثرین میں پانچواں کہا عالم علامہ محمد غوث اللغاتب بشفرف الملک رحمۃ اللہ نے اپنی
کتاب انہار المغاثرین میں چھٹا کہا عالم فاضل شیخ محمد صادق لطیفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
خوارق صادقہ میں ساتواں کہا سلطان داراشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں سات صاحب
کتابوں کے مصنف با اتفاق روایت بیان کرتے ہیں کہ کہا شیخ علی بن ہبیتی قدس سرہ نے کہ
ایک روز مجلس حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ منبر پر وعظ فرماتے تھے نقل کرتا
ہو شیخ شریف ابو عبداللہ محمد بن ابوالفنائم ازہرن ابوالمغافر حسینی بغدادی بیان کرتا ہے کہ غرض
پانچ سو پانچ میں کہ تمہارے اوس ہزار آدمی کی اوس روز مجلس وعظ شیخ سید عبدالقادر جیلانی
میں رضی اللہ عنہ کے بیٹھے تھے شیخ علی بن ہبیتی رو بروئے حضرت ہا راست کے بیٹھے تھے کہ ناگاہ
شیخ علی قدس سرہ کو فیند آگئی خواب میں تھا حضرت شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
سب خاموش ہو جاؤ سب خاموش ہو گئے حضرت غوث رضی اللہ عنہ منبر سے بیچے اوترے اور
شیخ علی بن ہبیتی کے پاس اوب سے کھڑے ہوئے اوسکے طرف دیکھتے تھے تاکہ شیخ علی بن ہبیتی
قدس سرہ خواب سے بیدار ہوئے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیخ علی کو کہ تھے خواب میں

ویکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا فرمایا تمکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیخ علی
 نے بلا زرت خدمت آپ کی شیخ علی قدس سرہ سے استفسار کیا حاضرین سے شیخ علی نے کہا کہ میں نے دیکھا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا و جناب حضرت شیخ سید رضی اللہ عنہ مشرف ہوتے
 بیداری میں اور وصیت فرمائی میرے کو بلا زرت خدمت حضرت شیخ رضی اللہ عنہ اتنی **الفصل**
الثانی عشر فی بیان الشیخ بقابن بطور حمة اللہ علیہ
 قال حضرت فی مجلس الشیخ سیدنا الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ ویرایت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب الکبار الاربعة رضی اللہ عنہم فی الیقظة
 فی مجلس الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب المعربات الثقات
 فانظر ہاخی والصنف الاول قال العالم العلامة المحقق المدقق المولینا الملا علی
 القاری رحمہ اللہ الباری فی کتابہ نزہة الخاطر عن السید الکبیر الرفیع المرتقی
 العارف المعروف بالشیخ بقا قدس سرہ قال حضرت مجلس سیدنا السید الشیخ محی الدین
 عبدالقادر رضی اللہ عنہ فبینما ہو یتکلم علی المرقاة الاولى من الكرسي اذ قطع کلامہ
 ساعة ونزل الی الارض ثم صعد الكرسي وجلس علی المرقاة الثانية فاشهدت
 ان المرقاة الاولى قد التسعت حتی صارت مادی البصر و فرشت من السندس
 الاخضر وجلس علیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وابوبکر وعمر وعثمان
 وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وتجلی الحق سبحانه وتعالیٰ علی قلب سیدنا
 السید الشیخ عبدالقادر فقال حتی کاد یقطع فامسکہ علیہ السلام لئلا یقع ثم
 تضال الی ان تصاعر حتی صار کالعصفور ثم ناحی علی صورة ہائلۃ ثم توارى
 عنہ قال الراوی فسئل الشیخ بقا عن رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ
 الکرام رضی اللہ عنہم قال ارواحہم تشکلت وان اللہ تعالیٰ ایدہم بقوة ینظرون
 بہا فیراہم من قوۃ اللہ تعالیٰ لرؤیتہم فی صورة الاجساد وصفات الاعیان

زین العابدین

اللہ الباق

بقرۃ السمر

نبیۃ الابرار

ابن اللہ

خوارق عادی

غیبتہ الاولیاء

بدليل حديث المعراج وسئل عن تضال سيدنا الشيخ عبدالقادر في غموه فقال
 كان التجلي الاول بصفة لا يثبت لبدنها بشرا لا بتأييد نبوي فلذا كاد الشيخ ان يسقط
 لولا تداركه عليه السلام وكان التجلي الثاني بصفة الجلال من حيث موصوفه فلذا
 تضال الشيخ وكان التجلي الثالث بصفة الجمال من حيث مشاهدته فلذا انتمش
 وغاوزه فضل الله يوتيئه من يشاء وانتهى الثاني قال العالم الشيخ المحرث عبدالحق
 الدهلوي رحمة الله عليه في كتابه زبدة الاسرار واخبر الشيخ القدوة بقابن بطون
 رضى الله عنه يقول حضرت مجلس الشيخ السيد عبدالقادر ورضي الله عنه مرة
 فبينما هو يتكلم على المرقاة الاولى من الكرسي اذ قطع كلامه وسعى ساعة ونزل الى الارض
 ثم صعد الكرسي وجلس على المرقاة الثانية فاشهدت ان مرقاة الاولى قد اتسعت
 حتى صارت مد البصر وفرشت من السندس الاخضر وجلس عليها رسول الله
 صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم لثلاث ايقاع ثم تضال حتى صار كما
 لعصفور ثم غاحه صار على صورة هائلة ثم توارى عني هذا كله فسئل الشيخ
 بقاء عن روية صلى الله عليه وسلم واصحابه قال ارواحهم تشكلت وان الله تعالى
 ايدى بهم يظهر ونها انتهى الثالث قال العالم العلامة الشيخ نور الدين ابي الحسن
 على بن جبر اللخمي الشطوني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه بيجة الاسرار ومعدن الاقضية
 قال اخبرنا الشيخ الصالح بقرية السلف ابو العباس احمد بن يوسف بن علي اللخمي النخعي ملكي
 قال سمعت الشيخ بقابن بطون رضى الله عنه يقول حضرت مجلس السيد الشيخ عبدالقادر
 رضى الله عنه فبينما هو يتكلم على المرقاة الثانية فاشهدت ان المرقاة الاولى قد اتسعت
 حتى صارت مد البصر وفرشت من السندس الاخضر وجلس عليها رسول الله صلى الله
 عليه وسلم وابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم وتجلي الحق سبحانه على قلب
 الشيخ السيد عبدالقادر فما زال حتى كاد يسقط فامسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم

لثلايقع ثم تضال حتى صار كالعصفور واصحابه رضى الله عنهم فقال ارواحهم
 تشكلت وان الله تعالى ايدهم بقوة يظهرن بها فيراهم الله تعالى لرؤيتهم في رؤيته
 الاجساد وصفات الاعيان بدليل حديث المعراج وسئل عن تضال الشيخ السيد
 عبدالقادر ونموه فكان التجلي الاول بصفة لا يثبت لبدوها بشر الا بتأييد نبوي
 صلى الله عليه وسلم فلذلك كاد الشيخ يسقط لولا تداركه رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وكان التجلي الثاني بصفة الجلال من حيث موصوفه فلذلك تضال وكان
 تجلي الثالث بصفة الجمال من حيث المشاهدة فلذلك انتعش وما ذلك فضل الله
 يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى الراجع قال العالم المتبحر الشيخ محمد
 بن يحيى التاد في الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قلائد الجواهر وقال الشيخ بقاين
 بطور حرمهم الله تعالى حضرت مجلس سيدنا الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه مرة
 فبينما هو يتكلم على المرقاة الاولى من الكرسي اذ قطع كلامه وسها ساعة ونزل الى
 الارض ثم صعد الكرسي وجلس على المرقاة الثانية فاشهدت المرات الاولى
 فلما تسعت حتى صارت مدا البصر وفريشت من السندس الاخضر وجلس عليه رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم اجمعين
 وتجلي الحق سبحانه على قلب الشيخ السيد عبدالقادر فقال حتى كاد ان يسقط فاستمسكه
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلايقع ثم تصاع حتى صار كالعصفور ثم نما حتى
 صار على صورة هائلة ثم توارى عني فسئل الشيخ بقاين عن رؤية رسول الله صلى الله
 عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم فقال ارواحهم تشكلت وان الله تعالى ايدهم
 بقوة ينظرون بها فيراهم من قواه الله تعالى لرؤيتهم في صورة الاجساد وصفات
 الاعيان بدليل حديث المعراج وسئل عن تصاع الشيخ السيد عبدالقادر رضى الله
 عنه ونموه فقال كان التجلي الاول بصفة لا يثبت لبدوها بشر الا بتأييد نبوي صلى الله

علیه وسلم فلذلك كاد الشيخ يسقط لو لا تداركه رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كان التجلي الثاني لصفة الجلال من حيث موصوفه فلذلك تضاعف وكان التجلي
 الثالث بصفة الجمال حيث شاهده فلذلك انعكس وبما ذلك فضل الله يؤتیه
 من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى الخامس قال العالم المحقق المدفون محمد
 غوث المخاطب بشرف الملك رحمه الله تعالى في كتابه انوار المعارف مروی است از
 شیخ الی الحسن علی از و در که خبر او را شیخ ابو العباس احمد بن یوسف بن علی نجفی نهر علی که
 شنیدم شیخ بقاین بطور نهر علی را رحمة الله علیه میگفت که روزی حاضر شدم در مجلس شیخ محی الدین
 سید عبدالقادر رضی الله عنه و وی رضی الله عنه بر اول درجه کرسی سخن می فرمود ناگاه سخن را موقوف
 کرده ساعتی خاموش ماندند و از کرسی فرود آمدند و باز بر کرسی برآمده بر وجه دویم نشسته پس مشاهد
 کردم که درجه اول کرسی تا مدنگاه فراخ شده و سندان سبزرآن گسترده و بر آن رسول خدا صلی الله
 علیه وسلم و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی مرتضی رضی الله عنهم نشسته اند و
 حق سبحانه و تعالی تجلی کرد بر اول شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه پس او رضی الله عنه
 مائل شد و قریب گردید که بافتد پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را برگرفت تا اینکه پیش ترجم و
 رضی الله عنه کاهیدن گرفت تا که مثل گنجشکی شد پستری بالیدن گرفت بر صورت مهیب پستری آن حال
 در نظرم متنواری یعنی غاب کرد و در وی میگوید که از شیخ بقاین بطور کیفیت رویت رسول خدا
 صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرام رضی الله عنهم پرسیدند گفت که ارواح آنها متشکل گشتند و
 حق تعالی آنها را تأیید کرد بقوتیکه ظاهر شوند با جساد تا ببینند آنها را کیسکه او را خداست تعالی قوت داده
 است بر رویت آنها در صورت اجساد و صفات اعیان بدلیل حدیث معراج و پرسیده شد از سبب
 کاهیدن چه وی رضی الله عنه و بالیدن آن پس گفت که بود تجلی او اول البصیقه بشرط اوقات آن نداد
 و بی تأیید نبوی صلی الله علیه وسلم و ازینجا است که وی رضی الله عنه قریب شد که بقیقه و بود تجلی دویم
 بصفته جلال و لهذا چشم وی رضی الله عنه کاهیدن گرفت و بود تجلی سیوم بصفته جمال و ازین

در کتاب انوار المعارف مروی است از شیخ الی الحسن علی از و در که خبر او را شیخ ابو العباس احمد بن یوسف بن علی نجفی نهر علی که شنیدم شیخ بقاین بطور نهر علی را رحمة الله علیه میگفت که روزی حاضر شدم در مجلس شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه و وی رضی الله عنه بر اول درجه کرسی سخن می فرمود ناگاه سخن را موقوف کرده ساعتی خاموش ماندند و از کرسی فرود آمدند و باز بر کرسی برآمده بر وجه دویم نشسته پس مشاهد کردم که درجه اول کرسی تا مدنگاه فراخ شده و سندان سبزرآن گسترده و بر آن رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی مرتضی رضی الله عنهم نشسته اند و حق سبحانه و تعالی تجلی کرد بر اول شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه پس او رضی الله عنه مائل شد و قریب گردید که بافتد پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را برگرفت تا اینکه پیش ترجم و رضی الله عنه کاهیدن گرفت تا که مثل گنجشکی شد پستری بالیدن گرفت بر صورت مهیب پستری آن حال در نظرم متنواری یعنی غاب کرد و در وی میگوید که از شیخ بقاین بطور کیفیت رویت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرام رضی الله عنهم پرسیدند گفت که ارواح آنها متشکل گشتند و حق تعالی آنها را تأیید کرد بقوتیکه ظاهر شوند با جساد تا ببینند آنها را کیسکه او را خداست تعالی قوت داده است بر رویت آنها در صورت اجساد و صفات اعیان بدلیل حدیث معراج و پرسیده شد از سبب کاهیدن چه وی رضی الله عنه و بالیدن آن پس گفت که بود تجلی او اول البصیقه بشرط اوقات آن نداد و بی تأیید نبوی صلی الله علیه وسلم و ازینجا است که وی رضی الله عنه قریب شد که بقیقه و بود تجلی دویم بصفته جلال و لهذا چشم وی رضی الله عنه کاهیدن گرفت و بود تجلی سیوم بصفته جمال و ازین

در کتاب انوار المعارف مروی است از شیخ الی الحسن علی از و در که خبر او را شیخ ابو العباس احمد بن یوسف بن علی نجفی نهر علی که شنیدم شیخ بقاین بطور نهر علی را رحمة الله علیه میگفت که روزی حاضر شدم در مجلس شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه و وی رضی الله عنه بر اول درجه کرسی سخن می فرمود ناگاه سخن را موقوف کرده ساعتی خاموش ماندند و از کرسی فرود آمدند و باز بر کرسی برآمده بر وجه دویم نشسته پس مشاهد کردم که درجه اول کرسی تا مدنگاه فراخ شده و سندان سبزرآن گسترده و بر آن رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی مرتضی رضی الله عنهم نشسته اند و حق سبحانه و تعالی تجلی کرد بر اول شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه پس او رضی الله عنه مائل شد و قریب گردید که بافتد پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را برگرفت تا اینکه پیش ترجم و رضی الله عنه کاهیدن گرفت تا که مثل گنجشکی شد پستری بالیدن گرفت بر صورت مهیب پستری آن حال در نظرم متنواری یعنی غاب کرد و در وی میگوید که از شیخ بقاین بطور کیفیت رویت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرام رضی الله عنهم پرسیدند گفت که ارواح آنها متشکل گشتند و حق تعالی آنها را تأیید کرد بقوتیکه ظاهر شوند با جساد تا ببینند آنها را کیسکه او را خداست تعالی قوت داده است بر رویت آنها در صورت اجساد و صفات اعیان بدلیل حدیث معراج و پرسیده شد از سبب کاهیدن چه وی رضی الله عنه و بالیدن آن پس گفت که بود تجلی او اول البصیقه بشرط اوقات آن نداد و بی تأیید نبوی صلی الله علیه وسلم و ازینجا است که وی رضی الله عنه قریب شد که بقیقه و بود تجلی دویم بصفته جلال و لهذا چشم وی رضی الله عنه کاهیدن گرفت و بود تجلی سیوم بصفته جمال و ازین

سبب جسد وی رضی اللہ عنہ بالیدن گرفت ذلك فضل الله يؤتیه من یشاء والله ذو الفضل
العظیم انتهى - السادس قال الامام عبد الله الیافعی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ خلاصۃ الفایض
وہی بالفارسیۃ و ہذا عبارتہ حکایت صد و چہیل و دو ویم نقل است از شیخ بقارحۃ اللہ علیہ کہ گفت
و قتیکہ من در مجلس شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ حاضر بودہ ام ناگاہ دیدم شیخ قطع کلام
کرد و از منہر بر زمین فرود آمد و باز بر منہر رفت و بروم ز زبان نشست دیدم کہ بالای منہر بغایت
متسع و فراخ گشت تا آنجا کہ نظر کار کند و بران سندس اخضر گسترند و بران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
دیدم نشسته و ابو بکر و عمر و عثمان و علی را رضوان اللہ علیہم دیدم کہ حق سبحانہ و تعالی بر دل شیخ
محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ تجلی کرد و شیخ طاقت نیار و درخواست بیفتد فاما کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بعد از ان دیدم کہ شیخ خور و میگشت تا آنکہ ہمچو عصفور بعد از ان دیدم کہ
بیایو دختی صرا علی صورتہ مالکہ بعد از ان این ہمہ از من متواری شد راوی میگوید از روایت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب شیخ بقارحۃ رسیدند فرمود ارواح ایشان متشکل شدہ بود و حق
تعالی مؤید گردانیدہ است ایشان را بقوتی کہ بدان ظاہر شوند و نمودار کنند مثل نمودار صورت
اجساد و صفات اعیان بدلیل حدیث معراج و شیخ بقارحۃ از سقوط و اتصال شیخ و نمودن باز پرسیدہ
فرمود تجلی اول بصفیقہ بشر ظہور از اطاعت نیار و مگر بتایید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم از بہر آن
شیخ خواست کہ بیفتد فندار کہ صلی اللہ علیہ وسلم و تجلی ثانی بصفیت جلال بود و آن گذرانندہ است
ہم از بہر این شیخ خور و عصفور گشت و تجلی ثالث بصفیت جمال بود و آن پرورندہ است ہم از بہر این
صرا کہ صورتہ مالکہ و ذلك فضل الله يؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم انتهى
السابع قال العالم مفتی غلام سرور رحمہ اللہ لاہوری فی کتابہ گلہ ستہ کراست و ہی بالہندریۃ
سابق ہفتاد و ہفتم در بیان تشریف فرما ہونے در روح پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم و ہر
چہا را اصحاب کبار کا بمحصل انحضرت معدن برکت رضی اللہ عنہ کے مقبول جناب کبریا پر شیخ بقارحۃ
قدس سرہ الاعلی کہ ہم عصر سید الاولیا و پیشوای اقیانوس الارض و السماء محبوب خداتھے و طاقۃ

مین کہ ایک روز ہم بہ محفل بلند منزل محبوب سبحانی قطب ربانی حاضر تھے و آنحضرت منبر مبارک پر اجلاس فرما کر وعظ فرماتے تھے کہ یکجا ایک آنجناب وعظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے اور اس صورت سے اٹھے کہ جیسے کوئی کسی کی تعظیم کے واسطے اٹھتا ہے اور وہ پایہ منبر بلند پایہ کے نیچے اگر پایہ سیوم پر بیٹھ گئے پس دیکھائیے پایہ منبر کو کہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اوپر فرش سبز بچھایا گیا ہے اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مع ہر چہار اصحاب کبار و مان رونق افزوڑ ہوئے اور اس وقت انوار تجلیات انبی دل محبوب سبحانی پر اس قدر روشن تھے کہ قریب تھا کہ آنحضرت پایہ منبر سے نیچے گر پڑیں مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات اصحاب عالیجناب نے دستہای شفیقت سے آپ کو تھامے ہوئے تھاجب ارواح پاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب معلی القاب تشریف فرما ہوئے تو اجباب فلک رکاب نے حضرت غوثیہ سے استفسار حال ماوقع کیا تو آپ نے زبان حق ترجمان سے کل حقیقت بیان فرمائی اور میری طرف مخاطب ہوئے کہ یا شیخ بقا جو کچھ حال تھے بچشم حال دیکھا ہے ہمارے اجباب کو اس سے مطلع کرو چنانچہ ہم نے کل کیفیت اپنی زبان

شہ زمین و زمان شد گدای محی الدین
زبان خامہ قلم پیشو و ز اوصافش
سوائی حب خدا پاک شد ز حرص و ہوا
حکومت و وجہان شاہی زمین و زمان
بکشور دل و دین سرور و راشوی سرور

عجزیان سے بیان کی۔ عسرل از مؤلف
عنی بہت درد و وجہان بیوای محی الدین
رقم کجا شود و از وی ثنائے محی الدین
ہر آنکہ دردش آمد ہوائی محی الدین
ولایت دل و جان شد بھائی محی الدین

النبی تو سر خود بیائے محی الدین۔ اہتی الفضل الثالث عشر
فی بیان اعطاء النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
وقال لی یاعبدالقادودھو فی الموائع اتقی البسنى الخفة القطیبة برواة الاول قال
العالم العلامة المحقق المدقق الشیخ محمد بن یحیی التاد فی العنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ
فی کتابہ قلائد الجواہر قال سیدنا الشیخ عبدالقادور رضی اللہ عنہ مرات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببغداد وانا علی الكرسي وهو صلی اللہ علیہ وسلم
 راكب وموسى عليه السلام الى جانبه فقال يا موسى انى امتك رجل هكذا قال لا
 فقال لي يا عبد القادر وهو في الهوا فغانقى والبنبي خلعة كانت عليه وقال
 هذه خلعة القطبية على الرجال والابدال ثم قفل في فحى ثلاثا ووردني الى المنبر
 فترنمت هذه الابيات - ابيات - سائمه بها في كل دير وبيعة به وظهر
 للعشاق ديني ومذهبي به واضرب فوق السطح بالدف جلوة بل كاساتها لاني
 الزوايات محبتي به انتهى - الثاني قال العالم الشيخ محمد صادق شهبانى سعدى قادري
 في كتابه المناقب الغوثية المنقبة الثامنة والخمسون في اعطاء النبي عليه الصلوة والسلام اياه
 خلعة الغوثية وكتاب تلخيص جواهر القلماة اوروه كه فرمودند حضرت غوثيه محبوبه رضى الله بوم
 من در بغداد بر كرسي كه ويدم حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم را پس جدى فرمودند كه يا
 موسى در است تو مثل سيد عبد القادر هست گفت لا يعنى نيت ما نديشان پس فرمودند
 بيا يا ولدى سوي من من رفتم آنحضرت صلى الله عليه وسلم را در كنار گرفتند و خلعت متبرك كه بر
 پيشه بلكه خود پوشيدند مرا پو شانه نم و فرمودند به من خلعة الغوثية على الاقطاب والابدال والواتاد
 و سه نوبت آب و دهن مبارك خود و دهن من انداختند و بارگذاشتند بر منبر صلى الله عليه وسلم
 بعد از ان حضرت رضى الله عنه باين ابيات ترنم نمودند - سائمه بها في كل دير وبيعة به
 و اظهر للعشاق ديني ومذهبي به واضرب فوق السطح بالدف جلوة بل كاساتها
 لاني الزوايات محبتي - يعنى مى نوشتم آن شراب محبت را در سينه و بتجان كه هر يك عبارت از
 مقامات سلوك است و ظاهر ميكنم مرعاشقا را دين خود و مذهب خود و ميزنم بالاي بام دف را
 براى ظهور پيا ليهاي آن شراب نيت مرا در كو شهبانى عالم محبتي انهي - والثالث قال فى
 سلطان الاذكار فى مناقب غوث الابرار رضى الله عنه بلسان الهندية و هذا عبارته روايت تلخيص
 مين شيخ ابو زكريا قدس سره سے مذکور ہے کہ فرمایا غوث رضى الله عنه نے مشب کو دیکھا میں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر سوار مہر سے مکان پر تشریف لائے اور شب بزم ہو کر مجھے فرمایا کہ اے نور العین! اور
 آج بین کہپ کے پاس گیا نہایت محبت سے ہاتھ میرا لگا کر تخت پر بٹھلایا اور فرط شفقت سے میری
 پیشانی پر بوسہ دیا اور پیرا ہن مبارک جو پہنے تھے اوستے اوتار کر مجھے پہنایا اور فرمایا ہذا خلعة العنوبیۃ علی الاقطاب
 والابدال والادواء اور بعد عطائے خلعت غوثیت تمکو رخصت فرمایا اور تشریف لگئے الوابع قال العالم مفتی
 غلام سرور رحمۃ اللہ فی کتابہ گلدستہ کرامت در بیان تشریف لانے روح پاک جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ
 الملك الوہاب و موسی علیہ السلام کے اور عنایت کرنا جیہ مبارک اپنا بطور خلعت محبوب جانی قدس
 سرہ السامی کو کتاب تمیص القلادین لکھا ہے کہ فرمایا جناب غوث الثقلین سے یہ کہ میں نور العین حسین
 محبوب جانی قدس اللہ سرہ السامی نے کہ ایک روز ہم بمقام مدرسہ معلی بہ اجلاس منبر و عطا فرمایا
 تھے کہ ناگاہ ایک تخت ملائک کے کن صحن پر زیر آسمان اورتا ہوا نظر آیا اور اس تخت پر جناب پنہیر
 علیہ الصلوٰۃ الملك الاکبر اور پہلوئے مبارک آنحضرت میں جناب موسی علیہ السلام رونق افروز تھے
 جب وہ تخت مقابل ہمارے آپہنچا تو نظر فیض اثر جناب پنہیر کے متوجہ بجانب اینجاب ہوئے
 تو موسی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا اخی آپ کے است میں کوئی ایسا ولی ہے جیسے کہ ہاکی
 است عالی و رحمت میں محبوب جانی بیخ سید عبدالقادر جیلانی میں موسی علیہ السلام بولے کہ نہیں
 من بعد ہم سے متکلم ہو کر فرمایا کہ اے نور العین غوث الثقلین اور آؤ چنانچہ ہم حسب الامر جناب
 پنہیر جو عالم باطن حاضر خدمت سر ابا عظمت ہوئے تو آنحضرت نے ہلکوی اسی تخت پر جگہ دی
 اور فرط مہربانی سے ہماری پیشانی پر بوسہ دیا اور پیرا ہن مبارک اور جبہ شریف جو بذات بارکات
 خود اوسوقت پہنے ہوئے تھے اوتار کر ہلکوی پہنایا اور فرمایا کہ ہذا خلعة العنوبیۃ علی الاقطاب والابدال
 والادواء اور بعد عطائے خلعت رخصت کیا کہتے ہیں کہ جناب غوث الاعظم خلعت غوثیت لے کر
 ممتاز ہوئے تو نہایت خوب سندی سے یہ شعر زبان حق ترجمان سے فرمایا۔ شاعر سائبر دہا
 فی دیرو بیعة ۶ واظھر للعشاق دینی ومذہبی ۶ واضرب فوق السطح
 بالدف جلوة ۶ لکسا تہا کلا فی الزواجات محبتی یعنی میں پتیا ہوں ایسی شراب

محبت کی میخانہ اور تجمانہ میں کہ یہ میخانہ اور تجمانہ عبارت مقامات سلوک سے ہے اور ظاہر کرتا ہوں
میں عاشقوں کے واسطے دین اور مذہب اپنا بچاتا ہوں اور پرہام شوق کے نہایت خورسندی
سے دف واسطے ظہور اس شوق کے اور پیارے اوس شراب کے اور نہیں پہنچے گوشتہ ماے

مانگتے ہیں قرض خوبی سارے گرو آپ سے
ہے در دولت تیرا دار الشفا یا منی دین
لال ہوں لب بند رہتے ہیں برے بس اسٹلے
دل ہے جیون قبلہ ناما ساجتیرے در پر ہمیش
تابع فرمان ہے تیرا تابع حکم اللہ
آپ جسر مہربان ہو جائینگے یا دستگیر
کیا کہوں حال دل زار اپنا اور سردار دین

جہان کے محبت عنزل اور مولف
مل گئی خیرات گل کو رنگ و خوشبو آپ سے
ورو بیدرمان کو مل جاتا ہوں وارو آپ سے
حال دل کہہینگے یکسر میرے آئو آپ سے
اور اوادت ہے مجھے ہر جا و ہر سو آپ سے
پھر گیا حق سے اگر پھیرے کوئی رو آپ سے
رام ہو جائے گا اور سکا نفس بد خو آپ سے

لب نہان ہے حالت سرور ہر سو آپ سے

روایہ عبد اللہ بن احمد البلخی رحمہما اللہ تعالیٰ رأی

المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجلسون الناس عنده صلی اللہ علیہ
وسلم کان من اقرب الصحابة الى المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر
الصدیق رضی اللہ عنہ وكان من اقرب من الاولیاء الیہ الشیخ السید عبدالقادر
رضی اللہ عنہ کاوردی کتب متعددہ بروایۃ الثقات الاول قال العالم العلامة
الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر الغنی الشطنوفی الشافعی رحمہما اللہ
تعالیٰ فی کتابہ بحجۃ الاسرار ومعدن الانوار اخبارنا ابو محمد الحسن قال سمعت
ابی یحییٰ عن ابیہ قال خدمت الشیخ الجلیل العارف ابا عبد اللہ محمد بن احمد
البلخی رضی اللہ عنہ ببغداد سنة وسألتہ عن بدایتہ فکتمنی ایاہا فخذمتہ
سنة ثانیة وسألتہ عن بدایتہ فکتمنی ایاہا فخذمتہ سنة ثالثة فسألتہ

فقال ولا بد فقلت ان رايت قال ولا تخبر احدا بما اخبرك به وانا جئ قلت نعم فلما وثق مني
 والكمات قال هاجرت من بلخ الى بغداد وانا شاب لا اري الشيخ السيد عبدالقادر رضي الله
 عنه فوافية يصلي العصر بمدرسة وما كنت رأيت ولا رأني قبل ذلك فلما سلم واهرع الناس
 للسلام عليه تقدمت اليه وصافحته فامسك بيدي ونظراتي متبسما وقال مرحبا بك يا بلخي
 يا اهل قدر اري الله مكانك وعلم بيتك قال فكان كلامه دواء الجريح وشفاء العليل
 فذرفت عيناى خشية وارتعت ذرايبي هيبة وتقطعت احشاي شوقا وحبوبة ارشست
 نفسي من الخلق ووجدت في قلبي امرا لا احسن ان اعبر عنه ثم لازل ذلك يهوى ويتقوى و
 انا اغاليه وقيمتالى وردى فى ليلة مظلة فبرز لي من تلبى شخصان وبدا أحدهما
 كاس وبدا الآخر خلعة فقال لى صاحب الخلعة انا على ابن ابي طالب رضي الله عنه
 وهذا احد الملائكة المقربين وهذا كاس من شراب المحبة وهذا خلعة من حلل
 الرضى ثم البسنى تلك الخلعة وناولني صاحبه الكاس فاضاء بنوره المشرق والمغرب
 فلما شربته كشف لي عن اسرار الغيوب ومقامات اولياء الله تعالى وغير ذلك من العجائب
 فكان مما رأيت مقاماتزل اقدار العقول فى سره وتفضل انهام الافكار فى جلاله وتضع
 رقبا للباب لصيبة وتذهل اسرار السرائر فى بهائه وتدهش ابصار البصائر لاشعة
 انواره ولا تسامته من الملائكة الكروبيين والروحانيين والمقربين الاحنت ظهورها
 على هيئة الراكع تعظيما لقد ر ذلك المقام وسمحت لله عز وجل بانواع التقديس
 والتنزيه وسلمت على اهل ذلك المقام ويقول القائل انه ليس فوقه الاعرش الرحمن
 ويتحقق الناظر اليه ان كل مقام لو اصل احوال الجذوب او سر محبوبا وعلم لعارفا و
 تصريف لولي او تمكين لمقرب فبداه وماله وحملته وتفصيله وكله وبعضه واوله
 وآخره فيه استفر منه نشأ وعنه صدر وبه كمل فكنت مدة لا استطيع النظر اليه ثم
 طوقت النظر اليه ومكثت مدة لا استطيع ان اسامته ثم طوقت مسامته ومكثت مدة

لا استطيع اعلم من فيه ثم بعد مدة علمت من فيه فاذا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وعن يمينه آدم و ابراهيم وجبرئيل عليهم السلام وعن شماله نوح وموسى وعيسى
 صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وبين يديه اكار اصحابه واولياء قياما على هئية
 الخدمية كان على راسهم الطير ومن هبية صلى الله عليه وسلم وكان من عرفته به من
 الصحابة رضوا الله عنهم ابوبكر وعمر وعثمان وعلي وحزرة والعباس رضوا الله عنهم وكان
 من عرفته به من الاولياء معرفا لكرخي وسرى السقطى والجنيدي سهل الستري و
 وناج العارفين ابوالوفا والشيخ السيد عبدالقادر والشيخ ابوسعاد والشيخ احمد الرفاعي
 والشيخ عدى رضوا الله عنهم وكان من اقرب الصحابة الى المصطفى صلى الله عليه وسلم
 ابوبكر الصديق رضوا الله عنه وكان من اقرب الاولياء اليه الشيخ السيد عبدالقادر فسمعت
 قائلا يقول اذا اشتاقت للملائكة المقربون والانبياء والمرسلون والاولياء المحبون الى ربه
 محمد صلى الله عليه وينزل من مقامه الاعلى عند ربه تعالى الى هذا المقام فضاخف
 انوارهم بروية وتروكوا الحواضر مشاهدته وتعلوا مكانته ومقاما فخر بركته ثم يعود الى
 الرفيق الاعلى فسمعت لكل يقولون سبحنا واطعنا عفرناك ربنا واليك المصير ثم يدتلى
 بارقة من نور القدس الاعظم فقيمتنى عن كل مشهود ولتخطفتنى من كل موجود ^{سقطت}
 منى التميزين كل مختلفين واقمت على هذا الحال ثلاث سنين فلما شعر بنفسى الا وانا
 فى سامرة والشيخ السيد عبدالقادر رضوا الله عنه فابض على صدرى واحدى رجلية
 عندى والاخرى ببغداد وقد عاد الى تميزى وسلكت امرى فقال لى الشيخ السيد عبدالقادر
 يا بلخي قد امت ان ادرك الى وجودك واصلك حالك واسلب منك ما فكرت ثم اخبرنى بجميع
 شهاداتي واحوالى من اول امرى الى ذلك الوقت اخبارا يدل على اطلاعه على فى كل نفس
 وقال لى لقد سألت نيك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مرات حتى طوقت النظر الى
 ذلك المقام سبع مرات حتى طوقت مسامحة وسبع مرات حتى اطعت على ما فيه وسبع مرات

حتی سمعت المنادی ولقد سألت الله ذیك سبع مرات وسبع مرات وسبع مرات حتی الاح
 لك تلك الباریة وكنت من قبل سألته ذیك سبعین مرة حتی سقاك كاسا من محبته و
 البسك خلعة رضوانه یا بنی انصر جمیع ما فانك من الفرائض او قال رضی الله عنه فی الاولیاء
 رضی الله عنهم الولایة ظل النبوة والنبوة ظل الالهیة والنبوة مستفادة من وحی الملك
 وغیب الازل والولایة مطالعة روح الكشف ملاحظة مطالع البیان بصفاء ید هب
 كدره البشرية وطهارة تنقی ونس الاسرار فالانبیاء مصادر الحق والاولیاء مظاهر الصدق
 ومعجزة النبی محل حمی الوحی والتعدی باسرار معانی الحكمة وانجاز كمال القدرة مبھتاً
 علی صدق قوله ومنها ج امره یقطع به حج المنكرین وكرامة الولی استقامة فعمل علی
 قانون قول النبی صلی الله علیه وسلم فالتمت بسبب الولایة نقص والترصد لتسبیها
 كرامة والكرامة اثر انعكاس نور الحق علی قلب الولی من منبع ضوء نور الكلی بواسطة
 فیض الالهی ولا یظهر ذلك علی الولی الامع عدم اختیاره والاولیاء خصوصاً بشارات
 نبویة واطلاعات حقیقیة وارواح نوریة واسرار قدسیة وانفاس روحانیة وشهادت
 زکیة وهم خلفاء الانبیاء التامی الثانی قال العالم المحدث الشیخ عبدالحق الدهلوی رحمته الله علیه فی كتاب
 زبدة الاسرار ومنها ما نقل عن الشیخ الجلیل العارف ابی عبد الله محمد بن احمد البطنی
 رحمهما الله تعالی انه قال بعد ما اخفی من السائل الى ثلث سنین واخذ موثقاً منه
 بالكتمان مدة حیواته كشف لی عن اسرار الغیوب مقامات اولیاء الله تعالی فكان مما
 رأیت مقام نزل اقلام العقول فی سره وتضل الافكار فی جلاله یتحقق الناظر الیه
 ان كل مقام لواصل او حال لجذوب او سر محبوب او علم عارف او تصریف لولی او تمكین
 لقرب مبدأه وماله وجملة وتفصیله وكله وبعضه واوله واخوه فیه استقر منه
 نشأ وعنه صدر وفيه بكل ثم ساق الشیخ الجلیل فی تعریفه ذلك المقام عال لا یسع
 البیان تقریره فقال فكنت لا استطیع النظر الیه ومكثت مدة لا علم من فیه تقریر صدق

علمت من فیه ای انه مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن یمینہ آدم و ابراهیم و
 جبریل وعن یسارہ نوح و موسیٰ و عیسیٰ صلوات الله علیہم و علیٰ بنی دینہ اکابر الصحابة
 و الاولیاء علی هیئۃ الخدر و کان علی و سہم الطیر من هیبۃ صلی الله علیه وسلم و کان من عرفۃ
 من الصحابة ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حمزة و العباس رضوان الله علیہم اجمعین و من الاولیاء
 معروف الکرخی و سری السقطی و الجندی البغدادی و سہل التستری و تاج العارین ابوالوفا
 و الشیخ السید عبدالقادر و الشیخ عدی بن مسافر و الشیخ احمد الرفاعی قدس الله اسماءہم
 و کان من اقرب الصحابة الی النبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر الصدیق رضی الله عنه و کان من
 اقرب الاولیاء الیہ الشیخ السید عبدالقادر رضی الله عنه و لهذا القصة ذیل یدل علی کمال
 تفضله فی العوام رضی الله عنه مذکور فی لہجۃ الامراء و انتخب الثالث قال الامام عبداللہ
 الیافعی الشافعی رضی الله عنہما فی کتابہ خلاصۃ الفاخر و ہی بالفارسیۃ حکایت صد و ہشتاد و سیوم
 نقلت از شیخ ابو عبداللہ محمد احمد البلخی رحمہما اللہ تعالیٰ کہ گفت کہ از پنج در بغداد رفتہ و من از در جوامع ما شیخ
 محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ را در یام بوقت عصر در مدرسہ او در نماز بود کہ من در آمدم پیش از آن
 نہ او را دیدہ بود و من او را چون سلام نماز او دیدم کہ خلق بروی هجوم کرد و من ہم پیشتر شدم و مصافحہ
 کردم دست من گرفت و سوی من دید و بسم کرد و گفت ای محمد بلخی قدر ای اللہ مکانک و علم نیک گویا کہ
 کلام او دو بود و جریح را و شفا مرعیل را پس ہر دو چشم من از شیب روان شد و استخوان سینہ من از زمین
 گرفت و از شوق و از محبت اندرون من پاره پاره میشد و نفس من از خلق متوحش شد و در دل خود امری
 یافتم کہ از آن تعبیر ممکن نبود و چنان می افزود و قوی میشد و من از آن تکلف میدستم تا آنکہ شبی تاریک و من
 برای در بر خاستم دیدم کہ از دل من دو شخص ظاهر شدند در دست یکی قدحی و بدست دیگری خلعتی
 صاحب خلعت گفت من علی ابن ابوطالبم کرم اللہ وجہہ و آن یکی از ملائک مقرب بہت و این کاس شراب محبت
 بہت و این خلعت از حلق رضا و آن خلعت را پوشانید و آن صاحب قدح مراد او پس بنور آن تمام مشرق
 و مغرب منور شد چون من از آب شامیدم مکشوف شد بر من از اسرار غیب مقامات اولیاء و غیر آن از عجائب

و مقامی را دیدیم که اقدام عقول از آن از یاد و افهام و افکار و عظمت آن راه گم کند و قباب الباب
از فریب آن و خضوع آید و سرسرا را از بسیار آن از غایت تعجب با خود نشود و ابصار و بصائر از اشعه انوار
آن و بهشت متحیر گردد و طائفه کرمیان در روحانین و مقربان بر آن اطلاع نیابند مگر آنکه در رکوع شوند از بهر
تعظیم من قد آن مقام و تسبیح گویند. مر خدا عزوجل بانواع تقدیس و تزیین مراهل آن مقام را سلام کنند
و قائل یقین گویند که نیست فوق این مگر عرش رحمن و ناظر تحقیق دانند که هر مقامیکه مواصل راست یا چالی
مرمزد و بیا ساری محبوب را یا علمی بر عارف را یا نصیری مروی را یا تکلیف مرمقرب را مبداء و مآل و حلیم
تفضیل و کل و بعضی اول و آخر آن در آن مقام است و از آنجا نشو یافته دست و بدان کمال گرفته بدقی
این بود که نظر در آن مقام نمی توانستم کردن بعد مدتی قوت آن شد و دیدی طاقت سامت آن ندا شستم
بعد مدتی آن هم شد و مدتی نمیدانستم که اندران مقام کسیت بعد مدتی اطلاع یافتیم که در آن مقام رسول الله
صلی الله علیه و سلم نشسته است راستا را او دم و ابراهیم و جبریل و جبرائیل و موسی و عیسی صلوات الله
علیهم اجمعین و پیش او اکابر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و اولیاء رحمة الله علیهم بر شکل خرم ایستاده
و کان علی را و سیم اطیر من بنیه صلی الله علیه و سلم و از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین از آنها که من می شناسم
ابوبکر بود و عمر و عثمان و علی و حمزه و عباس رضی الله عنهم و از اولیاء خواججه معروف کرخی و سری سقطی و
و جنید بغدادی و سهل تستری و تاج العارین ابوالوفاء و شیخ محی الدین سید عبدالقادر و شیخ عدی و
شیخ احمد رفاعی قدس الله اسرارهم و از اقرب صحابه مصطفی صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق بود و از اقرب
اولیاء شیخ محی الدین سید عبدالقادر پس شنیدم قائلی که میگفت چون ملائک مقرب و انبیاء مرسل و اولیاء
محب مشتاق رویت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شوند از مقام علی عند رب تعالی بدان مقام آید پس
از دین جمال او انوار ایشان مضاعف شود و احوال ایشان مصفا گردد و دو مقام مرتبه ایشان بلند
شود از برکت او تم نبود الرفیق الاعلی پس شنیدم که هر گفتمند سمعنا و اطعنا غفرناک و بتنا و
الیک المصیو بعد از آن از نور قدس اعظم بارقه ظاهر شد که غائب گرد و از جمیع مشهور و بر بود و مر از بهر
چه بود موجود در من عقل و تمیز نماند سه سال بدین حال بوده ام ناگاه می بینم که دست مبارک شیخ

عہد جب مضبوط لے تو کہے میرے جوانی میں بلخ سے نکل کے شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے واسطے
 بعد اذ کو آیا نماز کے وقت حضرت کے نزدیک پہنچا اس وقت حضرت عصر کی نماز میں مشغول تھے میں کہہ
 حضرت کو نہیں دیکھا تھا حضرت بھی مجھے نہیں دیکھے تھے جب نماز سے سلام کے لوگ حضرت کو سلام کرنے
 واسطے جلدی کے میں بھی حضرت کے نزدیک جا کے مصافحہ کیا حضرت میرا ہاتھ پکڑ کے تبسم کے اور زما کے
 مرحبا کہ یا بلخی امی محمد خدای تعالیٰ تیرا مکان دیکھا اور اوسکو تیرا پیغمبر جانا شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں سخن
 حضرت کا چونکہ زخم کی دوا اور مریض کی شفقتا خوف سے میرے دذنون اٹکھ اٹکھ بھرا لے اور ہیبت سے
 میرے اعضا لرزے اور میرا باطن محبت الہی ہو کانٹے لگا گیا اور میرا نفس خلق سے وحشت پکڑا اور میرے
 باطن میں ایک ایسا دریا جواسکا بیان نہیں کر سکتا ہوں اور وہ حال ہر روز زیادتی میں تھا اور قوی
 ہوتا تھا اور مجھے عاجز کرتا تھا ایک شب میں اپنے ورد واسطے اٹھا وہ شب بہت تاریک تھی سو میرے
 دل سے دو شخص ظاہر ہوئے ایک کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں خلعت تھی خلعت
 جسکے ہاتھ میں تھی ان نے مجھے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں اور یہ پیالہ لیا ہے سوہ ملائکہ مقربین سے
 ہے اور یہ پیالہ محبت کی شہزاد کا ہے اور یہ خلعت رضاکا ہے پھر وہ خلعت مجھے پہنائے اور وہ پیالہ دے
 اسکے نوز سے مشرق سے مغرب تک روشن ہوا میں جب اوسکو پیالہ تو مکشوف ہوئے میرے پر عیب کے اسرار
 اور اولیاء کے مقامات اسکے سوائے بہت سے عجائب اور ایک مقام دیکھا اسکے پہچاننے میں عقول کے اقدام
 لغزش کرتے ہیں اور اسکے افکار کے فہم متعیر ہوتے ہیں اور اوسکی ہیبت سے اولی الباب کے گرد نان خضوع
 کرتے ہیں اور اوسکی روشنی سے سرار کے اسرار ڈھول پاتے ہیں اور اوسکے نوز کی شعاع بصر کے البصار
 کو دہوش کرتی ہے ملائکہ گرد میں یارو حاشین مقربین جب اسکے مقابل ہوتے ہیں تو اوسکے پستان بطور
 رکوع کے جھکتے ہیں اس مقام کی تقسیم کے واسطے پھر میں خدا تعالیٰ کو اقسام کی تقدیس اور تزیین سے
 تبیج کیا اور اس مقام کے مردوں پر سلام کیا اور میں ایک قابل کو سنا کہتا ہوا اسکے اوپر نہیں ہے مگر
 عرش حق تعالیٰ کا اور اس مقام کے دیکھنے والے پر مستحق ہوا جو مقام واصل کا یا حال مجذوب کا یا سر
 جوب کا یا علم عارف کا یا تصرف ولی کی یا تکلمین مقرب کی ہے تو مبدار اوسکا وہی مقام ہے اور مرجع

اسکا وہی ہر مال اور اجمال اور تفصیل اور کل اور بعض اور اول اور آخر اسکا اس ہی مقام میں ہوا اور
 اس ہی سے ناشی و صادر ہوا اور اس ہی سے کامل ہوا اور پھر ایک مدت تک اس مقام کو نگاہ کرنے کی
 مجھے طاقت نہ ہوئی سن بعد میں اسکو دیکھنے پر قادر ہوا پھر اگلی مدت تک اسکی مسامتت دیکھنے کی مجھے طاقت
 نہ ہوئی بعد اسپر قادر ہوا پھر ایک مدت تک اس مقام کے صاحبوں کو پہچاننے کی طاقت مجھے نہ تھی پھر بعد
 پہچانا تو دیکھا اسمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضرت کے سیدھے بازو پر آدم اور ابراہیم
 اور جبریل علیہم السلام بیٹھے ہیں اور بائیں طرف نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام میں نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھے بڑے صحابہ اور اولیاء خدا من کے مانند کھڑے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی ہیبت سے بہت ادب اور فروتنی سے ہیں اور حضرت کے اصحاب میں ابو بکر صدیق اور عمر اور
 عثمان اور علی اور حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہم کو پہچانتا تھا سو میں اور اولیاء میں شیخ معروف کرخی اور
 سری سقلی اور جنید بغدادی اور سہل تستری اور تاج العارفین ابو الوفا اور شیخ سید عبدالقادر جیلانی
 اور شیخ عدی بن مسعود اور شیخ احمد رفاعی قدس اللہ اسرارہم اور صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بہت نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور اولیاء میں شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ ہے اور میں ایک قابل
 کو سنا کہتا ہوں جب مقرب فرشتے اور انبیاء مرسلین اور اولیاء مجتہبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویت
 کے مشتاق ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند مقام سے جو نزدیک خدا تعالیٰ کے ہوا اس
 مقام طرف آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویت سے انکے انوار و وحی ہوتے ہیں اور وہ لوگ
 حضرت کے مشاہدے سے اپنے احوال کو پاک کرتے ہیں اور برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 مکانات اور مقامات انکے بلند ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکے بعد افاق اعلیٰ پر جاتے ہیں پھر
 تمام لوگوں سے میں سنا کہتے ہیں سمعنا و اطعنا خضرتنا و ربنا والیک المصیرون پھر قدس عظیم
 سے نوز کا ایک چمکا تھ ظاہر ہوا اور مجھے ہر مشہور سے غائب کیا اور ہر موجود سے لے گیا اور میرے
 تیز دور کیا اور میرے حواس کو گم کیا اسی حالت پر تین سال رہا میرے نفس سے مجھے آگاہی نہ تھی
 مگر اپنے کو سامر میں پاتا تھا اور دیکھتا تھا شیخ سید عبدالقادر میرا سینہ پر کھڑے ہیں اور حضرت کا ایک پون

میرے نزدیک ہے اور ایک پانوں بغداد میں ہے بعد پھر مجھے تیز آئی اور میرے حال کا میں مالک ہوا
حضرت مجھے فرمائے کہ بلخی میں ماور ہو اے تھے تیرے وجود طرف پھر لاؤں اور تجھے تیرے حال کا مالک
کروں اور جو چیز تجھے عاجز کمی ہے اسے دو کروں پھر حضرت میرے تمام احوال کی خبر اول سے آخر تک
ایسا دے اس سے معلوم ہوا حضرت کو میرے ہر نفس پر آگئی تھی اور فرمائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے سات بار سوال کیا تا تجھے اس مقام کو دیکھنے کی طاقت ہوئی پھر سات بار سوال کیا تا تجھے اسکی
مسامحت کی طاقت ہوئی پھر سات بار سوال کیا تا تو مطلع ہوا صاحبو نیز اس مقام کے پھر سات بار سوال
کیا تا تو آواز ان کا سنا اور چاہا میں حق تعالیٰ سے سات بار پھر سات بار پھر سات بار تا کہ تیرے پر اس
نور کو چمکایا اور اول بھی سات بار چاہا تا تجھے یہ الہ محبت کا پایا وے اور تجھے رضائی خلعت پہنا وے لے
رکے تیرے نماز ان فوت ہو وے سوا سکو قضا کرستی **الفصل الخامس عشر** فی بیان مدح
خضر علیہ السلام حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ قال فی حقہ ماکان ولی فی مقام العشوقیۃ
تحت السماء مثل الغوث الاعظم هو امام الصدیقین وحجۃ العارفين وروح المعرفة وشانہ عظیم بین
الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین كما ورد فی کتب متعددہ الاول قال العالم الشیخ عبدالقادر
بن محی الدین الادبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ تفریح الخاطو المنقبۃ العشر وں فی مدح خضر علیہ
السلام حضرت الغوث رضی اللہ عنہ قال فی حقہ ماکان ولی فی مقام العشوقیۃ تحت السماء
مثل الغوث الاعظم ولا یكون وقال الشیخ ابو مدین المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقیتم الخضر
علیہ السلام فسألته عن مشایخ المشرق والمغرب فی عصرنا و سألته عن الفرد الاخمر
والغوث الاعظم فقال هو امام الصدیقین وحجۃ العارفين وروح المعرفة وشانہ عظیم
بین الاولیاء رضی اللہ عنہم انتمی الثاني قال العالم الشیخ محمد بن محی التاد فی الحبلی رحمہ اللہ
تعالیٰ فی کتابہ قلائد الجواهر قال الشیخ ابو مدین بن شعیب المغربی رضی اللہ عنہ لقیتم
الخضر علیہ السلام فسألته عن مشایخ المشرق والمغرب الآن و سألته عن الشیخ سید
عبدالقادر الجبلی رضی اللہ عنہ فقال هو امام الصدیقین وحجۃ العارفين وهو روح فی

المعرفة وشأنه القربة بين الاولياء كلها رضى الله عنهم انتهى الثالث قال العالم الشيخ نور الدين
 ابي الحسن علي بن يوسف بن جبريل الخمي الشطوني الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب هجة الاسرار و
 معدن الانوار اخبرنا ابو محمد بن مسعود السجستاني قال اخبرنا الشيخ القدوة ابو زكريا يحيى بن محمد
 المغربي قال سمعت الشيخ القدوة ابا محمد صالح الدوكالي يقول سمعت شيخنا الشيخ ابا مدين رضي
 الله عنه في سنة ستين وخمسائة يقول لقيت ابا العباس الحضرمي عليه السلام منذ ثلاثة
 اعوام فسألته عن مشايخ المشرق والمغرب في عصرنا وسألته عن الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني
 فقال هو امام الصديقين وحجة العارفين وهو روح في المعرفة وشأنه القربة بين الاولياء
 ولم يبق بينه وبين الخلق الا النفس واحد ومراتب الاولياء كلها من وراء ذلك وانا اصرف
 مراتب الاولياء من وراء اشارته قال وما سمعته قال مثل هذا في حق غيره رضى الله عنهم
 اجمعين انتهى الرابع قال العالم العلامة المحدث الشيخ عبد الحق دهلوي رحمة الله عليه في
 كتابه زبدة الاسرار ومنها ما نقل عن الشيخ ابي مدين رضي الله عنه انه قال لقيت ابا العباس
 الحضرمي عليه السلام منذ ثلاثة اعوام فسألته عن مشايخ المشرق والمغرب وسألته عن
 الشيخ السيد عبد القادر فقال هو امام الصديقين وحجة العارفين وهو روح في المعرفة
 وشأنه القربة بين الاولياء ولم يبق بين الخلق الا النفس واحد ومراتب الاولياء كلهم من
 وراء ذلك النفس وانا اصرف مراتب الاولياء من وراء اشارته قال وما سمعته قال
 مثل هذا في حق غيره رضى الله عنه انتهى الخامس قال العالم المحقق المدقق محمد غوث
 الخاطب بشرف الملك حمد الله تعالى في كتابه انهار الفاخر شيخ ابو محمد سيكو بيدكيس از حضر عليه السلام برسيم
 كورين گروه اجاب آيا فردى باشد و هر وقت كه رجوع ايشان بد و بود گفت آرمي گفتم در زمان ما
 گيست گفت شيخ محي الدين سيد عبد القادر است گفتم خبر ده مرا از احوال او گفت او فردا اجاب قطب اوليا
 است و درين زمان و خداي تعالی بترج ولى را بقامى نرسانيد مگر آنكه شيخ سيد عبد القادر رضى الله عنه برتر از ان
 است و پياله محبت بخشايند خداي تعالی بترج صيب را مگر آنكه شيخ سيد عبد القادر را مگر از ترزان چشاييد و

بخشند، پیچ مقرب را حالی مگر که شیخ عبدالقادر بزرگتر از آن است و تحقیق و وصیعت نهاده است خدای
تعالی در وی سری از اسرار خود که پیشی گرفته است بدان برجهورا و یآر و نگرفته است خدای تعالی بیچکری را
ولی نخواهد گرفت مگر او ادب کننده است با آن سرتراز و قیامت بدانکه ابو محمد بن عبدربه البصری از
اعیان مشایخ عراق و عظمای عارفان مشهورین و اجلا مقررین است صاحب احوال فاخره و کرامات
ظاهره و افعال خارقه و انفس صادقه و مقامات سینه و تقاین زا بهره و معارف با بهره بود و مراتب
عالیه از منازل قرب و معارج ربیعه بسوی محاضر قدس و کشف و اضحی از عوالم غیب لسان طویل در
انخبار عجایب فتح و بلاء حریب و در تصرف نافذ و قدم راسخ و در تکلیف داشت و یک است از علما شریعت
و مفتیان مذهب امام مالک رضی الله عنه انتهى السادس قال الامام عقیف ابن عبد الله الباقی
الشافعی رحمه الله تعالی فی کتابه خلاصه المناظر شیخ ابو محمد بن عبد میگوید از خواجه خضر علیه السلام پرسیدم
این طایفه اجاب را سر قوم هم باشد که رجوع ایشان بر و بود گفت آری در عهد اکبیت نعت شیخ محی الدین
سید عبدالقادر رضی الله عنه گفتیم مر از احوال شیخ گفت او فرد اجاب است و قطب الاولیا در زمان
خویش حق تعالی پیچ ولی را بقامی نرسانیده هیچ صمیمی را الا آنکه شیخ را بهتر گوید از آن عطا کرد و این بعض
کلام از خواجه خضر است در فضائل شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه است انتهى السابع قال العالم
الشیخ محمد صادق شهبانی سعدی قادری فی کتابه مناقب غوثیه النقبه الساده و الماریون فی مدح الخضر علیه السلام
آورده اند که خواجه خضر علیه السلام فرموده و الله تا حال مثل غوث رضی الله عنه در مقام مشوقیت زیر کبود
آسمان پیچ کس نیامده در اولیا و تا قیامت نخواهد آمد و ایضا عن الشیخ ابی مدین المدنی لقبیت الخضر
علیه السلام فسألته عن المشایخ في المغرب و المشرق في عصرنا و سألته عن الفرق الاثمه القوت الاكظم
رضی الله عنه فقال هو امام الصديقين و حجة العادين هور و ح في المعرفة شانه عظیم بین
الاولیاء کشان سیدالرسول محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم بین الانبیاء و انا اصف مراتب
الاولیاء من و داء اشارته انتمی الثامن قال العالم مفتی غلام سرور رحمه الله تعالی فی کتابه مکرر است
وهی لسان الهندیة و هذا عبرة مناقب چهل و ششم در تعریف محبوب جان غوث الاعظم زبانی خضر علیه السلام

رہبر گرامان زبده انبیای عالی شان خضر علیہ السلام قسمیہ ہو کر فرماتے ہیں کہ بخدائی لایزال و بر رسول اہل کمال کہ اس دار دنیا میں کوئی اویا صاحب ولایت کہ جناب بزوانی درجہ محبوبیت رکھتا ہو جو محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اور حضرت شیخ الشیوخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لقبنا الخضر علی نبینا علیہ السلام وسألت عن المشایخ المشرق والمغرب وسألت عن الفرد الاخم الغوث الاعظم رضی اللہ عنہ فقال هو امام الصدیقین وهو روح فی المعرفۃ و شانہ عظیم بین الاولیاء وانا اصرف مراتب الاولیاء من واء شانہ **عزل اور مولف**

شیرعلیان عالی ہمس بین	وہی عرب فخر عجم ہیں	سمند زمین وہ ایک چودو سناک	نورین فیض کے بحر کرم ہیں
بے زید جنگ سرتر شاہی	زمین و آسمان پر قدم ہیں	وہ ہنشاہ ہیں شاہ گیلان	کہ جنگی مثبت گردون پر عظم ہیں
جہان خلق جہان کرتی بظہیر	زمین و آسمان پر قدم ہیں	وہ ہیں زمین و گل گزار عالم	وہی بس سروستان ارم ہیں
وہی بین فخر اہل بیت نبوی	وہی عزت وہ اہل جرم ہیں	گدا ہیں جو کہ اونکی آستان کے	سکند زمین وہی دارا ہیں جرم ہیں
عظیم المرتبہ محبوب الہی	ول بس جسکے پاؤں قدم ہیں	جلالت پر اگر آجائیں حضرت	بلا خنجر سر دشمن قتل ہیں
	سبحانم کرم سرور پر کیجئے	کہ باقی او زمین ایک و دم ہیں	استی

الفصل السادس عشر وفيه فصول الاول في بيان مدح السيد احمد الكبير الرفاعي رحمه الله عليه حضرت الغوث رضی اللہ عنہ قال الشيخ السيد عبدالقادر ربحو الشريعة عن يمينه و بحر الحقيقة عن يساره من ايها شاء اعترف والفصل الثاني في بيان وصية السيد احمد الكبير رحمه الله عليه يوصي اولاد اخيه ولجابه قال اذا دخلتم بغداد فلاقدم بغدا فلاقدم مواعلي زيارة الشيخ السيد عبدالقادر ان كان حيا ولا اعلى قبره ان كان ميتا فاقم اخذ له الهدايا ما رجل من اصحاب الاحوال دخل بغداد و لم يزره سلب حاله ولو قبل الموت الفصل الثالث في بيان الشرف ابو عبدالله الفصل الرابع في بيان الشيخ عبدالقادر **الفصل الخامس** في بيان مدح السيد احمد الكبير رحمه الله عليه حضرت الغوث الشيخ السيد عبدالقادر رضی اللہ عنہ وقال الشيخ السيد عبدالقادر ربحو الشريعة عن يمينه و بحر الحقيقة عن يساره من ايها شاء

اغترف السيد عبدالقادر لاثاني له في عصرنا كما ورد في كتب متعددة الاول قال العالم العلامة
 والخبر الفهامة المولى علي القاري رحمه الله الباري في كتابه نزهة الخاطر الفاتر منها ما روى
 عن السيد الكبير القطب الشهيد سيدي احمد الرفاعي رضي الله عنه انه قال الشيخ السيد عبدالقادر
 بحر الشريعة عن عينه وبحر الحقيقة عن يساره ومن ايها شاء اغترف السيد عبدالقادر لاثاني له
 في عصرنا رضي الله عنه انتهى الثاني قال العالم الشيخ محمد محيى التاد في الحنبلي رحمه الله عليه في
 كتابه قلائد الجواهر وقال الشيخ عبدالله البطائحي اخذ رت الى امر عبدة في حياته سيدي الشيخ
 محي الدين عبدالقادر رضي الله عنه واقمت برواق الشيخ احمد رضي الله عنه اياما فقال لي
 الشيخ احمد اذكري شيئا من مناقب الشيخ السيد عبدالقادر وصفاته فذكرت منها شيئا فجاء رجل
 في اثناء حديثي وقال لي مه لا تذكر عندنا مناقب غيره هذا وأشار الى الشيخ احمد رضي الله عنه
 فنظر اليه الشيخ احمد مغضبا فوقع الرجل ميتا ثم قال ومن يبلغ مبلغ الشيخ السيد عبدالقادر ذلك
 رجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره من ايها شاء اغترف السيد الشيخ عبدالقادر
 لاثاني له في وقتنا هذا انتهى الثالث قال العالم الشيخ احمد بن محمد الوترى الرفاعي الشافعي البغدادي
 رحمه الله عليه في كتابه روضة الناظرين وقد سئل السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه مرة عن
 الشيخ عبدالقادر رضي الله عنه فقال هو رجل بحر شريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره و
 من ايها شاء اغترف هو في حاله وادلاله لاثاني له في عصرنا انتهى الرابع قال العالم الشيخ نور الدين
 ابي الحسن علي بن يوسف اللخمي الشطوني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه هجعة الاسرار ومعدن
 الافوار اخبرنا ابو القاسم محمد بن عبادة الانصاري الحلبي قال سمعت الشيخ العارف ابا اسحق
 ابراهيم بن محمود البعلبكي المقرئ قال سمعت شيخنا الامام ابا عبدالله محمد البطائحي قال اخذت
 في حياة سيدي الشيخ محي الدين السيد عبدالقادر رضي الله عنه الى امر عبدة واقمت برواق
 الشيخ احمد رضي الله عنه اياما فقال لي الشيخ احمد يوما اذكري شيئا من مناقب الشيخ السيد
 عبدالقادر وصفاته فذكرت له شيئا منها فجاء رجل في اثناء حديثي فقال لي مه لا تذكر

عندنا مناقب غیر مناقب هذا و اشار الى الشيخ احمد فنظر اليه الشيخ احمد مغضبا فوقع الرجل
 من بين يديه ميتا ثم قال ومن يستطع وصف مناقب الشيخ السيد عبد القادر من يبلغ مبلغ
 الشيخ سيد عبد القادر رضی الله عنه ذلك رجل بحر شريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره
 من ايها شاء اغترف الشيخ السيد عبد القادر لثاني له عصرنا انتهى الخامس قال الامام
 عفيف الدين عبد الله الياقبي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه خلاصة المغاخر وهو بالفارسي
 حکايت صدوقه و نوته ثم نقل استاذ شيخ سيدي احمد بن ابوالحسن رفاي رحمه الله عليه انكفت شيخ محمد بن
 سيد عبد القادر بحر شريعت ديمين اوست و بحر حقيقت و ريسار و ازهر که ام که ميخواهد اغترف ميکند استهي
 السادس قال العالم العلامة المولينا محمد غوث في كتابه انهار المغاخر موى است از شيخ ابى اسحاق بن زبير
 بن محمود بلخى رحمه الله عليه که شنيدم شيخ ابا محمد عبد الله بطايحي رحمه الله عليه ميگفت که فرود آمدم در بهنگام
 حياة شيخ محي الدين سيد عبد القادر رضی الله عنه درام عبديه و اقامت کردم چند روز در رواق شيخ احمد
 رفاي قدس سره روزي بمن گفت پييزي از مناقب شيخ سيد عبد القادر و صفات او اندکی از ان بيان کردم
 و در ثنائى سخن مردى آمد و گفت خاموش باش و گو نوزد ما مناقب غير اين و اشارت به شيخ احمد نمود شيخ
 احمد بسوى آواز نگاهه غضب يدي في الحال آن مرد مرده افتاد سپس شيخ احمد رحمه الله عليه گفت که م کس
 طاقت دارد که وصف مناقب شيخ سيد عبد القادر رضی الله عنه نماید و کدام کس خواهد رسيد مرتبه او را و
 مردى است که در ياي شريعت از جانب رست و در ياي حقيقت از جانب چپ اوست از هر دريا
 که ميخواهد غرقه ميگردد و نخواهد آمد مثل او درين وقت استى السابع قال سلطان داراشكوه في كتابه سفينة
 الاولياك اروي في مجلس شيخ احمد رفاي رحمه الله عليه مناقب حضرت شيخ سيد عبد القادر رضی الله عنه مذکور
 مى شد شخصی بطريق انکار گفت بس کن سيدي بجانب او بغضب نگاه کردند في الحال آن شخص ببرد
 سيدي رحمه الله عليه فرمودند که کير قدرت است که مناقب شيخ سيد عبد القادر تو اند بيان کرد بمرتبه او
 تو اند رسيد او شخصی است که در يک جانب او در ياي شريعت و در يک جانب او در ياي حقيقت است
 هر جا که ميخواهد غوطه ميزند انتهي ترجمه کتب عربى و فارسى کايه ہے کہ روایت ہے شيخ ابى اسحق ابراہيم بن محمود

بعلبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سنا میں نے شیخ ابامحمد عبداللہ بطباچی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کہتا تھا کہ میں نے
 اتر بیچ حیات ہونے شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ اتم بعیدہ میں واقامت کیا
 میں نے کتنے روز شیخ احمد رفاعی قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھ کو کہا کچھ کہو مناتب شیخ سید عبدالقادر
 کے کچھ وصف سے بیان کرتا تھا ایک مرد آیا درمیان بیان کرنے کے کہا مجھ کو خاموش رہو یعنی
 کلام بند کرنا اور ست کہنا ہمارے نزدیک سوا شیخ احمد رفاعی کے جناب شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
 نے اوس مرد کی طرف بظرف غضب سے دیکھانی الحال وہ مرد مرگ کر پڑا تاشیان یہ ہے کہ حضرت شیخ سید
 احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کون آدمی ہے کہ وصف مناتب شیخ سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے بتلاوے
 اوپر پہنچ سیکے گا اوس کے مرتبہ کو اور سید عبدالقادرؒ وہ مرد ہے کہ دریا شریعت کا جانب رہت ہے اور
 دریا حقیقت کا جانب چپ ہے اور جس دریا سے چلے پل بھرے او شیخ سید عبدالقادر لاشافی ہوا ماری
 عصر میں یعنی زمانہ زین **الفصل الثانی** فی بیان وصیۃ السید الکبیر السید احمد لوفاعی رضی
 اللہ عنہ بزیارة الغوث لمن دخل بغداد رضی اللہ عنہ کما ورد فی کتب متعددة الاول قال العالم
 الشیخ محمد بن الشیخ یحیی التادفی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ قلائد الجواهر قال وسمعتہ یوصی
 اولاد اختہ وھم الشیخ ابراھیم الاعزب واخوتہ ابو الفرج عبدالرحمن ویحیم الدین احمد اولاد الشیخ علی الرقاق
 واکا بواصحابہ وقد جاء رجل یودعہ مسافرا الی بغداد وقال اذا دخلت بغداد فلا تقدم موا
 علی زیارة الشیخ السید عبدالقادر رشیدا انکان حیاء ولا علی قبرہ انکان میتا فقط اخذ له الھمد
 ایما رجل من اصحاب الاحوال ودخل بغداد ولم یزرہ سلب حالہ ولو قبل الموت والشیخ السید
 عبدالقادر رحمۃ علی من لم یرہ نفع اللہ بہما ونقل جامع کتاب الروض الابوار ومحاسن الاخیار
 ان الناقل لهذا الحکایة الشیخ عبداللہ یوسفی انتمی الثانی قال لعل الشیخ ابی الحسن علی بن یوسف بن
 جریب اللغنی الشطونی الشافعی رحمۃ اللہ علیہما فی کتابہ فحجۃ الاسرار ومعدن الافوار قال و
 سمعتہ یوما یوصی اولاد اخیه واکا بواصحابہ وقد جاء رجل یودعہ مسافرا الی بغداد قال له
 اذا دخلت الی بغداد فلا تقدم علی زیارة الشیخ السید عبدالقادر رشیدا انکان حیاء ولا علی زیارة

قبره انکان میتنا فقد اخذ له العهد ایما رجل من اصحاب الاحوال دخل بغداد ولم یزره سلب
 حاله ولو قبیل الموت ثم قال والشیخ محی الدین السید عبدالقادر حصرة علی من لم ییره رضی الله
 عنه وارضاه ورحمة الله علیه انتمی الثالث قال العالم الشیخ عبدالقادر بن محی الدین الاربلی
 رحمهما الله تعالی فی کتابه تفصیح الخاطر المنقبة الرابعة والستون فی وصیة السید الکبیر السید
 احمد الرفاعی بزیارة الغوث رضی الله عنهما کان یوصی اولاد اخیه واکابر اصحابه بزیارته وقد جاء
 رجل یودعه مسافرا لی بغداد فقال اذا دخلتم بغداد فلا تقدموا علی زیارة الشیخ السید عبدالقادر
 رضی الله عنه شیئا ان کان حیا ولا علی زیارة قبره انکان میتنا فقد اخذ له العهد ایما رجل من
 اصحاب الاحوال دخل بغداد فلم یزره سلب حاله ولو قبل الموت قال والشیخ السید عبدالقادر
 رضی الله عنه حصرة علی من لم ییره رضی الله عنهما انتمی الرابع قال العالم الحدیث الشیخ عبدالحق
 الدهلوی رحمه الله علیه فی کتابه زیادة الاسرار ولقد کان الشیخ احمد یوصی اولاد اخته و
 اکابر اصحابه وجاء رجل یودعه مسافرا لی بغداد فقال اذا دخلتم بغداد فلا تقدموا علی زیارة
 الشیخ السید عبدالقادر شیئا انکان حیا ولا علی قبره انکان میتنا والشیخ احمد رحمه الله علیه
 کبار الاولیاء رضی الله عنهم انتمی الخامس قال الامام عبدالله الیافعی فی کتابه تکیمة خلاصة
 المفاحیر وفرمو چون شما در بغداد و آریه پس مقدم مدارید بر زیارت او زیارت بیکس از زنده و فرمود
 که با او عهد شده است هر صاحب حالی را که در بغداد و آریه زیارت او نکند سلب حاله انتمی السادس قال
 العالم المحقق المدنی محمد عیون الخاطب بشفرف الملک رحمة الله تعالی و نیز راوی مذکور میگوید که شیخ احمد رحمه
 علیه وصیت میکرد به خواهر زادگان و اکابر اصحاب خود و مریدیکه برای سفر بغداد رخصت چون به بغداد و آریه
 پس مقدم نکنید بر زیارت شیخ سید عبدالقادر رضی الله عنه هیچ چیزی را که روی زنده باشد و نه بر زیارت
 قبر او که مرده باشد تحقیق برای او عهد گرفته شده است که هر که از اصحاب احوال داخل بغداد شود و زیارت
 او نکند سلب کرده شود حال او اگر چه پیش از موت او باشد و شیخ سید عبدالقادر رضی الله عنه حضرت است
 در حق کسی که زیارت او نکند بدانکه شیخ سید احمد بن ابی الحسن رفاعی بکسر او و کسر عین جمله رحمة الله علیه از اعیان

مشایخ عراق و اہل اعرافان و عظام جمعان و صد و مقرر بان است صاحب مقامات علیہ و جلالات
 عظیمہ و کرامت جلیہ و احوال سنیہ و انحال خارقہ و انفاہ صادقہ و فتح مونیق و کشف مشرق و قلب انور و
 سرانہر و قدر اکبر و معارف باہرہ و خفایق زاہرہ و لطایف شریفہ و حکم مبینہ و اشارات سامیہ بود و مکان
 مکیں و در قرب و مجلس مصدر از حضرت قدس و طور رفیع و رنگین و قدم راسخ و در تصرف نافذ و بر اعطوبیل
 و احکام ولایت و ہشت انتہی السابع قال العالم بدرالدولة قاضی محمد صبغتہ اللہ فی کتابہ نورا الجواہر
 وھی بالہندیہ روایت ہے شیخ ابی محمد بطایحی سے کہی کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمیشہ زاد و ن کو
 اور اپنے بڑے مرید اور جو شخص بغداد کے سفر کی رخصت چاہے تو وصیت کرتے جب تم بغداد کو پہنچنے اگر
 شیخ سید عبدالقادر زندہ ہو تو حضرت کی ملاقات پر کسی کو مقدم مت کرو اگر حضرت کی وفات ہوئی ہے تو
 اوٹھون کی قبر کی زیارت پر کسی کے قبر کی زیارت نہ کریں اور اصحاب احوال سے عہد لیا گیا ہے کہ جب بغداد
 کو جاویں اور حضرت کی زیارت نہ کریں اگرچہ حضرت کی وفات ہوئی ہو تو اسکا حال سب کیا جاوے گا
 اور شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی جسے زیارت نہ کی تو اسکو حسرت ہے انتہی **الفصل الثالث**
 قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جرید اللہ الشطونی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ
 فی کتابہ بحجۃ الاسرار اخبارنا الشریف ابو عبد اللہ ابن شیخ ابی العباس الخضر بن عبد اللہ الحسینی
 الموصلی رحمۃ اللہ علیہ قال سمعت ابی یقول کنت یوما جا لسابین یدی سیدی الشیخ محی الدین
 عبدالقادر رضی اللہ عنہ فخطرت قلبی زیارۃ الشیخ احمد الوفاشی رضی اللہ عنہ فقال لی الخب
 زیارۃ الشیخ احمد قلت نعم فاطرق سیرا ثم قال لی یا خضرہا الشیخ احمد فاذا انا بجانبہ فزأیت شیخا
 مہابا فتمت الیہ وسلمت علیہ فقال لی یا خضر ومن یری مثل الشیخ عبدالقادر سیدا الاولیاء
 ینمتی رؤیہ مثلی وهل انا الا من رعیته ثم قاب و بعد وفات الشیخ انھدرت من بغداد الی امر
 عبیدہ لا زورہ فلما قدمت علیہ اذا هو الشیخ الذی رأیتہ فی جانب الشیخ سیدی عبدالقادر
 رضی اللہ عنہ فی ذلک الوقت لم تجد درویتہ عندی زیارۃ معرفۃ بہ فقال لی یا خضر لک کفک
 الاولی انتھی الثالثی قال العالم الشیخ عبد الحق الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبذہ الاسرار

ومنها ما نقل عن الشریف ابی عبد الله بن الشیخ ابی العباس الخضر الحسینی الموصلی قال سمعت
 ابی یقول كنت جالسا بین یدی سیدی الشیخ محی الدین عبدالقادر رضی الله عنه فخطرت
 نفسی زیارة الشیخ احمد بن الرفاعی رحمة الله علیه فقال الشیخ اتحب زیارة الشیخ احمد قلت
 نعم فاطرق یدی سیارته قال لی یا خضر ما تری الشیخ احمد فاذا الی جانبه شیخ مهاب فقلت الیه و
 سلمت علیه فقال لی یا خضر ومن یری مثل الشیخ عبدالقادر سیدا اولیاء یتیمی رویة مثلی
 وهل انامن رعیته ثم غاب انتهى الثالث قال الشیخ محمد بن محی الثانی الحنبلی رحمة الله علیه فی
 کتابه قلائد الجواهر قال الشیخ محمد بن الخضر سمعت ابی یقول كنت یوما جالسا بین یدی سیدی
 الشیخ عبدالقادر رضی الله عنه فخطرت فی نفسی زیارة الشیخ احمد لورفاعی فقال یا خضر توی الشیخ
 احمد فظنرت الی جانبه شیخ مباب وسلمت علیه فقال لی یا خضر من یری الشیخ عبدالقادر سیده
 اولیاء الله تعالی یتیمی رویة مثلی وهل نا الامن رعیته ثم غاب بعد وفاة الشیخ رحمة الله علیه
 اخذت الی ععبدة الازوره فلما قدمت علیه اذ هو الشیخ الذی رأیت الی جانبه الشیخ سید
 عبدالقادر رضی الله عنه فی بغداد فقال لی یا خضر اتر تکفک الاولی انتهى الرابع قال العالم
 فی کتابها الفخر محمد غوث الخاطب بشف الملک حمزة الله علیه مریت از شریف ابی عبد الله محمد بن شیخ ابی العباس
 الخضر بن عبد الله الحسینی الموصلی رحمة الله علیه کثینم از پدر فو کفیت کثینم بودم روزی پیش شیخ
 محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنس در دل من اراده شیخ احمد رفاعی رحمة الله علیه شیخ محی الدین سید عبدالقادر
 رضی الله عنه فرمود آیا بخوای زیارت شیخ احمد کفتم آری پس اندکی سرفرو کرد و گفت ای خضر بین شیخ
 شیخ احمد را نگاه بازوی وی رضی الله عنه پیری بله بستی و وقار آیتاده است برای تعظیم او بر خاستم و
 بروی سلام کردم و گفت ای خضر کیسکه بیند مثل شیخ عبدالقادر که سیدا اولیاء است باز تمنا کند و بدین
 مثل من و بستم من مگر عیت او پتر غائب شد بعد از فوات شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی الله عنه بر
 زیارت شیخ احمد رفتم برام عبیده در آمد چون نزد او رفتم همان پیرست که بازوی شیخ محی الدین سید عبدالقادر
 رضی الله عنه دیده بودم پس از رویت مجدد او معرفتش نزد من زیاده شد وی گفت ای خضر آیا کفایت

زارویت اولی انتہی ترجمہ کتاب ہجرت الاسرار و دوم زبدۃ الاسرار سیوم قلائد الجواہر چہارم انہار المغاخر
 یہ چہار کتابوں کا ترجمہ یہ ہے روایت کرتا ہے شریف ابو عبد اللہ ابن شیخ ابی العباس المنصور بن عبد اللہ
 حسین موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ میں ایک روز در مجلس حضرت شیخ سید عبد القادر کی روبرو بیٹھا تھا
 اور خطبہ ہمارے دل میں گذرا کہ زیارت شیخ احمد رفاعی کی کروں حضرت شیخ سید عبد القادر رضی اللہ عنہ
 کہا کہ تو چاہتا ہے زیارت شیخ احمد ہم نے کہا ہاں پس حضرت سر جھکاکے اندک ساعت کے بعد فرمایا یا خضر
 یہ ہے شیخ احمد پس دیکھا میں نے شیخ احمد کو شیخ عبید ابو بکر ہامیت والامین نے سلام کیا کہا مجھ کو شیخ احمد نے
 یا خضر تو دیکھا ہے سید عبد القادر سر وارو لیا رکھو پھر آرزو کرتا ہے دیکھنا میرا مگر میں رعیت ہوں انکی پھر
 غائب ہو گئے پھر بعد وفات حضرت شیخ سید عبد القادر قدس سرہ ام بلیدہ کو میں گیا واسطہ زیارت شیخ
 احمد کے پس زیارت کیا وہ شخص ہے جو دیکھا تھا حضرت شیخ سید عبد القادر کے پاس کہتا ہے مجھ کو کہ تم کو
 زیارت اول کفایت دیکھنا میں نے کہا کئی زیارت کروں انتہی **الفصل الرابع** قال العالم
 الشيخ محمد بن يحيى التادفي المنبلي رحمه الله عليه في كتابه قلائد الجواهر وقال الشيخ عبد الرحمن
 بن ابى الحسن طلى البطائحي الرفاعي قدمت بغداد وحضرت الشيخ محي الدين سيد عبد القادر
 سلام الله عليه فوايت من حاله وفراغ قلبه وخلوسه ما اذهلني فلما رجعت الى امر عبيدة
 اخبرت خالي الشيخ احمد عه بذلك فقال يا ولدي من يطيق مثل قوة الشيخ سيد عبد القادر وما
 وصل اليه انتمهي الثاني قال العالم الشيخ احمد بن الشيخ محمد لوتري الشافعي الرفاعي رحمه الله في كتابه روضة الناظرين
 قال الواسطي قال شيخنا الامام عز الدين احمد القادر في كان السيد ابو ابيهم الاغرب الرفاعي
 رحمه الله عليه يقول الشيخ السيد عبد القادر الجميل احدا الصديقين المقربين الى الله اليوم
 وروى لنا ايضا ان السيد محمد الدولة عبد الوحيم بن السيد الجليل سيف الدين عثمان
 الرفاعي رحمه الله تعالى كان يقول دخلت بغداد ورايت الشيخ سيد عبد القادر الجميلاني من
 خلوسه وطهارة قلبه وسلامة خاطره ما طويت له فلما رجعت من سفري ذكرت لذات
 لخالي السيد الكبير احمد الرفاعي رضوان الله عنه فقال الشيخ السيد عبد القادر وعبد صادق في حال

وعبارك فی شانہ حامل بعلہ ولہ نصیب من التوفیق انتمی الثالث قال العالم الشیخ عبدالحق
 الدهلوی رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ زبدة الاسرار ونقل عن الشیخ ابی الفرج عبد الرحیم
 یقول قدمت بغداد وحضرت سیدی الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ فرأیت من حالہ
 و فراغ قلبہ و خلوسہ ما اذہلنی فلما رجعت الی ام عبیدہ اخبرت خال الشیخ احمد بذلك
 فقال یا ولدی ومن یطیق مثل قوۃ الشیخ السید عبدالقادر وما هو علیہ وما وصل الیہ
 انتمی الرابع قال العالم الشیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخی الشافعی
 رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ ہجۃ الاسرار قال اخبرنا الشیخ العارف نجم الدین ابوالعباس احمد
 ابن الشیخ القدوة ابی الحسن علی البطائی الرفاعی قال سمعت عمی الشیخ ابی الفرج عبد الرحیم
 یقول قدمت بغداد وحضرت الشیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ فرأیت من
 حالہ و فراغ قلبہ و خلوسہ ما اذہلنی فلما رجعت الی ام عبیدہ اخبرت خالی الشیخ احمد
 رضی اللہ عنہ بذلك فقال یا ولدی ومن یطیق مثل قوۃ الشیخ سید عبدالقادر وما هو علیہ
 وما وصل الیہ انتمی الخامس قال العالم محمد عوف رحمۃ اللہ فی کتابہ انوار المفاخر موی از شیخ
 نجم الدین ابی العباس احمد بن شیخ ابی الحسن علی بطائی رفاعی رحمۃ اللہ علیہم کہ شنید از عم خود شیخ ابی الفرج
 عبد الرحیم را میگفت کہ آدم ببغداد و حاضر شد م نزد شیخ محی الدین سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ پس
 دیدم از حال او و فراغ قلب او و خلوسہ او و آنچه مرا حیران کرد پس باز آدم بسوی ام عبیدہ و
 خبر دادم از آن حال شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ما وی گفت ای پسر کہ ام کس قوت دارد مثل قوت
 شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ و راہی کہ وی بر آنست و بدان رسیدہ است انتہی ترجمہ قلائد الجواهر
 دوم و ضمتہ الناظرین سیوم زبدة الاسرار چہارم ہجۃ الاسرار نجم انہار المفاخر کا ترجمہ یہ ہے روایت
 ہے شیخ عارف نجم الدین ابوالعباس احمد بن ابی الحسن بطائی قدس سرہ سے کہ جب میں خدمت حضرت
 شیخ محی الدین سید عبدالقادر کے خدمت میں حاضر ہوا پس دیکھا میں حال او نکا و فراغ دل نکا و دست نکا
 پھر میں نے مراجعت کی ام عبیدہ کو آیا خبر دی شیخ احمد قدس سرہ کہ پس کہا خالو شیخ احمد رحمۃ اللہ فیہ

بيتي ميري كون طاقت ركشاه ما نند طاقت شيخ سيد عبد القادر رضي الله عنده **الفصل**
الخامس في بيان نسبة الشريف الشيخ السيلح الكبير الوفاي رحمة الله عليه مع اختلاف عبارات
 الكتب التي منها الاول قال العلامة شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في تاريخه سيدنا
 الشيخ الكبير محي الدين ابو العباس احمد بن الوفاي لم يبلغنا انه اعقب كما جزم به غير واحد
 من الائمة المرضية ولم اعلم له نسباً صحيحاً الى علي بن ابي طالب ولا الى احد من ذريته الاطفا
 وانما الذي وصل اليه وساقه الحفاظ وصح لدنيا انه ابو العباس محمد بن محمد بن ابي الحسن علي بن
 احمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة المغربي الاصل العراقي البطايحي الوفاي نسبة الى جده الا
 علي رفاعة قدم والده ابو الحسن من بلاد المغرب فسكن البطايح من العراق في قرية يقال
 لها امر عبدة ثم تزوج باخت منصور والزهة فعلقت منه بالشيخ احمد ومات ابو وامه
 حامل به فولدته في المحرم سنة خمس مائة فكفله خاله واخذ عنه وعن ابي الحسن علي القاري
 الزاهد وغيرهما وصار قدوة العاديين واحداً ولياً المشهورين قوفي بعد وفات الشيخ عليه السلام
 نحو سبع عشرة سنة في يوم الخميس من جمادى الاولى سنة ٤٠٨ هـ بالبطايح انتهى الثاني قال العلامة
 المشهور ما مر العيني في الجزء السابع من تاريخه عقداً للجحان في تاريخ اهل الزمان عند ذكر حواد
 سنة ٤٠٨ هـ ابو العباس بن ابي الحسن علي بن ابي العباس احمد المعروف بابن الوفاي كان رجلاً
 صالحاً شافعي المذهب وكان متواضعاً سليم الصدق ومجرباً من الدنيا وما ادخر شيئاً قط و
 ذكر عبارة ابن خلكان انه اصله من العرب وانه لم يعقب وانما العقب لاجنيه وذكر للاصحاب
 احوال الى ان قال ويقومون في محلهم سماعاً ووقفاً بافواع الشهيقة والزفير والبعجة من تزييد
 افواهم ونحو ذلك من الاشياء المنكرة المبتدعة والرفاعي بكسر الواو نسبة الى رفاعة اما
 احمد واما رفاعة اسم قبيلة فانهم ملخصاً انتهى الثالث قال لعالم القاضي احمد الشهيد
 بابن خلكان عليه رحمة الله تعالى المنان في تاريخه وفيات الاعيان وابناء الزمان في الجزء
 الاول صفحة ابو العباس احمد بن ابي الحسن علي بن ابي العباس احمد المعروف بابن الوفاي

كان رجلا صالحا فبقها شافعي المذهب اصله من العرب وسكن في البطايح بقريه يقال لها ام
 عبيده و انضم اليه خلق عظيم من الفقهاء واحسن الاعتقاد فيه وتبعوه والطائفة المعروفة
 بالرفاعية والبطايحية من الفقهاء منسوبة اليه ولا تباعه احوال عجيبة انتهى الرابع قال العالم
 العارف القطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعرا في رحمة الله عليه في الطبقات الكبرى
 المسماة بلوائح الافوار في طبقات الاخبار في الجزء الاول صفحة ١٣٩ ومنهم الشيخ احمد بن ابي الحسين
 الرفاعي رضي الله عنه منسوب الى بني رفاعه قبيلة من العرب وسكن بام عبيدة بارض
 البطايح الى ان مات رحمه الله تعالى الخ انتهى الخامس قال العالم الشيخ السيد الشبلنجي الشافعي
 المدعو بمومن من اصحاب عيني رحمه الله تعالى في كتابه فنون الابصار في مناقب آل بيت النبي
 المختار فالاول من السادة الاشراف الاربعة سيدي احمد بن الرفاعي قال المتاوي في الطبقة
 السادسة من طبقاته سيدي احمد بن يحيى بن حازم بن رفاعه امداد الاولياء المشايخ المشاهير
 ابو العباس الرفاعي المغربي شريف بن روض شرفه وهي على العالم غيث سلفه سيدي اجليلا
 صوفيا عظيما نبيلاً قدم ابوه العراق وسكن بام عبيدة بارض البطايح وولد له صاحب الترجمة
 سنة خمسماية ونشأ بها وتفق على مذهب الامام الشافعي رحمه الله عليه الخ انتهى السادس
 قال العالم الشيخ محمد بن يحيى التاد في الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب ثلاث الجواهر قال الشيخ
 شمس الدين سبط ابن الجوزي في تاريخه هو احمد بن علي بن احمد ابو العباس الرفاعي شيخ البطايحين
 كان يسكن ام عبيدة وكان له كوامات ومقامات اصحابه يوكيون السباع ويلعبون بالحيات و
 يتسلق احداهم في اطول النخل ثم يلقي نفسه الى الارض ولا يتألم ويجمع عنده في كل سنة في الموم
 خلق عظيم وقال قاضي القضاة مجيب الدين عبد الرحمن العمري العلي بن الحنبلي المقدمي في
 تاريخه المعتبر في ابناء من عبر ابو العباس احمد بن ابي الحسن علي بن ابي العباس احمد المعروف
 بابن الرفاعي كان شافعي المذهب واصله من العرب وسكن بالبطايح بقريه يقال لها ام
 عبيدة قوله شعرمه : اذا جن لي لي قبلي لذكركم : افوح كما نوح الحمام المطوق - الى اخيه وهو

مشهور توفى يوم الخميس ثانی عشر جمادى الاولى سنة ثمانین وخمساًته بامر عبدة وهو فى
عز ش تسعين والرقاعى بكسر الزاء نسبة الى رجل بالمغرب يقال له رفاعه وام عبدة والبطايح
قوى مشهور بين واسطة والبصرة ولما شهرة بالعراق وقال العلامة شمس الدين بن ناصر
الدمشقى سيدى الشيخ الكبير محى الدين سلطان العارفين ابوالعباس احمد بن الرفاعى لم
يبلغنا انه اعتقب كما جز مر به غير واحد من الائمة الرضية ولم اعلم له نسباً صحيحاً الى على بن
ابى طالب ولا الى احد من ذريته الاطايب وانما الذى وصلنا لينا ساقه الحفاظ ومع لدينا
انه ابوالعباس احمد بن الشيخ ابى الحسن على بن احمد بن يحيى بن حازم بن على بن رفاعه المغربى
الاصل العراقى البطايحى الرفاعى نسبة الى جده الاصل رفاعه قدم والده ابوالحسن رحمة الله
عليه من بلاد المغرب فسكن البطايح من العراق فى قرية يقال لها ام عبدة ثم تزوج بنت
الشيخ منصور الزاهد فعلمت منه بالشيخ احمد ومات ابوه وامه حامل به فولدت له فى الحرم
سنة خمسائة فكفله خالة واخذ عنه وعن ابى الحسن على القارى الزاهد وغيرهما وصار
قدوة العارفين واحداً ولياء المشهورين توفى بعد وفات الشيخ السيد عبد القادر رجبو
سبع عشرة سنة فى يوم الخميس من جمادى الاولى سنة ثمان ومسبعين وخمساًته بالبطايح
انتمى كلامه لمخضار رحمة الله عليه وقال جدى لابي قاضى القضاة جمال الدين ابوالحسن
يوسف التادى الربيعى الانصارى الحنبلى قبحه الله بوجته فى مؤلف له ومن خطه نقلت هو
احمد بن على بن احمد يحيى بن حازم بن على بن ثابت بن على بن الحسين الاصغر بن المهدي بن محمد بن القاسم
بن موسى بن عبد الرحيم بن صالح بن يحيى بن محمد بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن الامام
جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام على زين العابدين بن الامام حسين بن الامام
على بن ابى طالب رضوان الله عنهم انتمى السابع قال لعالم الشيخ احمد بن محمد لوتوى قدس
سره فى كتابه روضة الناظرين هو سيد ناسيد احمد بن السيد على بن الحسن ودفن راس
القرية ببغداد بن السيد يحيى نقيب البصرة المهاجر من المغرب ابن السيد ثابت ابن

السيد الحازم وهو على ابو الفوارس ابن السيد احمد بن السيد علي ابن السيد الحسن
 رفاعه الهاشمي المنكي نزيل بادية اشبيلية بالمغرب ابن السيد مهدي ابن السيد ابي
 القاسم محمد بن السيد الحسن ابى موسى رئيس بغداد نزيل مكة ابن السيد الحسن الرضوي
 بن احمد الاكبر الصالح ابن السيد موسى الثاني ويقال له ابو سجة وابو يحيى ابن السيد ابو ابيهم
 المرتضى ابن الامام موسى الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام
 زين العابدين على الاصفهاني ابن الامام الحسين الشهيد كوبلا ابن الامام امير المؤمنين على
 بن ابى طالب رضی الله عنه وعنهم اجمعين انتهى الثامن قال العالم المولانا عبد الرحمن الجلي
 قدس سره السامی فی کتابه فحاشات الانس وهی بالفارسیة سیدی احمد بن ابی الحسن الرضا
 قدس الله روحه ذو المقامات العلیة والاحوال السنیة خرق الله سبحانه علی یدیه العوام
 قلبه الاعیان واظهر العجائب ولكن اصحابه بهم فقیههم الجید والودی یدخل بعضهم النیران
 ویلعب بالحیات وهذا معرفة الشیخ والصلیاء اصحابه نعوذ بالله من الشیطان وی ازاولاد
 بزرگوار امام موسی کاظم است رضی الله عنه ونسبت خرقه وی به پنج واسطه بشیخ میرسد ساکن ام عبیده
 بو از بطایح انتهى التاسع قال فی الوقایع خلفا الراعیة سیدی احمد بن ابی الحسن الرضا کز اولاد
 امام عالی مقام موسی کاظم رضی الله عنه بود بر یاض جنان انتقال نمود حال حال آنجناب بکالات صورتی
 ومعنوی آرایش داشت و در کتب سلف و خلف از وی کرامات و خوارق عادت بسیار منقول است
 انتهى العاشر قال سلطان دار الشکوه فی کتاب سفینه الاولیاء حضرت شیخ سیدی احمد بن ابی الحسن الرضا
 قدس سره از اولاد واجاد حضرت امام موسی کاظم رضی الله عنه ونسبت خرقه ایشان به پنج واسطه بحضرت
 شیخ بشی قدس سره سرسد حضرت غوث ثقلین رضی الله عنه را دیده اند و در ام عبیده سکونت داشتند
 صاحب کشف و کرامات و مقامات علییه بسیار بزرگ و شافعی مذهب بود و ذابته الحادی عشر قال
 المحقق المدقق محمد غوث الخاطب بشرف الملک حمه الله تعالی فی کتابه انهار المفاخر فی مناقب شیخ سید
 عبید القادر رضی الله عنه ام عبیده بر وزن سفینه قریه است نزدیک واسطه و قبر سید محمد رفاعی در آن است

کذا فی القاموس لفتحی ترجمہ کتب عربی فارسی کا اول کہا سید موسیٰ شبلنجی کی اپنی کتاب نور الالبصار
 بین دوم شیخ محمد بن یحییٰ القادنی نے اپنی کتاب قلادہ الجواہر میں سیدوم کہا شیخ احمد بن محمد و ترمذی الشافعی
 نے اپنی کتاب روضۃ الناظرین میں چہارم کہا مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب
 نفحات النس میں پنجم کہا سلطان داراشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الالباب میں ششم کہا کتاب
 وقایح خلفاء عباسیہ میں ہفتم کہا عالم محقق مدقق محمد غوث الخاٹب شرف الملک نے اپنی کتاب
 انہار الفاضلین کے جناب قطب زمان شیخ سید احمد زفاری رضی اللہ عنہ سادات موسوی ہیں یعنی اولاد
 حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ہیں اور ولی کامل عالم فاضل صاحب کرامات و خوارق عادات
 و صاحب حالات سینتیہ ہیں ان کی بزرگی میں کچھ شک شبہ نہیں ہے اور فقیہ و شافعی مذہب میں فقط
 اوصاف اعلیٰ حد سے زیادہ ہیں اور حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بھی
 ہے اور خلیفہ ہے احوال کتب میں مندرج ہے جسکو دیکھنا منظور ہو تو ملاحظہ فرماوین نقشب مکرین فقط
 اور حضرت جمیع اولیاء اللہ کرام خدائی تعالیٰ جل شانہ کے محبوب اور خاص بندے ہیں جمیع اولیاء اللہ
 مانند ستارے کے ہیں اور حضرت محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ النورانی مانند ماہتاب کے ہیں جو حضرت
 غوث رضی اللہ عنہ کو صفت کرتا ہے افتخار المتأخرین برہان المتقدّمین سید اکرم میر سید محمد شاہ عالم
 قدس سرہ فرماتے ہیں منظوم فارسی میں - بیت

صد چشم و ام خواہم تا در تو بس کرم من | این و ام از کہ خواہم وین چشم خود کراہست
 کاتب حروف اندوخی کمال و عجز و نیاز در حضرت عالمیان این ابیات معروف سید ارد

ابیات

<p>مہ من مجمع خوابان بکسی ترا چہ نسبت بدو دیدہ کی تو انم کہ رخ تو سیر بنیم بتو جان کجا بروی کہ تو شاہ بنی نشانی بہین نوشت جاغم کہ سگ در تو باشم</p>	<p>تو زیادہ تر زماہی دیگران کم از ستارہ دو ہزار دیدہ باید کہ ترا کتم فقط ارہ ز تو جان کجا گریزد کہ تو معدن امانی چہ کتم چہ چارہ سازم اگر از درم برانی</p>
--	--

بچه نسبت کمزبان که شده است در توجیران
به ششای تو زبانم در سید لال کشته

بتو هیچ کس نماند تو به هیچ کس منبانی
پس ازین مگر بگویم به زبانی بی زبانی

در اینها المفاخر آورده که جناب قدوة السالکین زبدة العارفين حضرت خواجه قطب الدین بختيار
اوشی کاکي رحمة الله علیه در شان حضرت محبوب سمائی سید عبد القادر جیلانی رضی الله عنه سنا جاتی منظور

ایشان کرده مطلقش این است ابیات

قبلاً اهل صفا حضرت غوث الثقلین
یک نظر از تو بود و در دو جهان بس مارا
کارهای من سرگشته بسی بسته شده
خاکپای تو بود روشنی اهل نظر
بجانب است که تو لای نسانت دارو
در و مندم همه اسباب شفا مفتو دست
عالم تیره بغربال نظر ریخت ام
بینداخته و لم نیت کسی آنکه در
حضرت کتبه حاجات همه خلق است
مرد دل کشته و نام تو محی الدین است
قطب سئین بسلامی ورت منسوب است

استگیر همه جا حضرت غوث الثقلین
نظری جانب ما حضرت غوث الثقلین
رحم کن بازگشا حضرت غوث الثقلین
دیدم را بخش ضیا حضرت غوث الثقلین
بنمراه خند حضرت غوث الثقلین
کرم تست دو حضرت غوث الثقلین
نیت در دهر وفا حضرت غوث الثقلین
خسته را جز تو و او حضرت غوث الثقلین
حاجتم ساز و او حضرت غوث الثقلین
مردم را زنده نما حضرت غوث الثقلین
واع فرزند نما حضرت غوث الثقلین

آئین و در کتاب کمز الانساب آورده است نسب پیر و ستیگر خواجه قطب الدین اوشی لقب بختيار
کاکي قدس سره سادات موسوی اند و نسب علیله اش این است خواجه قطب الدین بختيار اوشی کاکي رحمة
الله علیه حضرت خواجه مبین الدین حسن چشتی قدس سره ابن خواجه سید کمال الدین اوشی بن سید محمد اوشی بن
سید احمد اوشی بن سید صام الدین ابن سید رشید الدین ابن سید رضی الدین ابن سید حسن معروف ابن سید
محمد تقی ابن سید محمد باجو او ابن سید علی سجاد ابن سید جعفر ثانی ابن حضرت امام علی نقوی رضای الله عنه

ابن امام محمد بن علی کاظم رضی اللہ عنہ ابن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ابن امام محمد باقر رضی اللہ عنہ
 ابن امام زین العابدین علی رضی اللہ عنہ ابن سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ ابن امیر المؤمنین
 علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم جمعین اشقی و تاریخ وفات حضرت خواجه از
 جز اولیٰ صلین تحریر میشود این ست صفحہ ۴۹ فیین بخش جهان بصدق و یقین قطب آفاق خواجه

اسود و در وقت و در عالم	زبد و دود و بی آرام	نقش نجیبا رکابی دان	ہست او بی دلیلین ان
از برج سخت چہار و ہستم	بود کان قطب کجی ہنم	روز ترحیل آن و شنبہ دان	بیشک بسای ستودہ جان
عقل تاریخ نقل آن محمود	آب جنت بقلبین فرمود	باز گو سال نقل آن نامی	روح اللہ روحہ السامی
عمو پتجاہ و چار سالش بود	کان مان سوعدن نقل نمود	مرقد پاک آن بدلی دان	روز شب فاتر و بر خوان
سال نقلش بہ بحر دیگر نیز	بیشکی گشتہ شغو بہ تیز	سال نقل آن ولی نیک خور	بود در و ہر قطب امین گو

الفصل السابع عشر فی بیان استفاضۃ شہادۃ النقشبندیہ السید محمد بن
 محمد البخاری من الغوث الاعظم فی الروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر روایات الاول کان العالم
 المحقق المدقق الشیخ عبد القادر بن محمد الدین الاربعی رحمہ اللہ فی کتابہ تفریح الخاطر ذکر
 الشیخ العارف بالله عبد اللہ السلمی فی کتاب خوارق الاحباب فی معرفۃ الاقطاب فی
 الباب الخامس والعشرين فی ذکر قطب العباد وغوث البلاد وخواجہ بہاء الحق والحقیقۃ
 والدين السيد محمد بن السيد محمد النقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت عن لسان
 خواجگی سرمست وهو سمع عن المشايخ الكاملين المعمرين الساكنين في بلاد بخارا وهو يكون
 ان الغوث الاعظم رضی اللہ عنہ وقف يوما مع جماعة على سطح وتوجه الى طرف بخارا وشتم
 الحجة الكبري وقال بعد وفاتي بمرو ماتت وسبعة خمسين عاما يولد رجل قلنديرى محمدى
 المشرب السمى بجاء الدين محمد النقشبندى ويفوز بنعمه خاصتى نضار كما قال ويروى
 ان شاه النقشبندى لما اخذنا العهد وتلقن عن شيخه السيد امير كيلان قدس سره و امره
 بالاشتغال باسم ذات الملك المتعال وما تمكن فى قلبه نقش الاسم الاعظم وحصل الشاه

منه انقباضاً ثم وخرج الى الصحراء فرأى الخضر عليه السلام جاثياً اليه فستقبله الشاه وسلم
 عليه فقال له الخضر يا بهاء الدين ان الاسم الاعظم وصلني من الغوث الاعظم وانا انبئك
 فتوجه الى خضرته لتفوز عاجلاً ببركته ففي الليلة المستقبله رأى الشاه في المنام حضرت
 غوث الانام وقد اشار باصبع يده اليمنى الى صدره ونقش الاسم الاعظم في باطنه بصره لان
 الاصابع الخمس كنعش لفظه الله ورأى الشاه شيئاً يروى فيه انه فلما اشتم هذا الذكر في
 زياده سأله عنه فقال هذا فيض من الفيوضات وعناية من العنايةات في الليلة المباركة
 التي انعم علي بها الغوث الاعظم من تلك الليلة ادى ازدياد حالى عن الحال المقدم ووجه
 شهرة اسمه بالشاه المنتسبتهى نقش الغوث الاعظم في قلبه وهو ينقش في قلوب الطائفة
 من حنبيه وسألوا منه ما تقول في قول الغوث قد مى هذه على رقبة كل ولئى الله فقال
 بهاء الدين على عيني وعلى بصيرتى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انتهى والثانى قال العالم
 العلامة الشيخ محمد صادق الشهابى السعدى القادري في كتابه المسمى بمناقب الغوثية
 المنقبة الحادية والثلاثون في استفاضه حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ من جناب
 الغوث الاعظم في روايات شريفة العارف عبد الله بنى وكتاب خوارق الاجاب في معرفة الاقطاب
 ودر باب ميت وپيغم در ذکر قطب العباد و غوث البلاد و خواجہ بہاؤ الدین محمد بن محمد نقشبند بخاري قدس
 روحاً آورده است کہ از زبان فيض بيان خواجہ نوحى سرست شنيدم کہ آواز بعضى قلندران ديرين سال
 و عارفان صاحب کمال کہ در بلاد شريف بخارا قامت داشتند نقل ميگردند کہ روزى حضرت سلطان
 الاواليا روبرهان الاصفيار غوث الارض والسما غوث الاعظم شيخ محمد بن سيد عبد القادر جيلاني
 رضى الله عنه ورحمهم فرمودند که بعد از من ليکصد و پنجاه هفت سال گذرد
 شاه بجانب بخارا افتاده شاه شمر کرم عامه نموده فرمودند کہ بعد از من ليکصد و پنجاه هفت سال گذرد
 مردى قلندر محمدى المشرب بوجود آيد بہاؤ الدین محمد نقشبند نام او و نعمت خاصه فايض گردد و بہان نوع
 بنظر وآء ولى تقريب احتمال مرخواجہ نقشبند را از ان جناب فيض آب چنان است کہ چون خواجہ

نقشبند نخستین بلامرت حضرت سید امیر کمال بدست انابت مشرف شدند حضرت امیر بعد از انابتهای
بسیار و اشفا قهای بشمار به تنقل اسم ذات تلقین فرمودند متوجه احوال شان شدند لیکن قصد نقش اسم
اعظم و نیمبر منیر شان نیک گرفتند خواجہ رافضی در تفرقه تام و بی جمع تمام پیش آمد سر بصره نمود و چو می بیند که حضرت
خواجہ خضر علیہ السلام گفت مرا ای خواجہ بهار الدین مرا اسم اعظم از حضرت محبوب بجانی شیخ شیخ الدین سید
عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رسیده است و ترمای آگاهانم که بحضرت ایشان توجه آرید روزگار شما
ساخته شود پس در همان شب بجان جهان آرای شیخ الاقطاب سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مشرف
گشتند حضرت ایشان انگشتان دست راست خود را که نقش اسم ذات در او پیدا بود بطرف خواجہ نمودند
بجز و دیدن آن نقش در ظاهر و باطن ایشان منقش شد که هر شبی در نظر ایشان مخصوص همین اسم پیدایی
شد حتی اگر در وقت بافتن کیمز آب اسم ذات بجای گلهای وی منقوش میگردد چنانچه این ذکر درین باب
شهرت گرفت بعضی از اسم زازان استفسار نمودند خواجہ ما فرمودند که این قسم فیض از فیوضات و عنایات
آن شب مبارک است که حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ در حق ما از زانی داشت و در هر کس
احوال خود را از برکات توجه آنجناب افزون ببینایم و وجه شهرت خواجہ ما به نقشبند زازان وقت است
که حضرت غوثیه مجوی رضی اللہ عنہ نقش اسم اعظم را در باطن ایشان بستند و خواجہ ما در ولایات مخلوق خدا
می بیند انکه محمد علی نعمان خواجہ در قصر عارفان بودند از حضرت شان در قول حضرت غوث رضی اللہ
که قدمی علی رقیبه کل ولی اللہ است پرسیدم که هرگز و نهیای جمیع اولیای زمان دارند فرمودند که از مضمون
کلام حضرت شیخ الانام غوث محبوب بجانی رضی اللہ عنہ چنین می برآید که خواجہ ما چون خواجہ یوسف
همدانی قدس الشریف العزیز در آن زمان بودند قبول کرده گردن نهاده اند و بهار الدین میگوید قدمه
علی عینی او علی بصوی او بصیرتی وفات حضرت خواجہ نقشبند در سال هفت صد و نود و یک
و قوع است اهتبی از قصر عرفان ماده تاریخ است و زنده کرده موسی خانی آورده بدانکه نسب شریف حضرت
خواجہ بهار الدین سید محمد نقشبند قدس الشریف العزیز است حضرت خواجہ بهار الدین نقشبند قدس سره
نام ایشان سید محمد است بن سید جلال الدین محمد بن سید برهان الدین محمد بن سید خان بن سید علی الدین

مدرسه سیدیه

مساحت

بن امیرترین العابدین محمد بن سید امیر قاسم بن سید امیر سفیان بن سید امیر بزبان الدین محمد بن امیر سید
 محمود و رومی جامع بن سید امیر اطلاق بن سید امیر تقی بن سید امیر خاندان بن سید امیر فیروز الدین
 محمد بن سید محمد امیر کبیر بن سید تقی اکبر بن حضرت امام حسن عسکری بن امام علی نقی بن امام علی تقی بن امام
 علی موسی رضان امام موسی کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین
 علی بن سید الشهدا امام حسین بن امیر المؤمنین علی المرتضی رضی الله عنهم جمعین و جناب حضرت بهار الدین
 سید محمد شاه نقشبند قدس الله سره الغر زید حضرت سید امیر کلال اندوایشان یه حضرت خواجه بابا سید
 محمد ساسی اندوایشان مرید حضرت خواجه محمود و ابوبکر بغدادی اندوایشان مرید حضرت خواجه یزید یوگری اند
 وایشان مرید حضرت خواجه جهان خواجه عبدالخالق عجد یوالمی اندوایشان مرید حضرت خواجه یوسف
 بهمانی اندوایشان مرید حضرت خواجه ابوعلی فارمدی اندوایشان مرید خواجه شیخ ابوالحسن خرقانی
 اندوایشان از حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطامي وایشان از حضرت امام جعفر صادق رضی الله
 عنه وایشان از جد مادری خود حضرت قاسم بن محمد بن امیر المؤمنین ابوبکر الصديق رضی الله عنه
 از فقهای سبعة مدینه منوره و از اکابر تابعین اندوایشان از حضرت سلمان فارس وایشان با وجود
 صحابه بودن و شرف صحبت یافتن بعیت طریقت از حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر الصديق رضی الله
 عنه کرده اند و جناب ایشان اذن و ارشاد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته اند و خلیفه اول
 حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اند تا تاریخ حیات حضرت خواجه بهار الدین سید محمد شاه نقشبند قدس
 سره الغر زین است که در مجر الواصلین آورده است -

بسم الله الرحمن الرحیم
 این کتاب در بیان احوال و مناقب ائمه اطهار و اولاد ائمه اطهار است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه اربعین است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه هدی است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه مجتهدین است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه فاضلان است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه صالحین است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه سادات است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه اولاد است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه اصحاب است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه تابعین است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه مفسران است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه شاعران است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه مدققان است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه فاضلان است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه صالحین است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه سادات است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه اولاد است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه اصحاب است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه تابعین است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه مفسران است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه شاعران است
 و در بیان احوال و مناقب ائمه مدققان است

<p>انکه خلوت در آنجمن دارد سفر و سیر و وطن دارد عالم عالم اول ثانوی کاشف نکته خدا وانی نفسش از حق مرهوب و جدا پیش از پیش و پشت یا خدا آن مرادنی که در دلت باشد و آن سید کیه مشکلات باشد و شرب است خواج صدیقی سکر است مرد زندیقی</p>	<p>پیشو طریق صدق یقین رهنمای روضه طلبی مقصد طریق صدق و صواب خواج نقشبند را در باب می بر آید ز عون او شیک گر چاره و صدمت درده و یک یافت از روضه عقدا کمال نعمت از سید امیر کلال</p>	<p>نقشبند جهان بهار الدین محمودات نبی و آل نبی خواج نقشبند را در باب گر چاره و صدمت درده و یک نعمت از سید امیر کلال</p>
--	---	---

از برنج نخست بود دوم	باز از وی انجلیف میوم	شب و شب آن بی جهان	ش بگر آه سوی جهان
سال تاج نقل آن محمود	خرم خاص اهل دین فرمود	سال نقش که بزگوهر شست	مقل او بهشت و الا کشت
شده تاریخ آن مکمل حق	آمده نقشه بر سحر حق	باز تاریخ آن خدا آگاه	شده رقم قلب او خلد آه
و بخار است مرقد و آلاش	چون سخاست فیض تو لاله		استی

الفصل الثامن عشر فی بیان اما الزیارة القوربیتة الاستمداد جائز كما ورد فی کتب
 المعترات من الفقهاء الکاملین و المحدثین و المشائخین و المفسرین فانظر یا اخي و انصف
 الاول قال العالم المحدث المدقق مولانا علی القاری رحمه الله الباری فی ثلث کتب الاول
 فی شرح عین العلم و الثاني فی المرقات شرح المشکوة و الثالث فی التفسیر شرح المناسک و الثاني
 قال العالم المحدث الشیخ عبد الحق الدهلوی فی شرح المشکوة و بی النفاذ سیمیه و الثاني فی
 شرح سفر السعادت و الثالث فی تکمیل الایمان صادره کتبا و السابع فی شرح البرزخ و الثاني
 فی مرقات الوصول شرح فواد الاصول و التاسع قال الامام عبد الوہاب المناری فی کتب
 المتخایق و العاشر فی شرح البرزخ للسيوطی و الحادی عشر فی اصل الاخبار و الثاني عشر فی جواهر
 النفس فی شرح دوهم الکیس و الثالث عشر اذ للیب و الرابع عشر فی فتاوی فیروز شاهی
 و الخامس عشر فی روضة الناظرین و السادس عشر فی زبدة الاقار و السابع عشر فی جذ
 القلوب و الثامن عشر فی تفسیر فتح العزیز و التاسع عشر فی وقایع خلفاء العباسیة و العشر
 ووض الیاحین للامام علیه السلام الحادی و العشرین فی هدیة الحرمین و جاء العبارات الکتب
 المذكورة فی هذا الاسم فیتاء و هی بالنفاذ سیمیه سوال علمای دین شیخ حسین بن محمد بن یوسف
 استمد یعنی مد و خوستن از وی آرا لکر هم از الله تعالی جائز هست مثل جناب امام موسی کاظم رضی الله عنه
 و جناب سراج الامة و الدین امام عظیمه ابو ضیفه نعمان رضی الله عنه و حضرت شیخ مفید و حضرت
 غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر گیلانی فی کتب النورانی رضی الله عنه و انجلیف اولیاءه و کرام
 خوستن جائز هست یا نه ببینوا و جن و ارحمهم الله تعالی الجواب هو الحق بالصواب استمد یعنی مد و

نحو سمن از اولياء الله انكرهم الله الى يوم القيام مثل امام موسى كاظم رضی الله عنه و امام اعظم ابوحنيفة نعمان
 رضی الله عنه و شيخ معروف كرخي و شيخ سيد عبدالقادر جيلاني رضی الله عنهم جميعين و جميع اولياء الله الكرام جائز و
 صحيح و ثابت است از كتب معتبرات ثقات مذكوره كه اسامي آن فوق تحریر یافته است ثبات و تحقق
 است عبارات كتب بحسب سطور الذيل است بنظر انصاف و لا حظه بايد نمود و احتماق را از دست نبايد
 واو و عمل بايد كرد الاول في جوهر النفيس شرح درهم الكيس و اما الزياره بينة الاستعداد والحاجة
 من اهل القبور غير نبينا محمد عليه الصلوة والسلام وغيره من الانبياء عليهم السلام انكل
 كثير من الفقهاء كل الانكار فيقولون ليس زيارة الالدعاء والاستعداد للموت و انتفاع
 لهم بالدعاء و تلاوة القرآن و انواع الخيرات فقط و اثبت الاستعداد باهل القبور بعض
 الفقهاء المحققين و كلهم من مشايخ الصوفية لاسيما عند اهل الكشف و الكمال مقرون
 بالقبوض و الفتح من ادواهم و قال الشافعي رحمه الله عليه ان قبر امام موسى كاظم رضی
 الله عنه من اولاد علي كور الله وجهه من الفاظ ترميق مجرب لاجابة الدعاء الحاجة قال
 الشيخ امام محمد الغزالي رحمه الله عليه يكون الاستعداد من قبر موسى كاظم رضی الله عنه
 بعد الموت كاستمادته في الحيوة و قال بعض المشايخ راينا قبر الشيخ معروف الكرخي هو من
 تلاميذ ابوحنيفة رحمه الله تعالى عليه و الشيخ السيد عبدالقادر جيلاني قدس الله سره
 تصرفوا كما تصرفوا في الحيوة و قيل اذا حبس المطالعة في الفقه عند قبر ابوحنيفة رحمة
 الله عليه افتتح الله تعالى علم نافع من ابواب الفقه و كثيرا من المتأخرين فيضوا من زيارة
 ابوحنيفة رحمة الله عليه ان ابوحنيفة رحمة الله اب الفقه و اب يوسف رحمة الله و ام
 الفقه و محمد ^{عليه السلام} ظهر الفقه و حسن رحمة الله و عا الفقه و زفر رحمة الله و داء الفقه و غيرهم
 من المتقدمين ميزان الفقه و المتأخرين تجار الفقه و المدهسون متاع الفقه و ^{المقبولين}
 سمسار الفقه فاستدلوا من اقرب استمداد القبور بقوله صلى الله عليه وسلم و اذا خيرتم
 في الامور فاستعينوا باهل القبور بان يقف الزائر من و داء القبر مستقبل القبلة

دعا

مقبول

فيقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والسلمة والاسلام
 منهم والاموات يا الهى بجمعة صاحب هذا القبر ان كان له عندك الوجاهته اقض
 حاجتى كذا فى امح الاخبار وفى شرح امنيته الاولياء قد يظهر بعد الموت فقد جاء فى
 حديث القدسى اولياي لا يموتون بل ينقلون من دار الى دار فالاستعداد بهم جائز كذا
 فى الفوائد وفى نافع المسلمين انتهى والثانى فى شرح عين العلم لوالينا على القارى رحمه
 الله البارى زيارة القبور فانها تنكر العقبي وتزهد الدنيا وينها عبرة لارباب الصدق
 روى اذا تخيرتم فى الامور فاستعينوا باهل القبور انتهى شرح عين العلم صفحه ١٠٠ والثالث
 قال الامام عبدالرؤف المناوى فى كنوز الحقائق اذا اعينكم الامور فعليكم باصحاب القبور
 فزوروا وهارواه مسند فردوس الديلى انتهى الرابع قال فى مراتب الوصول صفحه ١٥
 شرح نوادر الاصول للحكيم الترمذى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تخيرتم
 فى الامور فاستعينوا من اهل القبور انتهى والخامس قال فى شرح البرزخ وروى عن ابن
 مسعود رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تخيرتم فى الامور
 فاستعينوا من اهل القبور قال رضى الله عنه حملوا العلماء الحديث على ظاهره اى اذا
 اشكل عليكم امر من الامور الدنيا وتخيرتم فى تدبيره فزوروا قبور المتبركين واستعينوا
 هم فى ذلك لعل الله شفعم فيكم فان شفاعة الموقى قد ثبتت بالاجبار والاثار اكثر من ان
 يحصى واصحاب التاويل اولوه بالعبارة فان القبور تذكرة للاخرة ويقلل الدنيا فى اعينهم
 فكانها اعانة انتهى السادس قال فى هدية الحرمين الباب الحادى عشر فى الاستعداد
 عن اهل القبور فى فتاوى زاد للبيب وخزانة الجلالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اذا تخيرتم فى الامور فاستعينوا من اهل القبور انتهى العوي عبدالحكيم الدهلوى السابع
 قال فى فتاوى فووز شاهى ذكر فى استمداد اهل القبور عن النبى عليه الصلوة والسلام
 اذا تخيرتم فى الامور فاستعينوا من اهل القبور اما الاستمداد فى اهل القبور فى غير النبى

عليه السلام والانبيا عليهم السلام فقد نكروه كثير من الفقهاء وقالوا ليس الزيارة إلا الدعاء والموتى الاستغفار لهم واثبت المشايخ الصوفية قدس الله سرهم وبعض الفقهاء وذلك امر مقرر عند اهل الكشف والكمال لا شك عندهم حتى ان كثيرا منهم حصل لهم الفيوض من الارواح وسمى هذا الطائفة اويسية في اصطلاحهم قال حجة الاسلام محمد الغزالي كل من يستمد به في حيوة ويستمد به بعد وفاته وقال احد من المشايخ العظام رأيت اربعة من المشايخ يقصرون في تبوهم كصوف في حيوة منهم اي الشيخ معروف الكرخي والشيخ السيد عبدالقادر جيلاني رحمهم الله عليهما وذكر جليلين غيرهما وهل امداد الحى قوى ام امداد الميت وقيل امداد الحى لانه في بساط الحى والنقل في ذلك كثير عن هذا الطائفة ولم يعرف روه في الكتاب والسنة والاصول ما ينافى ذلك ولم يابره كيف وقد ثبت ان الروح بايته ولها علم وشعور بالزاتين سيما الارواح الموتى الكمال كما كان في الحيوة او اتم به ايضا فيه في باب حكم الاسرار وقد سمعت من مشايخ العظام الاستعانة من الاولياء جائزة في الامور كلها وفي المحيط في فصل المتفرقات فهل ينفع الميت للاحياء ام لا نكلوا فيه من المتوفى وقد جاء عن ابن سماعة رحمة الله عليه انه كان في اكثر الاحوال استعان عن محمد بن الحسن في حالة الممات هكذا نقل الامام حمزة الروايات في فصل الخامس في كتاب السيد زيارة القبور جاثونية فائدة كثير من ان تخص رسالة بريدة ولايشية انه ينفع لان الاجار وورديه كثير القول رسول الله صلى الله عليه ولما اذا تخيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور ايضا قوله عليه السلام اذا تخيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور فانتهى والثامن قال في زاد اللبيب صحفه ٩٢ ذكر في استمداد القبور فعن النبي عليه السلام اذا تخيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور شرح اما الاستمداد باهل القبور في غير النبي عليه السلام والانبيا عليهم السلام فقد نكروه كثير من الفقهاء وقالوا ليس الزيارة إلا الدعاء والموتى والاستغفار لهم واثبت المشايخ الصوفية قدس الله سرهم وبعض الفقهاء وذلك امر مقرر عند اهل الكشف والكمال منهم لا شك في ذلك عندهم حتى ان كثيرا منهم حصل لهم

الغيوض من الارواح وليسمى هذه الطائفة اويسية في اصطلاحهم قال حجة الاسلام محمد الغزالي
رحمة الله عليه كل من يستمد به في حياته ويستمد به بعد وفاته وقال احد من مشايخ العظام
رأيت اربعة من المشايخ يقصرون في قبورهم كقصروهم في حياتهم منهم الشيخ معروف الكرخي
والشيخ السيد عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليهم وذكروا رجلين غيرهما وهما امداد المحي اقوي
امر امداد الميت قبل امداد المحي اقوي لانه في بساط الحق والنقل في ذلك كثير عن هذه الطائفة
ولم يعرف رواه في الكتاب والسنة والاقوال ما ينافي ذلك وما يرويه كيف وقد ثبت ان
الروح باقية ولها علم شعور بالزاتين سيما الارواح الكمل قرب مكان من جانب الحق تعالى
كما كان في الحياة واتم فيه غزفي باب حكم الاسماء واما الاستمداد باهل القبور فقد انكره بعض
الفقهاء فان كان الانكاد من جهة انه لا سماع لهم ولا علم ولا شعور بالزات وحواله فقد ثبت
بطلانه وان كان بسبب انه لا تدرة لهم ولا تصرف في ذلك الموطن حتى يمدوا وهل هم موجودون
عن ذلك ومشغولون بما عرض لانفسهم من الجنة ما فاشغلهم عن عداهم فلا يرى ذلك كليا
خصوصا في شأن المتقين الذين هم اولياء الله تعالى فيمكن ان يحصل الارواحهم عند الرب
تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات
لزواتهم المتوسلين بهم كما يحصل يوم القيمة واما الدليل على نفي ذلك وقد نفي البيضاوي
قوله تعالى والنازعات غرقا الى قوله فالمدبرات امرا بصفات النفوس القاضلة حال
المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقا في غائرا شديدا من اعرق النازع في القوس فتندسط
الى عالم الملكوت ويتبيح فيه فتبسق الى طائر القدس فتصير نيشر فيها وفوقها من المدبرات وما
ادرى ما المراد بالاستمداد الذي يمنع المنكر والذي نفهمه نحن ان الداعي المحتاج الى الله تعالى
يدعوا الله ويطلب حاجته من فضله تعالى ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرب المكرم
عند تعالى ويقول اللهم ببركة هذا العبد الذي رحمته وكرمته والمالك به من اللطف والكرم
اقض حاجتي واعط سواي انك انت المعطي الكريم اوبينا دى لهذا العبد المكرم المقرب عند الله

تعالى ويقول يا عبد الله ويا وليه الله اشع لي وادع ربك واسئله ان يعطينى سواي ويقضى حاجتي فالمعطي والمسئول والامور به هو الرب تعالى وما العبد في البين الا وسيلة الخلق انتمى والتاسع قال في الملح الاخبار واما الزيارة بنية الاستئذان الحاجة من اهل القبور وغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء عليهم السلام انكر كثير من الفقهاء كلا الانكار فيقولون ليس الزيارة الا الدعاء والاستغفار للموتى وانتفاع لهما بالدعاء وتلاوة القرآن وانواع الخيرات فقط واثبت الاستئذان باهل القبور بعض الفقهاء المحققين وكلامهم من مشايخ الصوفية لاسيما عند اهل الكشف والحكماء مفسرون بالفيوض والفتوح من ارواؤهم وقال الشافعي رحمه الله نيل قبر الامام موسى الكاظم من اولاد علي من الفاطمة مجرب الاجابة دعاء الحاجة وقال الشيخ الامام محمد الغزالي يكون الاستئذان من قبر موسى كاظم رضى الله عنه بعد الموت كما استئذنه في الحيوة وقال بعض المشايخ رأينا قبر الشيخ معروف الكوفي وهو من قلامي ابي حنيفة الكوفي رحمه الله عليه والشيخ السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى تضرعوا في القبور كما تضرعوا في الحيوة وقيل اذا حبس مطاوعة في الفقه فجلس عند قبر ابي حنيفة رضى الله عنه افتتح الله تعالى لنا من ابواب الفقه وكثيرا من المتأخرين فيضوا من زيارة ابي حنيفة رضى الله عنه ان ابي حنيفة اب الفقه وابو يوسف ام الفقه ومحمد بن مظهر الفقه وحسن وعام الفقه وزنود ام الفقه وغيرهم من المتقدمين مميرون الفقه والمتأخرين تجار الفقه والمقتبس بن ساسا الفقه فاستدل من اقربا استئذان القبور بقول صلى الله عليه وسلم اذا شجرة في الامور فاستعينوا باهل القبور بان يقف الزائر من وراء القبر يستقبل القبلة فيقول اللهم اشف لي ولوالدي ولوالديت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا ارحم الراحمين هذا القبر كان له عندك الوجاهة فاقض حاجتي وكذا نصيرته بذلك شفيعا انتهى والعاشق قال العالم مولانا علي القاري في كتابه المرقاة شرح المشكوة واما الاستئذان باهل القبور في غير النبي صلى الله

عليه ولما والانبيا عليهم السلام فقد انكره بعض الفقهاء واثبتته المشايخ الصوفية وبعض
 الفقهاء رحمهم الله تعالى وذلك امر مقيد عند اهل الكشف والكمال منهم فلا شك في ذلك
 عندهم حتى ان كثيرا منهم وصل اليهم الفيوض من الارواح وتسمى هذه الطائفة اويسية في
 اصطلاحهم وقال الامام الشافعي رحمه الله عليه قبر موسى الكاظم تزيان محجوب لإجابة الدعاء
 قال حجة الاسلام محمد الغزالي رحمه الله عليه من يستمد في حياته يستمد بعد مماته وآداب الزيارة
 ان يقوم مستقبل القبر مستند بر القبلة حذاء الوجه وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمشي
 والزيارة يوم الجمعة افضل خصوصاً في اوله وجاء في الرواية انه يعطى للميت في اليوم الجمعة الادراك
 اكثر مما يعطى في سائر الايام انتهى الحادي عشر قال الامام عبد الله اليافعي رحمه الله عليه في الروض
 الرياحين الحكاية التاسعة بعد الثلثمائة عن بعض السلف رضى الله عنه قال قال ابن محمد
 فوجدنا عليه وجدا شديدا فأتيت معرفنا الكوفي رضى الله تعالى عنه فقلت له يا ابا محفوظ انه
 قد غاب ابني وامه واحدة عليه فقال ما تشاء فقلت ادعوا الله ان يردّه فقال اللهم ازل السماء
 سماؤها والارض ارضك وما بينهما كما أتت محمد قال بوء فأتيت باب الشام فاذا هو واقف
 فقلت يا محمد فقال يا ابت كنت الساعة بالانبار قلت كان معرف رضى الله عنه معرفنا
 باجابة الدعوة وقد ذكر ان الدعاء مستجاب عند قبره واهل بغداد يسمونه التزيان المحجوب رضى
 الله عنه ونفعنا به امين انتهى الثاني عشر قال في روضة الناظرين وقال فيه جماعة من
 الصوفية انه احد الاربعه يتصرفون في قبورهم كتصرف الاحياء وهم على ما يقولون الشيخ
 عقيل البنجي والشيخ حيات بن قيس الحزاني والشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني والشيخ معروف
 الكوفي رضى الله عنهم اجمعين انتهى الثالث عشر قال الشيخ محمد بن يحيى التادفي الحنبلي
 رحمه الله تعالى في كتابه فلا تد الجواهر وقد انعقد الاجماع من جماهير الاشياخ من الفقهاء
 والفقهاء وتضمنت الكتب المدونة اصحاب التمام من السادة القادة الاولياء في حياتهم وفي
 قبورهم بعد وفاتهم كتصرف الاحياء تخصيص من الله تعالى لهم وهم سيدنا ومولانا وقد رتبنا

الى الله تعالى الامام المكل الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني الشيخ الكبير الدرياق الجرب
معروف بن محفوظ بن فيروز بن المردزيان الكرخي والشيخ الواصل الرحلة عقيل المنجي
والشيخ الكامل حياة بن قيس الحراني رضي الله عنهم وان السادة البررة اربعة ايضا
الذين يبرون الاكهم والابرض ويحيون الموتى باذن الله تعالى وهم القطب القوت الشيخ
السيد محي الدين عبدالقادر الجيلاني والشيخ الكبير سيدي احمد الرناهي والشيخ السالك
الناسك علي بن المأمي والشيخ القدوة الصالح بقا بن بطور رضي الله عنهم الاربعة عشر
قال لعالم المحقق مولينا علي القاري رحمه الباري في كتابه شرح المتقسط شرح المناسك
ويسأل من فضله ويتوسل بروح رسوله صلى الله عليه وسلم في تحصيل مسؤله وتحقيق
ماموله وليلاحظ مع ذلك الاستعداد من سعة عفة صلى الله عليه وسلم وعطفه وأفته
اي شدة رحمته على سائر العباد ان يسأل في اي ما صدر عنه في حضرته من قلة ادبه
صلى الله عليه وسلم انتهى الخامس عشر قال في شرح عين العلم قالوا من يتبرك ويستمد به
في حال حيوته يستمد به وفاته بزيارة قبره كذا في الاحياء قال احد من المشايخ العظام رأيت
اربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرفهم في حيوتهم واكثر منها الشيخ معروف الكرخي
والشيخ الشيوخ شيخ سيد عبدالقادر جيلاني قدس الله اسرارها وعدا اثنين آخرين من
الاولياء وليس مقصوده الحصر بل قال ما رآه ووجده في بعض الشروح انتهى السادس عشر
قال شيخنا في سند السلام بغيره كفت عليه السلام چون حيران شويد وركار باز يارت كنيد قبرا
وياري خوابيد قال عليه السلام اذ الحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور وانتم وفي
المسلك المتقسط في المناسك المتوسط فلا ينبغي مخالفة امره خصوصاً في حضوره فانظر
الى الامام الشافعي قدس سره ورضي عنه حيث زار قبر الامام الاعظم ترك سنة من
سنن مذهبه معللاً بان استحي ان يخالف مذهب الامام في حضوره وهذا يدل على
غاية تادبه ونهاية شعوره انتهى السابع عشر قال الامام عبدالوهاب العشاري في

ميزان الكبرى في فضول الاجوبة عن الامام ابي حنيفة وبيان مقامه في العلم ان
 الشافعي ترك القنوت لما زار قبره وادركته صاوة الصبح عنده وقال كيف اقلت بحضرة
 الامام وهو لا يقول به وان الامام الشافعي انما فعل ذلك فتحا الباب الاوب مع الائمة
 المجتهدين ومعلمهم في جميع اقوالهم على المحامل الحسنة وعلى انهم ما قالوا قول الا لا يكونهم اطلعوا
 على دليله من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم فلا ينافي ذلك قول الامام الشافعي فيما تقدم
 عنه انه لا اجبية لاحد ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم على ان بعضهم قال ان
 الشافعي ما فعل ذلك الا باجتهاد فادى اجتهاده الى ان الادب مع الائمة المجتهدين واجب
 واجب فقدمه على فعل بعض السنن لما يترتب عليه من قوه القدر فيه والذي
 نقول به ان الامام الشافعي رضي الله عنه لم يترك القنوت لمحض الادب مع الامام ابي حنيفة
 رضي الله عنه مع قول الامام الشافعي كيهنة حينئذ لما فيه من اساة الادب مع رسول الله
 صلى الله عليه وسلم بترك شيء قال به غيره وحاشا الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه
 من ذلك وانما نقول ان ترك الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه القنوت عند زيارة قبر
 الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه انما كانت لموافقة اجتهادها حصلت ذلك الوقت
 ويكون ذلك من اعداد الكرامات الجليلة المعدودة للامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه
 ولا يقدح ذلك في مقام تأدب الامام الشافعي رضي الله عنه مع الامام ابي حنيفة رضي الله
 تعالى عنه وانما ذلك فيه رعاية لكامل المقامين على انه قد نقل عن الامام الشافعي رضي
 الله تعالى عنه في تعظيم الامام ابي حنيفة رضي الله عنه والادب معه ما فيه مقتع و
 كفاية لكل ذي لب كما سترى بعضه افتاء الله تعالى في هذا الكتاب مرارا وقال بعضهم
 لا بدع في حملنا ترك القنوت على الادب لمحض لان الادب ما امر به رسول الله صلى الله
 عليه وسلم فكان المتأدب مع اخيه انما هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و
 تابع لشريعته فليتامل وسياق في فضل الاجوبة عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه

قول الامام مالك لما سئل عن الامام ابي حنيفة رضى الله عنه ما تقولون في رجل لو نأظرفني في ان نصف هذه الاسطوانة حجرا ونصفها فضة لقام بحجته وكذلك قول الامام الشافعي الناس كلهم في الفقه عيال على ابي حنيفة رضى الله عنه فتامل يا اخي ادب الائمة مع بعضهم بعضا واقدم بهم في ذلك اياك والتعصب لامام حمية جاهلية من غير دليل فتخطي طريق الصواب واول من يتبرأ منك امامك يوم القيمة وتقدم قول الامام الليث للامام مالك في مسألة ارسلها له من مصرها حاكم الله في هذه المسئلة عندهم وان الامام مالك كتب الى الليث بعد الحمد لله والصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فانك يا اخي امام هدى وحكم الله في هذه المسئلة ما قام عندك انتهي فاعلم ذلك والحمد لله وب العالمين انتهي وفي تاريخ ابن خلكان من جلد الثاني صفحة ٢١٥ وقال اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة نا اسمعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن الموزبان من ابناء فارس من الاحرار والله ما وقع علينا رق قط ولد جدى سنة ثمانين وذهب ثابت الى ابي بن ابي طالب رضى الله عنه وهو صغير فدعاه بالبركة فيه وفي ذريته ونحن نرجو ان يكون الله تعالى قد استجاب ذلك لعلينا والنعمان بن الموزبان ابو ثابت هو الذي اهدى لعلى بن ابي طالب رضى الله عنه الفالوزج في يوم مهرجان فقال مهرجونا كل يوم هكذا قال الخطيب في تاريخه والله تعالى اعلم وادرك ابو حنيفة اربعة من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وهم اسلم بن مالك وعبد الله بن ابي اوفى بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة وابو الطفيل عامر بن واثة بمكة ولم يلق احدا منهم ولا اخذ عنهم واصحابه يقولون لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم ولم يثبت ذلك عند اهل النقل وذكر الخطيب في تاريخ بغداد انه رأى اثنى بن مالك رضى الله عنه انتهي وفي خيرات الحسن في الفصل الرابع في دعاء علي بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه وكوم وجهه بالبركة لثابت والداي حنيفة فحقق الله تلك الدعوة الصالحة المباركة في ابي حنيفة وذريته واتباعه

قال حفيده اسماعيل وكذا روى ذلك عن ابنه حماد ذهب النعمان والد ثابت وجد ابي
 حنيفة بابنه ثابت الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو صغير واهدى اليه الفلوجة
 في يوم النيرة فذوق الفلوجة في كل يوم هكذا اودعها لثابت بالبركة فيه وفي ذريته و
 نحن نرجو من كرم الله ان يكون ذلك قد استجيب من علي فبينما انتهى كلامه وفي رد المحتار
 قوله وقد ثبت الخ ابن خلكان عن الخطيب ان حفيد ابي حنيفة قال انا اسماعيل بن
 حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن الموزيان من ابناء فارس من الاحرار والله ما
 وقع علينا ريق قط ولد جدي ابو حنيفة سنة ثمانين وذهب ثابت الى علي بن ابي طالب
 رضي الله عنه وهو صغير فدعاه بالبركة فيه وفي ذريته ونحن نرجو ان يكون الله تعالى
 قد استجاب لعلي فبينما والنعمان بن الموزيان ابو ثابت هو الذي اهدى لعلي الفلوجة
 في يوم مهران فقال علي مهران كل يوم هكذا انتهى وفي منية الفتى وقد صح انه سمع
 الحديث من سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم ذكروا منهم انس بن مالك و
 عبد الله بن جزء الزبيدي وعبد الله بن ابي اوفى واثله بن الاصقع ومفضل بن جابر
 بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم اجمعين ومنهم انا ش منهم عايشة بنت عمرو انتهى
 وفي فتاوى السراجية اعلم ان صاحب مذهبنا اعني ابا حنيفة رضي الله عنه وهو
 نعمان بن ثابت بن زوطي وفي الصححة مكان زوطي النعمان بن الموزيان قد ادرك اخر عهد
 علي بن ابي طالب حمل بوه اليه صغير قد دعاه بالبركة كذا ذكره البخاري في السنن وقد صح
 انه سمع الحديث من سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ذكروا منهم انس بن مالك و
 عبد الله بن حسن الزبيدي وعبد الله بن ابي اوفى واثله بن الاصقع وجابر بن عبد
 رضي الله عنهم وبعضهم انا ش منهم عايشة بنت عمرو انتهى وفي خيرات الحسان في
 الفصل الثاني في ذكر اسمها ونسبها وكنيتها وصفته هو الامام الاعظم فقيه اهل العراق
 ومن اكابر التابعين وصاحب الحصال الحميدة والافعال المرضية التي قال به وتيقق

وجودها باجماعها في شخص واحد انتهى وفي تذكرة الواشدة بتبصرة الناقد تال العلي
القناري المكي في طبقات الحنفية قد ثبتت رويته لبعض الصحابة واختلف في روايته عنهم
والمعتمد ثبوتها كما بينته في سند الانام شرح مسند الامام حال اسناده الى بعض الصحابة
الكل وهم من التابعين الاعلام كما صرح به العلماء والاعيان واخذت قوله تعالى
والذين اتبعوهم باحسان وفي عموم قوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم
دواه الشيخان ثم اعلم ان جمهور علماء الحديث على ان الرجل مجرد للقي والروية بصير
تابعيا ولا يشترط ان يصحبه مدة انتهى والى قوله في شرح نجمة الفكر عند البحث في تعريف
التابعي ممن لقي الصحابي قال العراقي وعليه عمل الاكثرين قلت وبه يندرج الامام الاعظم
في سلك التابعين فانه تدرى انسا وغيره من الصحابة على ما ذكره الامام الجزري في اسماء
رجال القراء والنوريشي في تحفة المرشد وصاحب كشف الكشاف في تفسير سورة
المؤمنين وصاحب مرات الجنان وغيرهم من العلماء المتبحرين ممن نفى انه تابعي فاما
من التبع القاصوا او التعصب الفاتر والى قول الذهبي في الكاشف راي انسا انتهى والى
قوله في تذكرة الحفاظ راي انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة انتهى والى قول
ابن الحجاج المزني في تهذيب الكمال راي انس الخ والى قول احمد قسطلاني في ارشاد السار
شرح صحيح البخاري في باب وجوب الصلوة في الثياب ومن التابعين الحسن البصري و
ابن سيرين والشعبي ابن المسيب وابو حنيفة انتهى والى قول لياقني في موآت الجنان
راي انسا انتهى والى قوله بعيد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد انه راي انس بن مالك انتهى
والى قول لولي العراقي كما نقله السيوطي قد راي انس بن مالك انتهى والى قول ابن الجوزي
انما راي انس بن مالك بعينه انتهى والى قول الداقطني كما نقله السيوطي لم يلق من
الصحابة الا انه راي انسا انتهى والى قول النووي في تهذيب الاسماء واللغات قال
الخطيب البغدادي في التاريخ ابو حنيفة امام اصحاب الراي وفتية اهل العراق

وآی انس بن مالک انتحی والی قول ابن حجر المکی الیتمی فی النیبات الحسان فی مناقب
 النعمان صحیح كما قاله الذہبی انه ذہبی والی انس بن مالک وهو صغیر فی روایة مراد و اکثر
 المحذین علی ان التابعی من لقی الصیابی وان لم یصحبه صحیحہ النوی کابن الصلاح انتحی
 والی قول ابن عابدین فی رد المحتار علی کل نحو من التابعین ومن جزم بذلك الحافظ
 الذہبی والحافظ العسقلانی وغیرهما انتحی والی قوله نقلنا عن بعض المحذین ما وقع
 للعیثی انه اثبت سماعه ممن ادركه من الصحابة رده علیہ صاحبہ الحافظ قاسم الحنفی
 واظهار ان سبب عدم سماعه ممن ادركه من الصحابة انه فی اول امره اشتغل بالکتاب
 حتی ارشده شبیبی لما رای من باهره بخابته الی الاشتغال بالعلم انتحی والی قول
 السیوطی قد الف ابو مثنیٰ عبد الکریم بن عبد الصمد الطبری المقری الشافعی جز
 فیما دواه ابو حذیفه عن الصحابة انتحی والی قول الارینی فی مدینة العلوم قد ثبتت
 بهذا التفصیل ان الامام من التابعین انتحی فھؤلاء العلما الثقات والاشبات
 الدارقطنی وابن سعد والخلیب والذہبی والولی العراقی وابن حجر المکی وعلی القاری
 واکرم السندی مؤلف معان النظر فانه نقل کلام القاری الذی مر ذکره انتحی
 و فی مولا علی القاری ویکفینا من سلاطین العالم ابو اھیم بن ادھر المتلذذ لامامنا فی
 العلم والعل واعراضه عن الدنیا واقباله علی العقبی والحضور مع المولی مع ان
 السلاطین فی کل زمان ومکان ثابتون علی المذہب النعمان کسلاطین الروم حفظهم
 اللہ تعالی عن حوادث الدوان وسلاطین ما وراء النھر فی کل عصر و دھر سلاطین
 الهند والسندی البر والبحر وعل حکمہ ذلك ان اباحذیفه من ذریة کسری الملقب
 بنوشیروان انتحی ونسبہ الشریف جعفر النعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن
 قیس بن یزید و بن شہریار بن پرویز بن نوشیروان انتحی و در فتاوی برہنہ آورده و مجمع العلوم
 آورده کہ گفت والد امام ابو یوسف از اولاد نوشیروان عادل است و وی فرزندان حضرت اسحاق

بن ابراهيم خليل الرضائي بن علي بنينا وعليهما السلام است انتهى الثامن عشر في تاريخ ابن خلكان
 في جلد الثاني ١٣٦ ابو محفوظ معروف فيروز و زوقيل الفيرزي و زان و قيل على الكرخي
 هو الصالح المشهور وهو من موالي علي بن موسى الرضا وقد تقدم ذكره وكان ابواه
 نصرانيين فاسلموا الى مؤدبهم وهو صبي وكان المؤدب يقول له قل ثلاث ثلاثة
 فيقول معروف بل هو الواحد فيضربه المعلم على ذلك ضربا مبرحا ضرب منه وكان
 ابواه يقولان ليتته يرجع الينا على اي دين شاء فتوافقه عليه ثم انه اسلم على يد علي
 بن موسى الرضا ورجع الى بويه فذق الباب فقال معروف فقال له علي اي دين
 فقال على الاسلام فاسلم ابواه وكان مشهورا باجابة الدعوات واهل بغداد يستسقون
 بقبره ويقولون قبر معروف تزيق مجرب انتهى التاسع عشر قال الامام عبد الوهاب
 الشعواني في طبقات الكبرى المسماة بلوائح الانوار في طبقات الاخيار ومنهم ابو محفوظ
 معروف بن فيروز الكرخي رضي الله عنه وهو من جملة المشايخ المشهورين بالزهد
 والورع والفتوة حجاب الدعوة يستسقى بقبره وهو من موالي علي بن موسى الرضا رضي
 الله عنه صحب داود الطائفي رضي الله عنه ومات ببغداد ودفن بها سنة مائتين وقبره
 ظاهر يزار ليلها ونهارا رضي الله عنه انتهى وقال العالم مولانا فيصيح الدين بن عبد الكريم
 لاهوري رحمة الله في شرح اربعين وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف
 في فضائل الاعمال قال العلماء من الحديثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في
 الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف واما الاحكام كالحلال والحرام
 والبيع والطلاق وغير ذلك فلا يعمل بها الا بالحديث الصحيح والحسن انتهى العشرون
 في حوزة الرضيين شرح حسن حصين ط ص ي اي رواه الطبراني وابو يعلى وابن
 السني كلهم عن الحسين بن علي واذا انفلتت دابة يقال فلت الشيء وانفلتت و
 تفلت عني فوفي النهاية الانفلات التخلص من الشيء فجاءه من غير مكث فليبتا

واینها ای عینونی علی اخذنا و عینونی فی ردنا یا عباد الله المراد بهم الملائكة
 او المسلمون من الجن و رجال الغیب المسمون بالابدال و ای دواہ البزار عن ابن
 عباس و روی ابن السنی عن ابن مسعود مر فوجا اذا انقلبت و ابة احدکم بارض
 فلاة فلیناد عباد الله فان الله تعالی عباد فی الارض تحبسه و اذا وادعونا ای نصرنا
 و اعانة او منیننا فلیقل عباد الله عینونی یا عباد الله عینونی ای کورنا ثلاثا ط
 ای دواہ الطبرانی عن زید بن علی عن عقبه بن غزوان عن النبی صلی الله علیه و
 انه قال اذا ضل احدکم شیئا و اواردعونا و هو بارض لیس فیها انیس فلیقل یا
 عباد الله عینونی یا عباد الله عینونی فان الله عباد الانزایهم و قد جوب ذلك
 او و ذلك محجوب محقق ای دواہ الطبرانی من حدیث عقبه بن غزوان انتهى الحادس
 و العشرین فی شرح سفر السعادت و زیارت مقامات متبرکه که دعا در آنجا متواتر است امام شافعی
 رحمته الله علیه گفته است قبر امام موسی کاظم رضی الله عنه سلام الله علی آبائه الکرام تریاق مجرب است
 برای اجابت دعا و در زیارت قبور احترام اهل آنرا و استقبال و جلوس و نادب همان حکم است که در دعا
 حیات بود یعنی الثانی العشرین قال الامام عبد الله الیافعی الشافعی رحمه الله علیه شیخ ابو الحسن
 قریشی فرموده است چهار شیخ را دیدم که در قبور شمل تصرف ایجا میکردند اندکی شیخ سید عبد القادر دوم
 شیخ معروف کرخی سیم شیخ عقیل سنخی چهارم شیخ حیرانی رضی الله عنهم جمعین استی الثالث
 و العشرین فی وقایع خلفاء البعایسته ابو محفوظ معروف الکریمی قدس سره که در سلک موالی علی
 بن موسی الرضای رضی الله عنهم منتظم بود و از جهان گذران انتقال نمود و در تاریخ یافعی مسطور است که پدر
 مادر معروف نصرانی بودند و او در سن صبی بمودی که همان مذهب داشت سپردند و چون بنا بر سابقه
 عنایت متناهی آینه دل معروف از صورت معرفت الهی عکس پذیر بود و روحی که نمودب او را گفت
 که گوی ثالث ثلثه معروف گفت بل هو الله الواحد القهار و نمودب او را بضر بات متعاقب متنازی
 ساخته معروف از وی بگریخت و بلازمت سنده سینه بردست حق پرست امام علی بن موسی الرضا

رضی الله عنهما ایمان آورد و پدر و مادر و رایام هجرانش روزی بر زبان آوردند که کاشی معروف برهنی
 که خوابد باز آید تا ما نیز با او موافقت نایم و معروف بجانب ایشان شتافت و حلقه بر روز و گفتند
 کیست گفت ختم معروف گفتند بر که ام دین آمده گفت بر دین اسلام و پدر و مادر و نیز طریقی اتفاقا
 مسلوک داشته مسلمان شدند معروف شتجاب الدعوت بود و قریش در بغداد تزیاق مجرب گفتند
 رحمة الله علیه انتی الرابع والعشرون قال العالم المحدث المحقق الشیخ محمد الحنفی المدیونی رحمه الله
 علیه فی شرح الشکوة و اما استدا و باهل قبور و غیر نبی صلی الله علیه و سلم یا غیر انبیا علیهم السلام منکر شده
 اند از بسیاری از نعمت و سیگه نیست زیارت مگر برای دعا یا موتی و استغفار برای ایشان رسیده
 نفع با ایشان بدعا و استغفار و تلاوت قرآن و اثبات کرده اند از اشباح صوفیه قدس الله سرهم
 و بعضی فقها رحمة الله علیهم این امری محقق و مقررست نزد اهل کشف و کمال از ایشان تا آنکه بسیار
 فیوض و فتوح رسیده و این طالع را در اصطلاح اویسی خوانند امام شافعی رحمه الله علیه گفته است قرام
 موسی کاظم رضی الله عنده تزیاق و مجرب است مراجعت دعا و حجة الاسلام امام محمد غزالی رحمة الله علیه
 گفته هر که استدا کرده شود بوی در حیات استدا کرده میشود بعد از وفات و یکی از مشایخ عظام گفته است
 دیدم چهار کس را از مشایخ که تصرف میکنند در قبور خود مانند تصرفهای ایشان در حیات خود یا بیشتر
 از آن جمله شمس معروف کربنی و شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس الله سرهم و دو کس دیگر از اولیاء
 شمرده اند و مقصود حضرت است آنچه خود دیده و یافته است گفته و سیدی احمد زروق که از اعظم فقها و
 علما و مشایخ دیار مغرب است گفت که روزی شیخ ابوالعباس حصری از من پرسید ادا حی قوی است یا
 ادا دیت من گفتیم که قوی میگیند که ادا حی قوی تر است و من میگیم که ادا دیت قوی تر است پس شیخ
 گفت نعم زیرا که وی در بساط حق است و در حضرت او است و نقل دین معنی ازین طایفه بیشتر از آن
 است که حصرو حصرا کرده شود و یافته میشود در کتاب سنت و اقوال سلف صالح که سانی و مخالف این
 باشد و روکند این را و تحقیق ثابت شده است آیات و احادیث که روح باقی است و او را علم و شعور
 بزازان و احوال ایشان ثابت است و ارواح کاطان را قرنی و مکانی در جناب حق ثابت است

چنانکہ درجات بودیا بیشتر از ان و او بیار را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آن نسبت
مگر از و احوال ایشان را و احوال باقی است و تصرف حقیقی نیست مگر خدا عز و جل و بعد بقدرت او است و
ایشان فانی اند در جلال حق و درجات و بعد از کلمات پس اگر داده شود مراد را چیزی بواسطت
یکی از دوستان حق و مکانی که نزد خدا دارد و در نباشد چنانکہ درجات حیات بود و نتیجی و همچنین است در
تکمیل الایمان و زبده الاسرار و الاثار جذب القلوب الی ديار المحبوب انتهى الخامس عشر العشر
قال العالم المفیض شہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فی تفسیرہ فی سورہ انشققت و بعضی از خواص از او بیار
را کہ آکہ جارتہ تکمیل و ارشاد بہی نوع خود کرد و انبیدہ اند در نیجات ہم تصرف و رو نبیادادہ و استغراق
انہا بہجت کمال و وسعت مدارک انہا مانع توجہ باین سمت نیگرد و او بیان تحصیل کمالات باطنی
از انہا مینمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہا سبطلبند و میسایند و زبان حال انہا
در آن وقت ہم ہر تمہ باین مقالات است ع سن آیہ بجان گرتوانی بتن انتہی السادس والعشرون
حضرت امام ربانی شیخ احمد ہندی رحمۃ اللہ علیہ در مکتوبات شریفہ در جلد ثانی در مکتوب پنجہ
و ہشتم صفحہ امینیکار و همچنین ارباب حاجات از اغرہ احوال و اموات و ان مخاوف مدد طلب مینمایند
و می بینند کہ ان صور اغرہ حاضر شدہ دفع بلیہ ازینہا نمودہ است گاہ ہست کہ آنرا اغرہ را از دفع ان
بلیہ اطلاع بود و گاہ نبود و اما و شامہا بہانہ بر ساختہ اند و این نیز تشکل لطایف آن اغرہ است و این
تشکل گاہ در عالم شہادت گاہ در عالم مثال چنانکہ در یک شب ہزار کس آنسر در را علیہ الصلوٰۃ و السلام
بصور مختلفہ در خواب می بینند و استفادہ ہا مینمایند انہمہ تشکل صفات و لطائف اوست علیہ و علی آلہ
الصلوٰۃ و السلام بصورتہائی شمالی و همچنین میدان از صور شمالی پیران استفادہ ہا مینمایند و حل
مشکلات می فرمایند انتہی المقصد و طلب چھیس کتابین جو کتر یکے ہین اور حدیث شریف مین
دارد ہے کہ جب تم حیران ہو ایک مرین تب مدد مانگین اہل قبور سے اور فانی جسم ہے روح باقی
ہے اور ارواح کی تاثیر سے جو خاص بندہ خدای تعالی کا ہے و پروردگار کے پاس مقرب ہے
بلاشک بعون ذوالجلال امداد اولیاء کے ثابت اور تحقق ہے بعضی نے روایت کی ہے کہ چہا شخص کا

قبور میں تصرف کرنا ایسا ہے جیسا زندہ کا تصرف دنیائیں ازاں حکم حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی قبر تریاق مجرب ہے واسطی اجابت دعا کے اور چہار شایخ عظام شیخ معروف کرمی و شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہما و شیخ عقیل معنی و شیخ حیات بن قیس حرانی رضی اللہ عنہم جمعاً حضرت شایخ چہار پرہیز ہے یعنی نثار او چار و نیز نہیں ہے بلکہ ایسا اللہ جیات بن سیمان معنوی رضوی فقط

حورہ البسکین محمد مویلی علی الدین الحنفی

القادر علی النفقی فاروق مجددی معصومی حنفی

دی ابشاد ہندی عفا اللہ عنہ

عفا اللہ عنہ اللیب مصیب کتبہ خادم

الشرع القاضی اسمعیل الجمالی الشافعی

عفا اللہ عنہ والدیہ وعن استاذیہ و

عن جمیع المؤمنین آمین -



من اجاب فقدا صاب کتبہ
محمد عبدالمنعم بن الشیخ ابو الہدی
باعاظہ خطیب مسجد الجامع بمبئی

الجواب صحیح کتبہ خادم الطالبہ
القاضی اسمعیل المرعی عفا اللہ
وعن والدیہ عن سائر المسلمین آمین

من اجاب فقدا صاب حورہ الراجی
الی رحمة ربہ الشکور عبد لغفور صفا
عن الافات والشرد

الجیب مصیب لدا جزیل من کل
فقدا صاب حورہ حسن حنفی بن
فور محمد عفی عنہما -

الامر کذلک خادم الشرع القاضی
محمد الکریمی کتبہ القاضی محمد علی بن المرحوم
محمد حسن المورکی -



الجواب صحیح والنخالف بقلی حورہ المسکین
محمد اکرام الدین البخاری الحنفی واعظ الاسلام



نقل کتب شریف جناب فیض مآب عالم کامل و فاضل مکمل لاثانی مولانا مولوی محمد رضا علی صاحب
الحنفی القادری نقشبندی الجردی الاحمدی فاروقی رحمہ اللہ از شہر نارمن محلہ کھنڈ پورہ اصل مکتوب

غایت فرمائیے عاجزان جناب محمد مرید محی الدین صاحب زاد حکیم و عزتم سلام علیکم فقیر بسبب کبر سن اور بسبب محم و
 غم نیر لایق عالم فاضل نہایت ضعیف ہو گیا ہوا اور بصارت سماعت اور کل طاقت افتور واقع ہو گیا لہذا مسائل
 مختلف فیہا میں معذوری اور ایک طرف مختلف فیہا میں لکھنا محض سفاہت ہے لہذا تحریر جواب میں معذوریوں اور
 وہاں غیر عقلمند کی بات بھی ایک سنین دل کہ یہ جو جاتا ہے اور سیکھتا ہے اور اہل ائمہ و اولاد و حواریہ متفق علیہا ہی صوفیہ
 علمی محققین ہوا اور حضرت عترت پاک غوث الثقلین اونکو مدیح زادہ از حد و حدین والسلام۔ راقم محمد صالحی الجذری
 الاحمدی الفاروقی کان ائدہ۔ و پنجم برع الاول از بنارس محلہ کتو پورہ ۱۲۸۶ھ از شہر ہوبال مکتوب جناب عالی مقبول
 والنقول حاوی الفرع والاصول عمدة المحققین بدة الدقیقین علامہ متفق و ہما متفق مولانا قاضی عبدالحی
 صاحب الامراتیہ او علم و درجۃ ولایتی کا بلی نقل اصل مکتوب جناب ارشاد آجہ متفق کرم و محترم مولوی محمد مرید
 محی الدین صاحب او جب کہ بعد از اسلام عرض آنگہ باعث تاخیر و جواب استغما اول ایک گنبدہ از تاریخ دوم صفر تا
 ایندم بعاضہ ضعف کہ بہرہم حتی کہ الحال ہم علاج طبیب جاری است و دوم آنگہ خود آجناب او علم احکام ثانی نیست کیسے
 سو او بہ استم کہ جواب استغما ہی آجناب نویسیم لکن آخر الامر بموجب الامر فوق الادب پچ خاطر فاطمہ زہرا دیدن نوتہ ارسال
 خدمت نمودم کہ قبول خاطر عاظر ائمہ فیہا بہ خطا و لغزش سامعاف فرماید و اسلام مؤرخہ ۲۲ ذی الحجۃ احرام ۱۳۱۲ھ ہجری
 راقم خادکم عبدالحی عنی عنہ نقل استغما از جناب قاضی صاحب تصوف مذکور سول و قد عین در وقت خواندن تشہد
 آگشت سبب لہر برداریدانہ۔ احوال اختلاف در رفع سبب بوقت تشہد معروف و مشہور است و لائل فریقین در کتب مطولہ شرح
 مبسوطہ مستند العمل ابن عاجز عبارت اکثر متون و روایت جامع الصغیرت عبارتیں این است و فی الاکتفا و اشعار۔
 باز لایثیر و لا تقدر و ہذا ظاہر اصول اصحابنا کما فی الزاہدی و علیہ القسوی کما فی المضمرات و الواجیزہ و الخلاصۃ و غیر ما ہ۔
 جواب دوم۔ ولایت کرامت حضرت غوث الثقلین اوقات ائمہ و اوقاتہ زوہد بسیاری از علم آروصلی او ولیا کہ شمارن غیر کن
 است و سلم است پس منکر جناب عالیشان ایشان ضال و گمراہ خواہد بود کہ در حکما ایشان تفصیل تخیلیہ جو غیر است از علم آ
 وصلی او ولیا فقط و ائدہ علم بالصلو کہ ہذا حق عفا ائدہ (محمد علی مرتضیٰ) **الفصل التاسع عشر** عیش
 فی بیان علم الشیخ السید عبدالقادر رضی اللہ عنہ و یکتب بایقول فی مجلسہ اربعانہ معہ عالو رفیعہ کا ورنہ
 فی کتب مستعدۃ الاول قال العالم العلامة والحجۃ الفہامہ مولانا علی القاری رحمہ اللہ الباقی فی کتابہ ہ

وقال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فالمراد باولى الامر العلماء في اصح
الاقوال والطاع شرعاً مقدم وكيف لا يتقدمون والعلماء ورثة الانبياء عليهم الصلوة والسلام
على ما جاءت به السنة كما صرح الزيلعي وغيره في البرازية والشاب العالم يتقدم على الشيخ غير العالم
قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فالرفع لما كان هو الله تعالى
بدرجتين احدهما درجات العلم فمن يضعه الله في جفنه والعالم يقدر على القرشي غير العالم
والدليل على ذلك تقدم الصهرين على الختنتين وان كان الختن اقرب نسباً منهن قال الزند رضى حق
حق العالم على الجاهل حق الاستاذ على التلميذ واحد على السواء وهو ان لا يفتتح بالكلام قبله لا يجلس
مكانه وان غاب ولا يرد كلامه ولا يتقدم عليه في شية والنقل في المسئلة كثير يطول ذكره وانما الاستغناء
بالعلم والعالم ففي النظر الوهابي - ولكن به من يستخف مكفر به كذلك به لفظ الفقيه بصغر قال
العلاء عبد البر مسئله هذا البيت ان كانت مشهورة عند الخنفية الا اني لم اقف عليها الا في جاري القدا
قال من استخف بالنبي بني من الانبياء يكفر من يستخف بالعلماء العاملين ائمة الدين والشريعة روي
ان من قال لفقير بفقير بالتصغير على وجه التعدير يكفر والكلام في ذلك يطول فيما كتبناه كفاية انشاء الله
تعالى انتهى كذا في فتاوى خيريه للشيخ خير الدين الرملي الخنفي استاذ صاحب المختار جلد الثاني صفحه مطبوعه
مصر وقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما للعلماء درجات فوق المومنين بسبعائة درجة ما بين
كل درجتين مائة خمسمائة عام انتهى كذا في فتاوى خيريه صفحه جلد الثاني مطبوعه مصر قال الله تعالى
والذين اوتوا العلم درجات صدق الآية واذا قبل الشتر فالشتر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم
درجات وفي احكام القرآن اللوازي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يرفع مجلس اهل العلم على غيرهم
ليس من الناس فضلهم ومنزلةهم عنده وكذلك يجبان يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن
عباس للعلماء درجات فوق المومنين بسبعائة درجة مما بين كل درجتين خمسمائة عام وهم اولوا الامر
الذين امر الله بطاعتهم فقال تعالى يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم والطاع
مقدم وقال الزند رضى حق العالم على الجاهل والاستاذ على التلميذ واحد على السواء وهو ان لا يفتتح بالكلام

بالکلام قبله ولا یجلس مکانان غاب لا یرد علیه کلامه ولا یتقدم فی مشینته انتمی کذا فی الخطا و
 علی بر المختار جلد الرابع مطبوعه مصر ص ۳۰۳ قال صلی الله علیه وسلم بین العالم والعباد سبعون حدیثا
 رواه اصهبانی کذا فی کنوز الحقایق ص ۳۰۳ مطبوعه مصر قال النعمانی رحمه الله علیهم من استخف بالقرآن
 او بالشریعة او بالعلم والعلما فهو کافر انتمی کذا فی فتاوی غمیاتی ۱۲ ومن استخف بالعلما والشریعة ^{طلعت}
 امرأته ویکفر بالله عز وجل لیس لاحد من المسلمین ان یدعو العلما باسمه لانه استخفاف انتمی کذا
 فی التاثرانی ۱۲ من سب کبر العلما فسیبہ یعود الی النبی صلی الله علیه وسلم فحیت قتله ولم یقبل توبته
 لان کبر العلما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا فی فتاوی سمرقندی ۱۲ اعلم ان تعظیم العلم
 والعلما ثابت بکتاب الله تعالی الاتری ان الانسان لا یکفر بالمعصية وانما یکفر بتبرک الحومة اهل العلم
 معنی سئل عن علماء البحار رحمهم الله جاع رجل غنی فی المجلس فلان وجلس فی فوق العالم هل یمشی
 ام لا فاجابوا باجمعهم هذا علی اربعة اوجه استخفافا واهانة واصفارة او مزاح فی الثلاثه ینکره طلعت
 امرأته و فی الآخر یغزو و یشهر لجماعا والفتوی علی قولهم فی زماننا انتمی کذا فی جموعه الفتاوی اعلم ان تعظیم
 العلم والعلما ثابت بکتاب الله تعالی وبالسنه وبالنصر الحومة خیر من الطاعة الاتری ان الانسان
 لا یکفر بالمعصية وانما یکفر بتبرک الحومة انتمی کذا فی مقدمه ۱۲ و فی مختلفات زفر ینعقوب رحمها الله
 تعالی لا یمیز لغير المتعلم ان یتقدم علیه ان کان من اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم لان الحسب
 فوق النسب یعنی به شمس الائمة السخیی الا اذا کان علما او متعلما انتمی کذا فی کامل الفتاوی ۱۲
 ولا یمیز السید للجاهل ان یتقدم علی العالم والمتعلمین اتفاقا وان جلس فوجب علی الوالی والقاضی
 ان یمینه لان استخفاف کذا فی تمه الفتاوی ۱۲ لا یمیز لولد العالم والقاضی والسلطین ان یتقدم
 علی العالم والمتعلم باعتبار حسب الالب انتمی کذا فی مضمات ۱۲ ومن لم یعظم من کل واجب التعظیم یصیب کافرا
 اذا کان علما لانه استخفاف بالعلم والافلا انتمی کذا فی جامع المنقبات ۱۲ بدو کلمه حق استاور تقدم وارو برحق
 ماور و پد ریزه که او ساو سبب حیوة روح است و نه گوید و زام او ساو زو و خلاصه گفته است که حق عالم بر جاهل و
 حق او ساو بر شاگرد یک حکم وارو حق او ساو بسیار است که نه نشیند و در مکان او و غیبت او کند پیش از او کلام

در وگنند كلام اربابانت و در وقت رفتن پيش او زود و در پيغندار و از نوى انواع احسان انتمى كذا في سند الاسلام
 ورق ٢٣٣ قلمى ١١ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم العلماء واجب لقوله عليه السلام عظموا العلماء
 فانكم تتماجون في الدنيا والاخرة وايضا تكريم العلماء واجب لقوله عليه السلام العمل العلماء فانضم
 عن الله كما انتهى كذا في فتاوى عثمانيه ١١ في الروضة ولا يجوز للجاهل ان يرفع صوته على صوت العالم
 وفي رفع صوته على صوت العالم بوجه الاستخفاف يكفر من طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعز
 اجماعا ولا يجوز للجاهل ان يجلس بين العلماء والتعلمين اتفاقا ولو جلس احد من الناس على من العالم
 والمتعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المحقارة والاهانة يكفر
 ولو كان على وجه المزاح يعز اجماعا انتهى كذا في روضة الفتوى ١١ في الفتاوى البديهى سئل عن
 علماء البخارا عن رجل جاء في مجلس فلان وجلس فوق المتعلم عالما بالعبادات مثل الصلوة والزكوة والصوم
 والحج والنفاس هل يجب عليه شئ من الاما اجابوا بانه على اربعة اوجه استخفاف واهانة او مزاح
 ففي الثلاثة يكفر وطلقت امرأته وفي الاخر يعز ويشهر اجماعا والفتوى على قولهم في زماننا انتهى كذا
 في روضة العلماء من نفسه وعينه ١١ من العاشية وما يجب التنبيه عليه الاستخفاف بالعلماء فانه كفر
 محبط للاعمال قال ابن الضياء الحنفى حجة الله عليه في شرح الكفر قال اصحابنا رحمهم الله لو نظر انسان الى
 نظرة اهانة او ذكره بما يوجب الاهانة يكفر كما في عمدة الاسلام وذلك لانهم ورثة الانبياء وتلجاء
 في الحديث الصحيح العلماء وورثة الانبياء ورأيت بخط بعضهم نافلا عن روضة العلماء لا يجوز للجاهل
 ان يجلس بين العلماء والتعلمين اتفاقا وان جلس فواجب على السلطان والقاضى ان يجلسه لان هذا
 استخفاف واهانة او حقارة ولو جلس احد من الناس على من العلماء والمتعلم في المجلس لو كان على وجه
 الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المحقارة والاهانة يكفر ولو كان على وجه المزاح يعز بلجاء
 الائمة انتهى وفي نوادر الفتاوى ان من رفع صوته على صوت طالب العلم بوجه الاستخفاف طلقت
 امرأته ولو كان على وجه المزاح يعز اجماعا قال صدر الشهيد حجة الله عليه من استخف بعالم طلقت
 امرأته سئل الامام استخفاف العالم والمتعلم قال التقدم في المجلس فوق العلماء والمتعلم وذهابه وكبا

ويكون العالم جالساً الا اذا لم يكن عارفاً فحينئذ لا يكون استخفافاً ولو كان جالساً لا يقوم لاجل العالم
 والمتعلم اذ يرفع صوته على صوت العالم والمتعلم فكله استخفاف وحقارة واهانة وسرعة حكماً وقال الفقيه
 سئل فخر الائمة هل يجوز لرجل غني ان يتقدم على العالم والمتعلم الفقيه لاجل خدمته وماله فاجاب الامام
 لا لان فيه استخفاف بالعلم والعالم ويقدم حكمهما وفي فتاوى الذم عن علماء تجار اجاء رجل غني في
 مجلس وطبس فوق المتعلم وكان المتعلم عالماً بالعبادات مثل الصلوة والزكوة والصوم والحج والحض
 والمناس هل يجيب عليه شئ ام لا فاجابوا اجمعهم هذا على اربعة اوجه استخفاف واهانة او صقارة او
 مزاح ولو كان تقدمه على وجه الاستخفاف طلقت امرته ولو كان على وجه الحقارة والاهانة يكفر ولو
 كان على وجه المزاح يعزب ويشهر والقوى على قولهم في زماننا وذكر في جواهر الفتاوى للكرواني رحمه الله
 عليه سئل فخر الائمة العالم والمتعلم والجاهل حيث لا يجوز التقدم على العالم والمتعلم فاجاب بصحة الله
 عليه وقال فيه اختلاف مشايخنا رحمهم الله قال بعضهم العلماء الفقهاء وقال بعضهم كل من كان عالماً بالعلم
 العبادات يعني العلم تعلم دقائق الاسلام والايمان وادكانها وفرايض الصلوة وسننها ومكرهاتها والزكوة
 مثل ذلك وفي الصوم مثل ذلك وفي الحوض المناس مثل ذلك فمن كان عالماً بما يتعلق بعلم العبادات
 فهو عالم لا يجوز التقدم عليه والجاهل عكس ذلك ومن يعلم الايمان وفرايض الصلوة وواجباتها وسننها
 كما هو المعروف ولا يكون عالماً بل يكون مسلماً لان المسلم لا بد له من تعلمها انتهى ثم الكفر نفوذ بالله
 من نهضه انما يكون بالانكار لفضية اصلا انتهى كذا في نبيص الصمد في شرح الكفاية للشيخ ^{ضلع} فاضل
 الشهير قاضي عيدا رضوي ورق ٣٣ الى ٣٣ قلى ١٢ ولو قال بهر كعلم آموز وروي دستاها هي آموز و فانه
 كغيره انتهى كذا في فتاوى نهيير ورق ٣٠ قلى ١١ وايضا ومن روى خبر اصيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
 له جابل اين سخنان را كه كار كند در هم بايد علم امر و زكرا بكار كند كذا في الاستخفاف بالعلم واهل العلم والاجاب والرواية عن النبي
 صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراتب منها ما تواتر وهو ان يرويه جماعة عن جماعة لا يتصور طواظيمهم على الكذب
 واذ انكروا انسان يكفر بهما ما هو مشهور هو ان يرويه واحد عن واحد في العصر الاول ثم يشتهر في العصر
 الثاني حتى يرويه جماعة عن جماعة لا يتصور طواظيمهم على الكذب واذ انكروا انسان يكفر بهما عندهم بعضهم قال

علی بن ابان یضلل ولا یكفر وهو الصبیح ومنها ما هو خبر الواحد وهو انه یرویہ جماعة یتصور طوعاً و
 علی الكذب ولا یكفر جلد ۱ ولا یضلل غیراً ذہب یاثر بترك القبول انتهى كذا فی فتاویٰ ظهیریه ورق ۱۰۸
 قلی نوع الثوری العلم والعلما والابرار والصالحین وطلبها حد الخصین من صاحبہ الی الشریع والی باب
 القاضی جاهل قال آتینا کہ علم می آموزند وستانہ است کہ می آموزند او قال بادت انجی میگویند او قال تزویرت
 او قال من حیلہ ورسولکم فهدا کلمہ کفر بجل بجمع عن مجلس العلم فقالت له امرأته انک کنت امدی فهدا کفر
 قال الرجل اذهب معی الی مجلس العلم فقال من یقدر علی الاتیان بما یقولون او قال مراب مجلس علم چه کار علم
 در کاسه توان بریره کرد وهدا کلمہ کفر لو کان مراخذ فی مستغنی زن ووزندت کہ مجلس علم نسیم فهدا مخاطرة
 عظیمة ان اراد به التهاون بالعلم وادان قال ورم باید علم چه کار آید کفر فی مجموع النوازل وادان قال لعالم سبقت علم
 را بکاسه ندرشکن بیکه کذا کان الفقیه ید کوشیما من العلم او یروی حدیثاً صحیحاً فقال الآخر ان سبقت
 نیت وربه او قال من سخن بچه کار آید ورم باید کہ امروز شمت ورم راست علم کہ بجا می آید فهدا کفر من بعض
 عالما وبقیها بمن سبب ظاهر خیف علیه الکفر اذا قال ساد کردن باز دانشمندی کردن فهدا کفر انما انتهى کذا
 فی المحيط القاضی البرهانی جلد الثالث صفحہ ۳۳ و ۳۳ قلی وان کفر میکن فان کان اذهن یعقل الزیادة
 وبعلم فالنظر فی العلم افضل فقد جاء فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ماذا کون العلم ساعة خیر
 من احیاء اللیل انتهى کذا فی المحيط القاضی البرهانی من جلد الثالث صفحہ ۳۶ قلی سفیر علیه السلام فرموده است
 فضل العالم علی العابد کفضل علی امتی لان العلماء سلاح الدین وایضا قال علیه السلام سئلت جبرئیل
 علیه السلام عن فضیلة العلماء قال هم سلاح امتک فی الدنیا والاخرة وادعی الله تعالی ان ینبیه محمد علی السلاک
 العلماء اهل عیالی سائر الناس عبدی وصالهم الی من اعطی مالی علی عیالی فله الجنة ولا ابالی قوله
 علیه السلام من مکان فی قلبه ذرة من بغض العلماء یبقی فی جحیم دهر طویلا تطلمت که در زمانه نارون از شد
 ارکان دولت بااد مجاوره کردند کہ تمام و همه خزان بر علم صرف میکنی و با بیاطافه و درویشان کہ مستقبل قبله شسته اند و در
 عبادت حق تعالی مشغول اند و همه از خان و مان بریده اند بیل کم داری او گفت کہ استحکام دین نبوی و تقوم شریعت
 و احکام عقلا یقینی بعالمان است و عالم هر چند کہ بی عمل باشد چیل کس شفاعت وی در بهشت روز عباد اگر چه در

م / شاد است

در متابعت علم باشد تنها در شربت رو و الابد و رخ نقولیه علیه السلام شفاعت اربعه نفر حق اولهم
الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء ثم الاطفال لا یویه الله انتهی کذا فی ارشاد الطالبین صحفه و ایضا
مسئله فی الفتوی السناوی البدریه سئل عن علمه بخارج عن رجل جائز فی مجلس فلان و جلس فوق المتعلم
عالم بالعبادات مثل الصلوة و الزکوة و الحج و الصوم و الخیض و النفاس هل ینبغ علیه شیء امر
لا فایجابوا بما یهمهم بان هذا علی اربعة اوجه استخفاف و حقارة او اهانة او مزاح و لو تقدمه علی
وجه الاستخفاف طلقت امرأة و لو کان علی وجه الحقارة او الاهانة یکفر و لو کان علی وجه المزاح
یعزب و الفتوی علی قولهم فی زماننا روضة العلماء انتهی کذا فی ارشاد الطالبین صحفه مطبوعه انوار
محمدی ۱۱ دور فتاوی حجت میگردید پیغامبر فرمود صلی الله علیه و سلم هر که خوشنودی من خواهد باید که دوست او در امرت
دارد و باران گفته داری رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست شما گیت فرمودند که دوست من طالب علم است طالب علم را
دوست تربت از فرشتگان خداست طالب علم را دوستی درستی است او را حرمت داشته باشد
و هر که ما را حرمت دارد و دوستی خداست او را حرمت داشته باشد و جای او در شربت است پیغامبر فرمود صلی الله علیه و سلم
هر که عالم از زیارت کند چنانچه هرگز زیارت کرده باشد و هر که دست عالمان گمیرد چنانچه دست را گرفته باشد و هر که با عالمان
نشیند چنانچه با من در دنیا نشسته باشد و هر که با من در دنیا نشیند خداستعالی او را روز قیامت در شربت رستند
پیغامبر صلی الله علیه و سلم علماء من امتی کانی سیاء بنی اسرائیل یعنی عالمان امت من همچون پیغامبر بنی اسرائیل
اند چنانچه پیغامبر بنی اسرائیل تبلیغ شریعت بخلق میکردند اینهمین تبلیغ است میکنند اگر جمله علی است من جمیع شوند بجز
پیغامبری زنده پیغامبر فرمود صلی الله علیه و سلم که بزرگی عالم بر عابد چنانست که بزرگی من از کترین امتان من پیغامبر
فرمود صلی الله علیه و سلم هر شعبه که او را علم نماند باشد مانند که گروسیا میگردد و علم گفته اند هر که بی علم زهر کند و در
دراز عمر و دیوانه شود یا کافر میگرداند و باقی پیغامبر فرمود صلی الله علیه و سلم نظر بر روی عالم عبادت است پس معلوم
شد که عالم بزرگ است از عابدیکه او را علم نباشد پس امامت اولی باشد از امامت عابدی گدازنی چنانچه مخالفی در حق
قلمی ۱۱ و عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مثل العلماء فی الارض
کمثل النجوم قلت ان بها فی ظلمات البر و البحر فاذا انطمت النجوم و اوشک ان یتقین الله اقره الامام احمد

اسم تصدق	اسم کنیت	اسم منصف	اسم لقب	یوم ولاد	تاریخ ماه	اسم مادر	بنت فلان
۱	عزت التقلین ابو محمد	شیخ سید علی	محمدی الدین	پنجشنبه	غره رمضان المبارک	فاطمه زهرا ابجبار	بنت فلان
۲	ابوصالح	سید موسی	جگلی دوست	چهارشنبه	شعبان ۱۵	عائشه	شیخ ابوالنضر شیخ بیلان
۳	ابو محصوق	سید عبدالله	الصالح	چهارشنبه	۲۲ محرم	حمیده	شیخ عقیل جیلانی
۴	ابوعسلی	سید سحی	زاهد تقی	شنبه	شوال ۲	فاطمه	شیخ محمد باقرانی
۵	ابی احمد تاج الدین	محمد سید	عابدین	چهارشنبه	ربیع الآخر	علیه	شیخ نجیب سنگی
۶	ابابکر	داوود	سراج الدین	دوشنبه	۹ جمادی الثانی	فاطمه	شیخ عثمان عراق
۷	ابوزکریا	سید موسی	شرف الدین	شنبه	۱۱ ذی الحجه کرام	حقیقه	شیخ ابوسعید صومعی
۸	ابوسسلی	سید عبدالله	تاج الدین	چهارشنبه	۲۱ رمضان	آمنه	مامون
۹	ابوشهاب الدین	سید موسی	ابحون	دوشنبه	۹ رجب	لبانه	شیخ فیض الله شیخ مومل
۱۰	ابومحمد	سید عبدالله الموصی	باجبل	پنجشنبه	۱۵ شعبان	فاطمه صغری	بنت مام حسین رضی الله عنهما
۱۱	ابوعبدلشی	حسین شفی	محمد ابی عبدالله	دوشنبه	۲۹ رمضان	کدبانو صفوره	شیخ ابن زین
۱۲	ابی محمد	امام حسن السطح	تقی وکیب	شنبه	۱۵ رمضان	ابی فاطمه زهره رضی الله	علیه وسلم حضرت علی
۱۳	ابو تراب	سید علی الیرمینی	المرضی			فاطمه	اسد

عصر اسم پادشاه	اسم ولادت	اسم نکین	اسم سال	وماه اسم یوم و قضا	اسم سنه	اسم فن	اسم خادم
شاه حمزه	گیلان	فتح القادر جیلانی	۹۱ ل	۱۰ شعبان جمعه	۵۶۱	بعد از شریف	
شاه محمود	گیلان جیلان	بروجی القیوم	۸۹ ل	۱۲ الازل جمعه	۵۱۳	جیلان	احمد بن صالح
شاه علاء الدین	توران جیلان	بیدر امانه ما افراد الا	۴۹ ل	۱۰ شعبان جمعه	۴۵۴	جبل کنور	محمد لاشم
شاه فیروز	قلین	بروجی القیوم	۴۸ ل	۲۹ رمضان جمعه	۴۵۳	جیلان	لوزا الحقی
شاه سلیمان	قلین	ان ارضی مانع	۵۱ ل	جمعه اربعه	۴۳۵	گیلان	مغفلین نظری
شاه غزت	کیهان	کل شی قدر ان ارض علی	۹۳ ل	۲۰ شعبان پنجشنبه	۳۹۰	بمقصد	قاسم بن عمر
سجایقلیان	لنجان	قرین الحنین ان ارض امانه	۶۱ ل	جمعه اربعه	۳۴۰	جیلان	عمر بن خالد
مقصد باسنه	طوس	نور الوکیل سنانه	۶۰ ل	۹ شعبان جمعه	۲۸۰	لنجان	باشم بن احمد
مامون	بیدی	نور الوکیل سنانه	۵۹ ل	جمعه صفر	۲۲۴	طوس	محمد بن احمد متوکل
سلیمان	نیسان	نور الوکیل سنانه	۶۹ ل	شعبه اربعه	۱۳۳	موصل	جعفر
امیرالمؤمنین معاویه	شوزان	بالعباد وان الله بصیر	۵۶ ل	۵ شوال روزی پنجشنبه	۹۴	نیسان	احمد بن محمد
صلی الله علیه و آله	مدینه منوره		۴۶ ل	پنجشنبه صفر	۵۵	بفتح شریف مدینه منوره	
کرکس			۶۳ ل	جمعه رمضان	۳۲	بفتح کوفه کرخ مدین	

خاتمة الطبع

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدنا وإبراهيم وآلهم
 وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين
 ربنا توفنا مسلمين في الحنابلة الصالحين وادخلنا الجنة آمنين الى لقاءك يا رحيم الرحمن ويا
 اكرم الاكرمين فانصرنا على الاعداء الذين قد تم هذا الكتاب اشرفا للطيف المسمى بحجة **البيضا**
في رواه الطحطاوي المنسوب بمناقبة الغوثية في اثبات تحقيق وثيق وتدقيقات عميق لا
 يعد الا حصي في نسب الشريف حضرت غوث الاعظم وقطب الاكرم سيد السادات قطب الارضين
 والسموات محبوب سبحاني غوث الصمداني والميكل النوراني مولينا الشيخ السيد عبد القادر
 جيلاني رضي الله عنه تصديق مسكين الراجي الى رحمة رب العالمين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن
 الحنفى القادري الغفوري النقشبندى الشاوري النوشهري عفا الله عنه ولوالديه
 ولجميع المومنين المسلمين خالصا لوجه الله رب العالمين ونفع المومنين ونصيحة المسلمين
 في عصاة الذللة شمس فلک المجدد المعالي بدر السماء الشرف والعرش المشكوة كرسى
 الرفعة ومصباح مقابيس الاشعة الذي اصطكاك طنطنة قدره وفاق طاهم سلاطين
 عصره الذي مركز دائرة العدل والانصاف قامع رسوم الجور والاعتساف باسط مهام
 الامن والامان ما حيا ساس البغي الطغيان مصدرة توفى الملك من تشاء من القدر ^{السنان}
 المستنصر من النصير للملك المستعان اعنى الخاقان ابن الخاقان سراج الملوك والديوبند
 امير المؤمنين وامام المسلمين الامير النير امير حبيب الله خان بهادر سلطان خلد الله الملك
 المستعان مادامة الشريعة في تاسيد الرحمن لازالة الايام مضية بشمس علاه واليالى منيرة
 بدر جلاة اللهم انصره وانصر عساكره وكن اللهم مؤيده وحافظه وناصره اللهم
 متع المسلمين بطول حياته وضاعف ثواب جميله وحسناته آمين يا رب العالمين

بجوت سیدالاولین والآخرین وسلام علی المسلمین والحمد لله رب العالمین فی بلدة معموق بمبئی
خرسها الله تعالی الصلوات الغنی فی التاريخ ۱۷ جمادی الاول کرم الله عز وجل سنه ۱۳۲۰

هجریہ مقدسہ فی المطبع شہکابی

تقریباً تاریخ منقول مطب کتاب بطلب حجۃ البیضا فی روابل الطفی از تاریخ زبده اصحاب بیروت ووظائف عمده
ارباب فصاحت و بلاغت محب و پذیرور و منضمیر صاحب سل و فکر عظیم و طبع کرم عزت و صداقت نشان سعادت و
شرفت بیان کرمی عالی حضرت میرزا افضل احمد خان صاحب لادند الملک الواسع بحر منہی صلی اللہ علیہ
وسلم وآلہ اثنان صدیقی حنفی نقشبندی معصومی کابلی و ام غزیم و اقبالیہم ملازم دولت خداداد افغانستان صاحبانہا
تعالی عن سوانح الزمان بحر منہی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امین رب العالمین

مربازین گلشن سبزه کلار نعیم
حجۃ البیضا روابل طغیان و تہوا
حامی دین متین ہم جاہ شرع مبین
در شریعت پیشوا و در طریقت مقتدا
گوہر درج شرافت خست برج کمال
از محمد یافت بر سر تاج عزت زان شد
شکر شد بر کینا آرد آن غواص شرف
در فلک از بحر منیش میخیزد ملک
زیب دلستی اینچنین گوہر گوش گلخان
سرگردون کسان شاہنشہ گیتی ستان
آنکہ می نازد و با دود و دلت چو بر حاتم کرم
شاہ و آلا جاہ حبیب القدر خان وادگر
یا آہی تا بود روز و شب نوز و ظلم

حبذا زین تحفہ انوار و دیوان قدیم
کردتالیف انتخاب نظر حسیلین عمیم
مہبط علم لدنی مصدر طبع سلیم
در حقیقت رہنما با معرفت و ایم ندیم
رافع اعلام دین و صاحب خلق عظیم
عالم و فاضل محی الدین مرید خوش تیرم
از رنگ و ریای عرفان بی بہا و تر تیرم
آیہ رحمتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا کہ در غیب نہ سلطان ججاہ کرم
خسر و افغان ستان کی چاکر و کسر اندیم
آنکہ می لرزد از دشمن چو کاکل از نسیم
آنکہ شیرازہ پیش جان میکند خالی ز بیم
ضد یکدیگر بود شاہی مراد راستقیم

لک
ظننہ اللہ تعالی
ملک و

<p>گلشن اقبال و عمرش دانها سوزد بهر تارشیش خرد گفت از شسته برکش بنه</p>	<p>آردن گردن کشان از حضرت شمشیرش و نیم دیدم نخوت بجایش حجۃ البیضا رقیم</p>
<p>قطعه تاریخ تصنیف لطیف کتاب استغاب حجۃ البیضا فی رد اهل الطغنا جناب تذکره العلماء الراحمین قدوة السالکین مولانا مولوی شیخ محمد مرید می الدین صاحب نفی القادری الغفوری ثم نقشبندی پوشاکی النوشهری مدظله العالی چونکه کتاب حجۃ البیضا فی رد اهل الطغنی مرکب از دو جمله بود از آنجمله جمله اولی در تاریخ تصنیف کتاب یاد یافت و جمله آخری در تاریخ طبع کار آمد طبع از دفتر العباد حاجی بن عبدالعزیز پشاوروی متصل بسا بد حال وارد می میگام سفر درین شهر فیض انوشهر شوال ختم بانزیر والاقبال سال ۱۳۰۲</p>	
<p>عجائب حجت بیضا نوشته عالم بکت عجب نادر کتاب لاجواب است اینک می بینم پی اهل الطغنا روی دروی جا بحسام توتم عجائب حجت بیضا است عابد زان حسن فال</p>	<p>مرید می دین آن فاضل بی مثل و بی همتا سراسر حجتش بیضا سراپا دعویش غرا تبویح فراوان و لکش چون نو لوی کالا رقم زو سال تصنیفش عجائب حجت بیضا</p>
<p>قطعه تاریخ اول طبع کتاب حجۃ البیضا فی رد اهل الطغنی از تاریخ طبع سلیم زنده امین جناب میرزا زین العابدین حضرت ائمه العابدین</p>	
<p>چو مطبوع شد این کتاب عجیب حرفش بقراطس کا نور فام همه حجت اوست بیضا چو خور تبارخ طبعش از ان عابدا</p>	<p>که در لفظ معنی است بس و لکش چو سنبل برگ سمن مشکسا وزور رد اهل الطغنا مدعا انوشتم که رد لاهل الطغنا</p>
<p>تقریظ و تزیین از تمام طبع کتاب استغاب حجۃ البیضا فی رد اهل الطغنی از اوطان و بلدان رسیده از تاریخ طبع علماء عظام مسالوت کرام و شایخ فقام لهم الله تعالی یوم یقیم شکر حضرت باریکوتی فی مسالوت و الکرامات تعالی بجای رایج نوع لبسان و قلم میان او کرده میگویم که بجای خیریت عزت داین باغ از تمام و اکرام مال کلام سرور و زور دارا و اندر اوف بالعباد بجز مته المنی صلی الله علیه و سلم و الله الامجد ولی یوم القیام</p>	
<p>تقریظ اول بعد از شریف و از السلام از جناب ولایت تاب سالانه السادات اکرام عمده انبیا و العظام معظمان و مکر مناس</p>	

السلام

۱۱

تقريرا من
بغداد راسلنا

اشيخ السيد محمد القادري نقيب اوجه مولينا ومظننا وكرنا الشيخ السيد محمد صالح نقيب اوجه علمه لرحمة ربه است
السلام التام والثناء المستدام بمنزلة المودة والاكرام الى المحب الا شيم والمخلص الصدق
الاجل الاكرم خليفة المولوى محمد مريد محي الدين القادري المحترم سلمه الله تعالى من كل امر
بحرمة سيد المرسلين والحمد صلى الله عليه وآله وسلم انك عينا السلام السؤل عن خاطر كرم العاطف
وعنا بفضل الله تعالى وببركة الاجداد لم نزل بخير وعائفة ولا نماند عوا الله لكم وبالمسلمين في الاوقات
التي نحن فيها جدا ومولينا قطب الدار الثمينة الغوث الرباني قدس الله سره النوراني بالخير والسرور واسئله
تعالى بجاهه ان يوفقنا واياكم للخير وما يحب ويرضاه آمين ثم الباعث التحريك تاب المودة والدمع
هو بيننا نحن نترقب اخبار رسالتكم والجميع من الاجاب اذ وصل اليك انك اياكم بالبروخ من شهر ربيع الاخر
فقرنا مسرورين لما طرقت سمعنا من اذبح فيه بغيره ورفا وهو طبع الاجز من حجة البيضاء
ارسالكم مقدرا من الاجزاء الاستانبول بمعرفة عننا السيد محمد سيف الدين افندي والى جناب
مفتي الاسلام بجاه السيد كرم افندي فضلا مسرورين بذلك منكم شكر الله سعيكم والاجزاء
التي ارسلتها التاسعة اجزاء سيد ميلن شاه افغانى وصلت امنة فاطمنا عليها فوجدها
مملوءة بالعبارات الرائقة المشتملة والردي على التكرين اللام على نسب غوث الامام ولبنات ذلك
بالاسانيد من كتبه الائمة الاعلام لله دهر من كتاب جاز صفة هذا النسب الشريف واخر كيد
الحاسد الكسيف بخير كرم الله تعالى خير الجزاء وثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة
وملغتم من انكم ارسلتم من مطبوع كتاب حجة البيضاء الى جناب نقيب الاشراف سيد عبد الله
افندي وتشلون انه وصل له املاء وصل اليه وكثير صار يحفظون من همتكم وداعى اليكم قلنا
له يكتب لكم جواب فقال لي كتب الى مولوى محمد مريد محي الدين السلام منى وانشاء الله اكتب له
جواب فغادى وقت صار يكتب انشاء الله تعالى ويهديهم جزيل الدعوى والسلام عليكم وعلى
جميع من سئل عن امن المرادين المحبين هدى بهم جزيل الدعوى والسلام وذي قعد سئله
الداعي كيان زاده خادم سجاد جدي السيد محمد حامد القادر محافظ الرشيد پير
السيد محمد صالح عليه الرحمة نقيب زاده - **الطبعة الاولى**

تقريرا الثاني من بلدة استانبول وصل لي كتاب من جناب سلاطة السادات الكرام
عمدة البجاء العظام قدوة السالكين مولينا سيد سيف الدين افندي سلمه الله تعالى ابن
مفتي الاسلام سيد محمد تقى افندي سلمه الله تعالى اصل مكتوب حضرت العالم الفاضل

تقريرا الثاني من
استانبول

مقام ربه جنتان ذواتا انسان گزید و فیها عیدان تجردان و فیها من کل فاکهه زوجان سبحان انشا
 چه کمالی است که ازید بیضای موسوی ضیای دارد و یازدم سیمانی که اسرار باطنش فیها فاکهه و الفحل
 ذات الاکمام و الحبذ و العصف و الریحان و انوار معانی فیها ناصرات الطرف لم یطشهن
 انزل قبلهم ولا جان و هر فصلش مرج البحرین یلتقیان بدینها برزخ کلابیغیان و هر کلمه اش بیخچ منها
 اللؤلؤ و المرجان و هر نقطه آن نکته کافن الباقوت و المرجان و نوک نوک بیخچ و خم روش مد هامتن و
 در شان و نشان جامع و مؤلف گو با خلق الانسان علمه البیان صادق و بر ارتباط و انضمام تالیفش نموده نشان
 وضع المیزان و اثرش و تصحیح آثار لفظ مضرت علم ابرار آن انورج هو و مقصودات فی الحیام قلوب و نیات
 صامد بنیدگان مبشره به فیها خیرات حسان و معتقدان اکابران او بر یاد کوره کتاب متکلمین علی
 فریش بطائنها من استبرق و جبا البختین دان و یا متکلمین علی و رفیق خضره و عبقره و حسان
 فبائی آلاءه و کما تکن بان تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام زیاده او بعد مسأله حکم بنا کما گویند
 ۲۰ شعبان ۳۱۰ هجری قمری ^{در شهر تبریز} قطعه تاریخ بیوم اتمام طبع کتاب مستطاب حجة البیضا از تاریخ طبع سلیم و فکر
 عظیم جامع العلوم و الفهم صاحب الارشاد و السیاد خواص صاحب بر صوف سلمه الله تعالی الی یوم التیادانه ارفد بالعباد
 قرالدرین حجة البیقین پیشوای فقهاء رسد اصفا صافی بنیاد صوفی اعتقاد و مقسب طریقت مروج شریعت عمده محققین
 صفوه مدققین مولوی حاجی محمد مریدی الدین متع الله به المسلمین آمین مفاد صفا اخلاص افانسه شما اسم مولوی ضعی
 محمد علی سید ااسما که از دفر صر که کشورن نام او بود و کشتار حقایق کن اسرار او داد و در تاریخ حجة البیضا ملفوف
 است حسب استرضای آن امام اقیابا باشد مرطوب که زیاده ترفیق رفیق ما و شما با او از دعوات صالحات و اموشی نازنه
 والسلام اوله و آله و ذر و ذر او باطن ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰

<p>حجة البیضا کتاب مستطاب با صواب شیخ عبدالقادر جیلان که شد جمله جهان عالم دین عارف حق نام محی الدین مرید خواست از سن بهال تاریخش با خلاص داد دل سمیاد ز بهر سالش باز پر سید از روش</p>	<p>در شنای غوث اعظم قطب عالی ذی لباب مستهد بارگاهش و از جنبایش فیضیاب کرد طبع و داد عالم را بدایات عجاب تا که اندر اجر مانم در شنای آن جناب بی بدیل و حجة البیضا آمد در جواب</p>
<p>ایضا در صفت تو شیخ و صیده طبع و از ایشان سلمه</p>	
<p>م مخزن اسرار علوم علیم</p>	<p>م معدن انوار صفات قدیم</p>

در نسخه اول ۳۱۰ هجری قمری
 در نسخه ثانیه ۳۱۰ هجری قمری
 در نسخه سومی ۳۱۰ هجری قمری

۲	ح	حامی احکام رسول کریم	۲	ح	حامد و محمود بزرگ خدا
۳	م	مورد الطاف رؤف رحیم	۳	م	ماجی هر بدیع از شمع نبوی
۴	د	دائم در ذکر خداستقیم	۴	و	دادود راهب بر طالبان
۵	س	سفره اسلام گشاده عظیم	۵	م	مخلص هر صاف دل و نیک خو
۶	ع	علم گشا و طبع بر جسم	۶	ر	رشک نزار ادب عالمان
۷	ی	یاری بخشید به نعمان عظیم	۷	ی	یانت ز قرآن خشم روز را
۸	د	دهر حسین کرد به پیشش و سیم	۸	د	دولت افتاب بگلش روان
۹	و	ورد ناهجر و خفی مستقیم	۹	م	مصدر انفصال نری صفویان
۱۰	ط	طوطی طیب به بشریت کلیم	۱۰	ح	حاجی عرفات بفرقان جان
۱۱	ن	نخ فنگن در نذیب با رتیم	۱۱	ی	یوز دل بیشه فترا و دهی
۱۲	ل	لال زبان پیشش کام لیم	۱۲	ا	اسعد دوران و حید زمان
۱۳	و	وانی اخلاص بحان سلیم	۱۳	ل	لطم زن بدعی لاف زن
۱۴	ا	انسر ابدار بفرقش مقیم	۱۴	د	دست فنگن جبل متین بهار
۱۵	ر	رخت نهد روضه دار النیم	۱۵	ی	یافت کس از صحبت او فیضیا
۱۶	ی	یا ورا و غوث چنان شد صمیم	۱۶	ن	نامی نامش بود احیاء دین
		پیش کشش با دینک نظیم			بدین تسلیم و در عا و صفا

ایضا تقریظی بحکم از تاج عقل عظیم و طبع سلیم جامع العلوم منبع الفهوم حضرت قیوم زمان و قطب دوران مولانا و معظنا حضرت خواجه صاحب اعلی مراتب زادیم الله تعالی فیوضاتیم و برکاتیم و کراماتیم رسیده است از نواری حوسه الله الباری و شربت نسب شریف سیادت حضرت غوث الثقلین کریم الطرفین حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه اصل مکتوب شریف که مشتمل بر شربت نسب شریف و تقریظ مشربست این ست عبارات آن با سوره شانه فر العلاء حبه الفقها طره عماده دین متین طرانه مستعین و فضل و مقین مولوی محمد ربیع الدین مت الله علیه اسلمین آمین التسلیم واجب تقدیم نوشته اند که نام شافعی که نسبت فقیر میگوید که حضرت غوث اعظم را قدس سره شیخ عبدالقادر نوشته اند و نگید عبدالقادر را زین کلامش تعجب بر تعجب از و سبحان الله فقیر که کتاب جمعه البیضا را می نماید و صواب میداند برای اثبات نسب شریف سیادت حضرت غوث قدس سره می نماید و چندین اکابران اولیای گذشته که بر قبه جان خود رفته عقیدت انداخته اند محض بر عایت شرافت نسبت صورتی و معنوی اوست قدس سره حضرت خواجه علی بن ابی طالب

ایضا صاحب
الغیور و
میراث شریف

سردی زانغ مقلضی به سرود فرمود ای سلطان عبدالقادر است که در عطا بجز سخا کان جیاش کما کما به شمس الضحی بدهد بجز سلطان
 عبدالقادر است. انماض الله علینا وعلیکم وعلی جمیع المستقیمین من فی خلقه ربکاته بطلان این خادم طریقت وشریعت ودرآمد
 هزاران هزار شکر از واحد یکجا آورده و حجت تطوفها دادانیته لانتع فیها الاغنیة فیها عین جادیه و بر بر فضل این طرف را
 مقبول افتاد و غبار شتابه تقریرهای فزونی از الله بجا آورد بجهان از دلها بی مضافان بر داشته که هر یک از آنها بر او بر نعمتها
 هو الامم الذی اصطفاه الله تعالی بالکمالات العلیة وعلیة ووقفه علی مثل هذه التصنیفات العجیبة والغریبة گردیده و فقه در کم
 وعلی الله بجز که حجت سلطه فی سبک الافاضان و جانتهم عن سبیل الاعتساف و تقریر امین المغول حجت شید تم معانی تقریر
 بالاصول و زینت معانی تقریر به بافضل منوالی بان تکتب بهما و التور علی خود و در امور فیه نور علی نور حسب الله و نعم
 الکریم کل لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظيم و صلی الله علی سید المرسلین و علی آله و اصحابه الراضین و جمیع الیوم الدین و السلام
 حسن التمام کتبه الفقیر الی الله المذنب محمد علی المهرس بدار الارشاد القادری حرره با الله الباری بقر فی طبع هشتم و تاریخ چهارم
 از تمام طبع حجة البیضا فی رد اهل الطغی از جمله کتبه از تاریخ طبع سلیم و فکر عظیم جناب مستطاب سلامت السادات الکرام عمدة قرنها
 العظام شفق کریم مولانا حاجی سید قاسم حسینی القادری کشمیری عالم کلمتی بسم الله الرحمن الرحیم محمد شید الذی انعم علینا
 نعمه الایمان و العرفان و من علینا بقره الیه بسطة اجابة و اولیایه بالجور و الاحسان و الصلوة و السلام علی رسول محمد صید
 الخصال من الملائکة و المجران و علی آله و اصحابه الذین هم خیر الامم و الاشداد و الاصلح و التابین و التابین خصوصاً من التابین
 امام الهمام سراج الامة و الدین مولانا ابی حنیفة النعمان رضی الله عنه و من تبهم باحسان سیاسیة یا وسنة ناسیة لا و لیس او
 سلطان الفخار مولانا شیخ السید ابی محمد الیوم سید القادر حلیانی کنی محسنی قدس سره و المولانی فیج الشان و بعد فای مولانا اعظم
 و اولیایا الکرام جامع المقبول و المقبول الغرض و الاصول المحمودة الهمام قدوة العباد الکرام مع اعلام الشریعة الذی فی الاسلام
 سلطان الافاضل برهان الطرق الی قریة الله تعالی و الی سنة رسوله صلی الله علیه و سلم و قاصع الیقات و الهوی و المبتدعین
 امینی مولوی حاجی محمد رفیع رحیمی الدین المذنب القادری الغفوری اششندی حفظه الله رب العالمین قد الطبع کتاب حجة البیضا
 فی رد اهل الطغی الذی الله و صنفه و جمیع من الکتب المقربة و اقوال السلف الصالح المقتد فی هذا الزمان و هو کتاب لم اجابنی
 به المصنف فظنیه و منکره و ما در فیه حق و صحیح جمله الله من شر الزنائب جزاه الله فی الدارین خیر اما تاریخ خاتمة الطبع منظوم عربی
 افضل العباد فی هذا الزمان افقه الفقهاء ذو عزم و شان و هو نعم العلوی فلک القدی صدره با البقین بدر الدجی
 حجة البیضا کتاب لاجاب اصنف و الابل الازنیاب قیل للتاریخ بالفهم الذکی اظهر الله بها الحق یا احمی
 بقر فی طبع هشتم و تاریخ پنجم از تمام طبع حجة البیضا فی رد اهل الطغی از تاریخ طبع سلیم مرغوب و محبوب بحب اولیای الله التابین
 جامع المقبول و المقبول قدوة الحقیقین زبدة المدققین کریمی قاضی غلام محی الدین القادری سلمه الله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم

از اهل
حجة البیضا
بقره

تاریخ
تقدیر

الحمد لله الذي ميز عصابة الشبهة بالاصابة والفضوة السبين واثره مطا الحق بالهداية الى دعائم الدين ودفنهم للملاقاة بسيد
 المرسلين صلى الله عليه وسلم وسددهم للناسي ناله الطيبين واصحاب الطاهرين وليهم ليرحم الله ائمة السلف الصالحين وحمل
 اجماعهم حجۃ ببيضا من اتوى حج الشرح المتين ثم جعل لهم ذرية يتقربون بعلمهم وشرعهم من العلما والارستقنين والادباء والعلماء
 فكلما نزل بهم طائفة على الحق قائمين لا يضرهم من خذلهم من اهل الظن والمارقين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين
 وشفيح المذنبين وعلى اهل الصواب والادب والارادة وعلما وشريفة اجمعين سيما سيدنا وسيدنا الشيخ محي الدين ابو محمد سيد عبد القادر
 المحمدي الحسيني ابو عبد الله المكيين الامين ابو عبد الله مؤدب وشرائط باورشا القنين زاد تشدان وناظرين الاضواء سيدان والذو
 ايام سلوات انجام حجۃ البیضا فی رد اهل الظنی مطبوع شد الحق این کتاب بی نظیر و در حقیقت لاجواب اول بند است
 تو صیغش را ضرورت بیان و تعریفش را حاجت بیان ذکر آنگاه تا بان از وصف و اصفاف مستغنی است زیرا که خود اوصاف
 آن بید تعریف صاف زبان گفته اند و لغات آن تو صیغش هزاران بیان دانوده اند و تیر و در صفت و مزاج عالم
 العامل والمصدق الفاضل والمحقق الكامل زاهد الاسلام المسلمین کاسر سائق المبتدین الولوی محمد رید محی الدین
 المحمدي القادری الغفوری النقشبندی و اما الله قد وضعهم في شك و دین کتاب فیض انساب و اولاد و اواده اند و دست
 عظمی جمیع اهل اسلام بموید و بر شتابان و مردمان طریق طایفه عالی قادر و خصمه صفا نهاده اند جزایم الله خیر الجزاء و دقتهم
 بما یحب و در ضعی و جعل سعیر مشکوک و اوجرتهم مرفور آیین تم آیین تاریخ اضماتام طبع کتاب شرح فیض مذکور - نظریات حجۃ
 بجز آن کتابی گشت مطبوع

<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>	<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>	<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>	<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>
<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>	<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>	<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>	<p>مسی حجۃ البیضا چه بیضا سوار تهای ابرین او نماید میخانه دوزمان از سر و برع زود که باست بیرون و صفتش از فیض این کتاب روح افزا چه فیض محی الدین جاری شد بتارکشش کتاب فیض از گور غلام محی الدین</p>

مسی حجۃ البیضا

مسی حجۃ البیضا

مسی حجۃ البیضا

۲۹۷۶۷۷

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔
